



مقالات فریدی

حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی امر وی کے مقالات
(جلد اول)

جامع و مرتب :
مولانا محب الحق

مقالات فریدی

حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی امر وہی کے مقالات

(جلداول)

جامع و مرتب

مولانا محبت الحق

استاذ جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امر وہیہ



ادارۃ ادبیات دلی ۵۸۰۳ صدر بازار دہلی

131256

جملہ حقوق بحق جامع محفوظ

مقالات فریدی	:	نام کتاب
مولانا محبت الحق (پروپی مدھونی بہار)	:	جامع و مرتب
فعال رہبر این مرغوب احمد امروہی و عبدالصبور (عبدالرحمن کپیوڈو گرافکس)	:	کپیوڈنگ
ادارۃ ادبیات دلی ۵۸۰۳ صدر بازار دہلی	:	ناشر
جید پریس ملی ماران دہلی	:	طباعت
۵۰۰	:	تعداد
۲۰۰۸ء	:	سن اشاعت
۴	:	قیمت
مدرسہ نسیم العلوم مسجد اناروالی، سرائے کہنہ، امر وہہ	:	ملنے کے پتے
دارالکتاب شیخ الاسلام روڈ (تل روڈ) محلہ ملانہ، امر وہہ		
مدنی کتب خانہ نزد جامع مسجد، امر وہہ		
الفرقان بک ڈپو ۳۱۳/۱۱۳ گاہن نظیر آباد کھنؤ		
ادارۃ ادبیات دلی ۵۸۰۳ صدر بازار دہلی ۶		

محمد احمد نے ادارۃ ادبیات دلی کے لئے جید پریس ملی ماران دہلی میں چھپوا کر شائع کی۔

ترتیب

۴	: جامع و مرتب	افتتاحیہ
۱۴	: مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی	ایک صاحب کرامت محقق
۱۷	: مولانا زین العابدین استاذ جامعہ مظاہر علوم	کلمات چند
۱۸	: جنید اکرم فاروقی امروی	تعارف
۲۱	: جامع و مرتب	مولانا مفتی نسیم احمد فریدی امروی
۲۳	:	شیخ عبدالحق محدث دہلوی
۳۰	:	امروہہ کے چند اکابر خاندان چشتیہ صابریہ
۶۵	:	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان
۷۲	:	ہندوستان میں علم حدیث انیسویں، بیسویں صدی میں
	:	ساتی نجانہ توحید و معرفت جانا بزمِ معرکہ جہادِ شامی
۸۳	:	شہید راہ حق حافظ محمد ضامن شہید
۱۰۱	:	آفتاب علم و عرفان شیخ محمد فاروقی تھانوی
۱۳۱	:	حضرت مولانا نانوتوی کی شاعری
		تمکات
۱۴۲	:	(حضرت نانوتوی و حضرت شیخ الہند کے غیر مطبوعہ کتابیں)
۱۴۷	:	حضرت محدث امروی اور مرزا قادیانی
۱۶۳	:	آثار شیخ الہند
۱۷۹	:	نجانہ قاسمی کا ایک جرمِ نوش (۱۱۰۲ء نسیم احمد فریدی امروی)
۲۰۳	:	حضرت نانوتوی کی آخری یادگار (مولانا حافظ عبد الرحمن امروی)
۲۱۹	:	آزاد کی کہانی نقد و نظر کی کسوٹی پر

افتتاحیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

فہرست تالیفات شیخ (حضرت مولانا محمد زکریا سہارنپوری مہاجر مدینہؒ) کے شروع میں مولانا سید محمد شاہزید مجدد ہم نے "ایاز! قدر خود را شناس" عنوان قائم کر کے تالیفات و تصنیفات کی اہمیت و ضرورت پر جو تحریر کیا ہے اس کو کچھ ترمیم کے ساتھ اس کتاب "مقالات فریدی" میں شامل کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔

"اس برصغیر میں علماء اسلام و مشائخ کرام کے قلم سے علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت اور تصنیفات و تالیفات کے ذریعہ علم دین کی خدمت جس قدر وسعت اور ہمہ گیر طریقہ پر ہوئی ہے اس کا احاطہ تو دور کنار تصور کرنا بھی مشکل ہے اس دائرہ کو اگر زیادہ وسیع کر کے عالم عرب کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر معاملہ کہیں سے کہیں جا پہنچے گا اور یہاں بھی قرآن پاک کی آیت "ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام و البحر یمدہ من بعدہ سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ" پڑھ کر اعداد و شمار سے عاجزی اور بے بسی ظاہر کرنی پڑے گی اس لئے کہ اسلام کی گذشتہ چودہ صدیوں میں پیدا ہونے والے محققین اہل علم کی تالیفات و تصنیفات دنیا کے چپے چپے پر قائم کتب خانوں لائبریریوں اور علمی و مطالعاتی اداروں میں آج بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں جس سے تشنگان علوم اپنی علمی پیاس بجھانے میں مصروف ہیں۔

تحریر کے ذریعہ دین و مذہب کی خدمت اور اس کی آبیاری اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے اس سے قبل کے ادیان و ملل کی تاریخ اس نوع کی جدوجہد سے خالی ہے اور پھر یہ بھی نہیں کہ یہ جدوجہد تاریخ کے کسی عہد میں ہوگئی ہو اور کسی عہد میں نہ ہوئی ہو بلکہ تاریخ کے ہر دور ہر قرن اور ہر عہد میں تو اترو تسلسل کے ساتھ قلم علم سے مربوط ہو کر چلتا رہا اور علم قلم سے اپنا رشتہ قائم کئے رہا اور پھر ان دونوں کے حسن اشتراک سے ایسی بیش بہا کتابیں وجود میں آئیں جس نے نسل انسانی کو روشن ضمیری عطا کی اور کائنات میں غور و فکر کے

مواقع مہیا کر کے اس کو خالق کائنات سے قریب کیا۔“

زیر نظر کتاب بھی ایک ایسے ہی عالم دین اور صاحب قلم شخصیت کے سیکڑوں مقالات میں سے چند مقالوں کا مجموعہ ہے جن کی علمی و قلمی کاوشوں سے بہت سے پوشیدہ گوشے منصف شہود پر آئے اور اس سے تصنیف و تالیف اور تحقیق کا ذوق رکھنے والوں کو کافی مدد ملی اور تقریباً پچاس سال سے زائد عرصہ تک برصغیر کے مختلف موقر رسالوں میں قلمی خدمات انجام دیں اس صاحب قلم دینی و مذہبی شخصیت کا نام نامی اسم گرامی مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی امر وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و قلم کا عمدہ سلیقہ بچپن ہی سے ودیعت کیا تھا بلکہ تصنیف و تالیف اور تحقیق و تنقید کا ذوق آپ کے خاندان اور خاندان کی دیگر شاخوں میں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اگر شیخ احمد مجدد الف ثانی سرہندی اور ان کے خانوادہ کونیز صاحب ”شمس بازغہ“ ملا محمود فاروقی جون پورٹی، صاحب ”شرح سلم العلوم“ قاضی مبارک فاروقی گوپاموٹی، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ فاروقی مہاجر کی، شیخ محمد محدث فاروقی چشتی تھانوی اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی تصنیفات و تالیفات کو بھی شامل کر لیا جائے تو دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا یہ تمام حضرات فرخ شاہی فاروقی ہیں اور مزید اوپر جا کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خانوادہ کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو یہ دائرہ وسیع تر ہو جائے گا اس لئے کہ ان تمام حضرات کا سلسلہ نسب حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم پر متصل ہو جاتا ہے۔

مولانا فریدی کے دادا کے برادر معظم مولوی ارشاد علی فاروقی مرحوم نے متعدد کتابیں تصنیف کیں خصوصاً ”بیر المدائح، بیر النصائح، بیر الاشیاء، مصدر ارشاد اور انشاء ارشاد“ مشہور و معروف ہیں اور یہ تمام کتابیں اس زمانے میں مدارس میں داخل نصاب تھیں اور ان کے علاوہ ”فرہنگ ارشاد، منتخب چراغ ہدایت، کتاب النصائح“ بھی لکھیں۔

بعد کی کڑیوں میں آپ کے خواہر زادے پروفیسر خلیق احمد فاروقی نظامی مرحوم و اُس چانسٹر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، سفیر شام اور برادر زادے ڈاکٹر ثار احمد فاروقی مرحوم صدر شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی دہلی

ہندوستان کے مایہ ناز صاحب قلم اور ادیب تھے۔

مولانا فریدی کی پوری زندگی علم و قلم اور درس و تدریس کے لئے وقف تھی وقات تک آپ کا قلم جاری و ساری رہا ماہنامہ ”الفرقان“، لکھنؤ میں لکھے ہوئے مضامین میں سے کچھ مضامین کتابی شکل میں آگئے ہیں آپ کی تمام کتابوں نے اپنی افادیت کے لحاظ سے شہرت دوام حاصل کی ہے۔

خصوصاً ”تجلیات ربانی“، مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی کا ترجمہ اور تلخیص۔

حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات کو عربی، ترکی اور اردو میں پیش کرنے کی کوشش مختلف حضرات نے کی ہے لیکن ان کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی تجلیات ربانی کو حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے کہ ان مباحث کو چھوڑ دیا گیا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں بلکہ مفید مطالب و مباحث کو نہایت دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے جس سے حضرت مجدد الف ثانی کی فکر اور ان کے عظیم کارناموں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ مکتوبات ماہنامہ الفرقان میں چھپا لیس قسطوں میں پہلے شائع ہوئے ہیں۔ بعدہ کتابی شکل میں مکتبہ الفرقان سے دو جلدوں میں طبع ہوئے۔ اگر تجلیات ربانی میں سے مولانا فریدی کے نام کو حذف کر دیا جائے تو پڑھنے والوں کو یہ محسوس ہوگا کہ حضرت مجدد الف ثانی نے خود یہ ترجمہ کیا ہے۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی بانی ماہنامہ الفرقان لکھنؤ تجلیات ربانی کے حرف آغاز میں ارقام

فرماتے ہیں:

”مولانا فریدی نے بالکل اسی انداز پر جو اس عاجز کی آرزو تھی مکتوبات کے تینوں دفتروں کی تلخیص و ترجمہ کا کام انجام دیا ہے۔ اس حقیقت کے اظہار میں ذرہ برابر بھی تواضع اور کسر نفسی نہیں ہے کہ اگر میں خود یہ کام کرتا تو ہرگز ایسا نہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا فریدی کو ایسے کاموں کی خاص صلاحیت بخشی ہے۔“

مکتوبات خواجہ محمد معصوم کا ترجمہ و تلخیص:

”یہ مکتوبات خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات کے تینوں دفتروں وسیلۃ السعاده، درۃ التاج اور مکتوبات

معصومیہ کا عطر ہیں۔ ان مکتوبات کا ترجمہ و تلخیص ماہنامہ الفرقان میں ۲۲ قسطوں میں پہلے شائع ہوا پھر ۱۹۶۰ء

میں کتابی صورت میں منصفہ شہود پر آئے۔ اس سے پہلی مرتبہ خواجہ صاحب کی فکر، مجتہدانہ کارناموں اور دینی بصیرت کا اندازہ ہوا۔ مولانا فریدی نے خواجہ صاحب کی فکر کو جس انداز میں اجاگر کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔

تذکرہ خواجہ باقی باللہ، قافلہ اہل دل، تذکرہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، نادر مکتوبات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مکتوبات اکابر دیوبند، ہندوستان کا سب سے پہلا سفرنامہ حجاز (نواب مولانا رفیع الدین خاں فاروقی مراد آبادی کا سفرنامہ حرمین ۱۲۰۳ھ تا ۱۲۰۱ھ)، تذکرہ شاہ محمد اسماعیل شہید، شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی سلسلہ ولی اللہی کا ایک مکتام و رویش، تذکرہ شاہ عبدالرحیم ابوالرضا عمر، تذکرہ خلفاء شاہ عبدالرزاق چغتھانوی، وصالیا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، فرائد قاسمیہ، مکتوبات سید العلماء وغیرہ شائع ہو چکے ہیں۔

احقر کی ایک عرصہ سے تمنا تھی کہ آپ کے مقالات کو یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کیا جائے، تاکہ صاحبان اہل قلم و علم اور صاحبان تصانیف کے لئے تحقیق و جستجو میں مدد ملے۔

اس کتاب میں مولانا فریدی کے ”تیرہ مقالے“ ہیں جو ماہنامہ ”دارالعلوم دیوبند، ماہنامہ تذکرہ دیوبند، ماہنامہ الفرقان لکھنؤ، ماہنامہ تاج لالہ اور اور ماہنامہ برہان دہلی“ میں شائع ہوئے تھے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر مولانا سید ازہر شاہ قیصر مرحوم نے حضرت نانوتوی کی شاعری، حضرت نانوتوی اور حضرت شیخ الہند کے غیر مطبوعہ مکتوبات اور حضرت نانوتوی کی آخری یادگار، مقالوں اور مقالہ نگار کے متعلق جو ارقام کیا ہے اس کو بھی یہاں نقل کر دیا جائے جس سے مولانا فریدی کی علمی و تحقیقی جستجو سے قارئین کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ مولانا کس محنت و لگن اور عرق ریزی سے مضامین لکھا کرتے تھے تاکہ ہم جیسوں کے لئے مشعل راہ ہو۔

حضرت نانوتوی کی شاعری پر قیصر صاحب مرحوم رقمطراز ہیں:

”برادر مولانا فریدی کے متعلق اگر میں یہ کہوں کہ ان کی زندگی متضاد صفات و خصوصیات کی حامل ہے تو اس میں کسی شاعرانہ اور خطیبانہ مبالغہ کا دخل نہیں ہوگا اپنی شکل و صورت اور ظاہری انداز و اطوار کے لحاظ سے وہ مہذب و مہفت انسان ہیں جنہوں نے درس و تدریس تبلیغی جماعت اور قومی کاموں کے لئے خود کو وقف

کر دیا ہے لیکن کچھ دیر ان سے گفتگو کیجئے تو معلوم ہوگا دین و دیانت کے اس سبزہ زار میں جا بجا شعر و ادب، علم و تحقیق اور فکر و نظر کے ایسے سدا بہار پھول بھی کھلے ہوئے ہیں جن کی رنگارنگی، تازگی اور دلکشی گلچیں کو بے ساختہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ رع گلوں کی جانب تو دست گلچیں بڑھا کئے ہیں بڑھا کریں گے

مولانا فریدی نے حضرت نانوتویؒ کی باکمال زندگی کا ایک بالکل نیا رخ پیش کیا ہے اور یہ رخ مولانا کے تقدس، بزرگی، زہدانہ زندگی اور مجاہدانہ شغف سے بالکل جدا ہے مگر حیرت ناک نہیں اس لئے کہ۔
در کئے جام شریعت در کئے سندان عشق ☆ ہر ہوسنا کے نداند جام و سنداں باختر
مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنی سعی میں کامیاب ہوا اور مولانا فریدی سے اتنا اچھا مضمون رسالہ "دارالعلوم" کے لئے حاصل کر سکا۔

"تبرکات" حضرت نانوتویؒ اور حضرت شیخ الہندؒ کے غیر مطبوعہ مکاتیب پر قیصر صاحب راقم کرتے ہیں: ہم رسالہ "دارالعلوم" کے خاص مضمون نگار مولانا نسیم احمد صاحب فریدی کے ممنون ہیں کہ ان کے تحقیقی اور تاریخی ذوق و شغف کی بدولت ہمیں حضرت مولانا نانوتویؒ اور حضرت شیخ الہندؒ کے چند غیر مطبوعہ مکاتیب اشاعت کے لئے میسر آئے یہ قیمتی تبرکات ہیں جنہیں ہم بڑی خوشی کے ساتھ رسالہ میں شائع کر رہے ہیں۔
تینوں خطوط جن حضرات کے نام لکھے گئے ہیں ان کا تعارف مولانا فریدی صاحب نے اپنے حواشی میں کر دیا ہے حضرت نانوتویؒ کے خط میں جن مولانا محمد علی صاحب کا ذکر ہے ان کے متعلق فریدی صاحب مدیر رسالہ کو اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ:

مولانا محمد علی جن کا ذکر اس خط میں ہے ان کا حال معلوم نہ ہو سکا میں ان کے حالات کی جستجو میں ہوں غالباً "تحدیر الناس" کے شائع ہونے پر چاروں طرف سے جو اعتراضات کی بارش ہوئی ہے اسی سلسلہ حضرت نانوتویؒ کے تمیز رشید قاسم ثانی سید العلماء، مولانا سید احمد حسن محدث امرتویؒ نے مولانا محمد علی کے اعتراض کا جواب دنداں چمکن دیا ہے اور حضرت نانوتویؒ نے مولانا عبد القادر بدایونی کے اعتراض کا جواب جامع و مسکت دیا ہے اس مجموعہ کا نام "تحدیر الناس" بر اعتراض تحدیر الناس ہے۔ یہ قلمی خطوط پھلا دودھ میں ہے۔ احقر نے مولانا فریدیؒ کو پورا مخطوط سنایا ہے۔ اس مخطوطے کا ذکر مولانا فریدیؒ نے فریاد قاسم کے مقدمہ میں بھی کیا ہے۔ مولانا محمد علی پھر ایوں کے رہنے والے تھے۔ یہ مردم نذر قصبہ اس وقت مراد آباد میں شامل تھا اب ہے۔ بی بگرام روہ سے متعلق ہے۔ (محب الحق)

میں مولانا محمد علی بھی بولے ہوں گے، غالباً حضرت نانوتویؒ اور ان کے تلامذہ نے جوابات دیئے ہیں بعض جوابات پھلاوہ میں ہیں یہ مولانا محمد علیؒ مناظر ضرور تھے اور حضرت نانوتوی سے ان کے اچھے مراسم تھے اور غالباً ضلع بجنور یا مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ آئندہ میں ان سب باتوں کی تحقیق کر کے ایک مضمون لکھوں گا۔ حضرت نانوتویؒ کی آخری یادگار مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی مفسر امر ویٹی پر تحریر کرتے ہیں:

سن تو مجھے یاد نہیں، غالباً سترہ رسولہ (۱۶۱۷) سال پہلے کی بات ہے، اباجی (حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیریؒ) کے انتقال کے بعد جب پہلی دفعہ ڈابھیل گیا تو اس کمرہ میں جہاں اباجی اور ہم رہتے تھے ایک نئے بزرگ نظر آئے بہت سن رسیدہ، ضعیف و کمزور مگر بے حد زندہ دل، سادہ لوح اور طبیعت کی سچائی کے لحاظ سے قدیم بزرگوں کا اک جیسا جاگتا نمونہ، ان کی مجلس میں مدرسہ کے اساتذہ، طلباء اور شہر کے لوگ بھی جمع رہتے اور رات بارہ بارہ بجے تک یہ مجلس قائم رہتی۔ مولانا کی بات بات میں نکتہ ہر موقع پر اشعار اور لطائف و حکایات کا انبار ہوتا تھا۔ ملنے جلنے اور ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ رہتے اتنی بے تکلفی کے ساتھ کہ نہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم میں اور ان میں عمر کے اعتبار سے ایک دو نسل کا بعد ہے اور نہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے عالم اور ان کے مقابلہ میں ہم جاہل محض ہیں۔ مولانا کی عادت تھی کہ وہ اپنے چھوٹوں، نیاز مندوں اور خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتیں اتنی دلچسپی اور انہماک سے سنتے تھے کہ گویا اک چھوٹا اپنے کسی بڑے کی بات سن رہا ہے۔ میں اس زمانے میں جامعہ ڈابھیل کی مسجد میں طلبہ کو گھیر گھاڑ کر اول فول تقریریں کرتا تھا مولانا میری ہر تقریر میں تشریف لاتے صف اول میں بیٹھتے اور اتنی بشارت کے ساتھ میری ادھر ادھر کی باتیں سنتے کہ گویا کوئی بڑا مقرر تقریر کر رہا ہے۔ ان کی مجلس کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ اس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہو سکتی تھی جب وہ کسی دوسرے کو غیبت کرتے پاتے تو فوراً ٹوک دیتے اور منع فرما دیتے تھے۔

تفسیر و حدیث کی مسند درس پر ان بزرگ کو پایا تو علم و فضل کے بحر ذخار نظر آئے تفسیر و حدیث کے اونچے اونچے مسائل کو چند لفظوں میں یوں سلجھا دیتے تھے کہ دوسرے گھنٹوں کی تقریر سے بھی اسے اس طرح ادا نہیں کر سکتے تھے یہ مولانا عبدالرحمن صاحب امر ویٹی تھے۔

حضرت مولانا نانوتویؒ کے شاگرد اور ان کے علمی و باطنی کمالات کی آخری یادگار زہد و تقویٰ کا ایک ٹٹمٹا ہوا چراغ اور مشرقی تہذیب و تمدن کی ایک دم توڑتی ہوئی شمع۔

حضرت مولانا نور شاہ کشمیریؒ کے انتقال کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی جامعہ ڈابھیل کے صدر مدرس بنائے گئے تھے اور مولانا عبدالرحمن تفسیر و حدیث کے اعلیٰ استاذ کی حیثیت سے ڈابھیل بلائے گئے تھے۔ راقم الحروف کو دو ڈھائی سال مولاناؒ کے قریب رہنے کا اتفاق ہوا جنوں میں ان کی سیرت کا مطالعہ وسیع ہوتا گیا اسی طرح ان کی طبیعت کی نیکی، اللہ کی فطرت کی پاکبازی، ان کے علم و فضل اور وسیع اخلاق پر اعتماد بڑھتا گیا۔ مولانا مرحوم اپنی طبیعت کی معصومیت اور مزاج کے سدھلوٹ کے اعتبار سے اس دور کے نہیں اس سے بہت پہلے کے انسان تھے۔

وہ قدیم تاریخ کا ایک صفحہ تھے جو مجسم و متشکل ہو کر سامنے آ گیا تھا ایک مستقل دور کی حیثیت رکھتے تھے جو اپنے وقت پر شروع ہوا اور اپنے وقت پر ختم ہو گیا۔ حضرت نانوتویؒ کے نام و ذکر ان کے علوم اور ان کے کارناموں سے انھیں عشق تھا دنیا جہان کی باتوں کو گھیر گھار کر مولانا نانوتویؒ پر ختم کر دیتے تھے اور کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں مولاناؒ کا ذکر نہ آتا ہوج یہ ہے کہ بچپن کی ناگھجیوں میں مولانا نانوتویؒ کے مقام کا ایک نامعلوم اثر مولانا عبدالرحمن صاحبؒ ہی کی صحبت میں قائم ہوا۔

ایسے پاکباز اور سادہ دل انسان قدرت کی ایک گراں پایہ امانت کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے وجود اور کمالات کی روشنی میں گم کردہ راہ لوگوں کو اپنے مقاصد اصلی کی منزل تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔

مولانا فریدیؒ کا بڑا احسان ہے کہ آج کی صحبت میں انھوں نے یہ تذکرہ چھیڑا۔

ساقی قدم کے دو گلزار گذشت ☆ مطرب غزلے کے وقت گلزار گذشت

اے ہم نفس! از بہر دل زار گوئی ☆ افسانہ آں شے کہ بیار گذشت

”آزاد کی کہانی“ نقد و نظر کی کسوٹی پر رسالہ ”الفرقان“ کے سابق مدیر مولانا تھقی الرحمن سنبلی مقالہ

اور مقالہ نگار کے متعلق لکھتے ہیں:

”جناب مولانا نسیم احمد صاحب فریدی سے ناظرین ”الفرقان“ واقف ہیں انھیں مسلمانان ہند کی دینی اور روحانی تاریخ سے خاص شغف اور دلچسپی ہے۔ ”الفرقان“ کے پچھلے بیس سالہ فائلوں میں، ان کے قلم سے بزرگوں کے کتنے ہی تراجم و تذکرے اور ان کے ملفوظات و مکتوبات کے ترجمے نکل چکے ہیں جو ان کے اسی شغف کا عملی ثبوت ہیں پھر ان کے اس شغف کو سلسلہ مجددی اور خاندان ولی النبی کے بارے میں کچھ اور بھی خصوصیت کا درجہ حاصل ہے۔

اور ہندوستان کے طول و عرض میں اہل حق کی راہ کو عزیز رکھنے والا کون مسلمان ہے جو ان ہر دو خانوادوں کی ممنونیت کا احساس اپنے اندر نہ پاتا ہو؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ”مولانا آزادی کی کہانی“ (بروایت مولانا عبدالرزاق صاحب طبع آبادی) جب ان کے سامنے آئی جس میں ”مولانا آزادی زبانی“ ان کے والد ماجد کی طرف سے خاندان ولی النبی کے پاک و شفاف دامن پر بہت سے داغ دھبے لگائے گئے ہیں اور مولانا کے والد کے نانا کو اس خاندان کا شاگرد بتاتے ہوئے اس کے مسلک حق کا سرگرم مخالف دکھایا گیا ہے پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ دونوں حضرات گویا اپنے دور میں یکٹائے روزگار اور مرجع انام تھے تو مولانا نسیم احمد صاحب فریدی نے ان کے حالات و واقعات (مندرجہ ”کہانی“) کی تحقیق کا ارادہ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ مفصل تبصرہ تیار ہو گیا جو پیش کیا جا رہا ہے:

”مولانا آزادی نے (بروایت طبع آبادی صاحب) اگرچہ شاہ شہید وغیرہ پر لگائے ہوئے اپنے والد کے بعض الزامات کو خود ہی بہتان تک قرار دے دیا ہے اور اختلاف مسلک میں اپنے والد کی تائید نہیں کی ہے مگر چونکہ نہ الزامات کی کوئی باقاعدہ تردید کی گئی اور نہ ان کے مسلک کی غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا مزید برآں کتاب کے مطالعہ سے مولانا کے والد اور والد کے نانا دونوں حضرات کی بے پناہ علیت اور پاکہازی و روشن ضمیری کا سکہ قارئین کے قلوب پر جمنالازی ہے جس کے بعد خاندان ولی النبی کے مخالف مسلک کو قدرتی طور پر وہ علمی اور روحانی وزن حاصل ہوتا ہے جس سے وہ آج تک محروم رہا ہے اس لئے اس کتاب پر ایک تحقیقی تبصرہ کی ضرورت تھی ہمیں خوشی ہے کہ یہ کام مولانا فریدی امر وہی جیسے اہل کے حصہ میں آیا اور انھوں نے تحقیق و

کاوش کا حق ادا کر دیا۔

علاوہ اس خاص پہلو کے خالص علمی و ادبی نقطہ نظر سے بھی یہ ”تمبرہ“ ایک گراں قدر خدمت کی حیثیت رکھتا ہے جس کی داد اہل نظر ہی دے سکتے ہیں اور وہی اس کی ضرورت سمجھ سکتے ہیں۔

مونس مجہوراں جو حافظ محمد ضامن شہید کے حالات پر مشتمل ہے، کی دریافت پر مرتب ”تاریخ دیوبند و تاریخ دارالعلوم دیوبند“ سید محبوب رضوی مرحوم رقمطراز ہیں:

”مونس مجہوراں کا مخطوطہ مدرسہ صولتپہ ”مکہ مکرمہ“ کے کتب خانہ میں موجود ہے یہ مصنف کا اصل مخطوطہ ہے اس کی دریافت کا سہرا اقم سطور کے صدیق کرم مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امروی کے سر ہے فریدی صاحب نے ”مونس مجہوراں“ کے ضروری مقامات کے اقتباسات لیکران کو ماہنامہ ”تذکرہ دیوبند“ بابت نومبر ۱۹۶۱ء میں شائع کر دیا ہے۔“

یہ ہیں مولانا سید ازہر شاہ قیصر اور مولانا تقی الرحمن سنبھلی اور سید محبوب رضوی کی مولانا فریدی اور ان کی تحقیق و جستجو کے متعلق آرا جو حقیقت پر مبنی ہیں درحقیقت مولانا فریدی کی ذات والا صفات علم و تحقیق سے عبارت تھی آپ نے علم و ادب اور تصنیف و تالیف کے میدان میں جو عظیم الشان کارہائے نمایاں انجام دئے ہیں وہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ (ان شاء اللہ)

آپ کا مشغلہ تمام عمر درس و تدریس اور قلم سے مربوط رہا مولانا ایک صاحب طرز ادیب و محقق تھے سز بھی اکابر کی غیر مطلوبہ تحریروں کی تلاش میں ہوتا تھا اگر یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں جگہ پر حضرت حاجی امدا اللہ مہاجر کی، مولانا نانوتوی، مولانا محدث امرتوی، شیخ الہند یا مولانا حسین احمد مدنی کی تحریر ہے اور ابھی تک شائع نہیں ہوئی تو پھر کیا تھا بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی اور جب تک ان تحریروں کو حاصل کر کے شائع نہ کر دیتے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے اس سلسلہ کی ایک قلمی تحریر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نادر مکتوبات کی ہے جو مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری کے کتب خانہ میں تھی آپ نے مولانا کی زندگی میں ان مکتوبات پر سرسری نظر ڈالی تھی مولانا چاند پوری کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا انور صاحب سے حاصل کر کے پہلے ان مکتوبات کو نقل کیا پھر ترتیب دے کر مکتوب الہیم

پر حواشی تحریر کئے مولانا فریدی "مکتوبات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے متعلق اپنے مضمون "حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کا خاندان ایک سرسری جائزہ ایک اجمالی نظر" میں ارقام کرتے ہیں:

"شاہ محمد عاشق نے حضرت شاہ ولی اللہ کے مکاتیب کے جمع کرنے کی طرف توجہ فرمائی، شروع میں ان کے صاحبزادے شاہ عبدالرحمن، شاہ صاحب کے خطوط و مکاتیب جمع کرتے رہے ان کی وفات کے بعد خود شاہ محمد عاشق پھلتی نے اس کام کو بڑی محنت و جانفشانی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس مجموعہ کے "سیاسی مکتوبات" احقر کے اردو ترجمہ اور پروفیسر خلیق احمد نظامی سلمہ کے مقدمہ اور حواشی کے ساتھ ندوۃ المصنفین دہلی کے زیر اہتمام شائع ہو چکے ہیں بقیہ دو سو سے زائد علمی اور دینی مکتوبات احقر کے ترجمہ مقدمہ اور حواشی کے ساتھ عنقریب شائع ہونے والے ہیں ان خطوط کے مطالعہ سے بھی حضرت شاہ ولی اللہ کی زندگی کے حالات پر کافی روشنی پڑے گی اور بہت سی ایسی معلومات سامنے آئیں گی جو ان خطوط کے علاوہ ان کی تصنیفات میں کہیں نہیں ملتیں۔"

اسی طرح قاسم العلوم و المعارف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے غیر مطبوعہ مضامین جو اس وقت کے حالات کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکے تھے اور ان مضامین کے مجموعہ کا نام "فرائد قاسمیہ" رکھ کر مولانا سید عبدالغنی پھلاوٹی نے جمع کیا تھا مولانا پھلاوٹی کے پوتے مولانا سید عبدالغنی مرحوم سے حاصل کر کے اس پر سولہ صفحہ کا محققانہ مقدمہ تحریر کر کے شائع کر دیا یہ احقر نے صرف دو نمونے قارئین کے سامنے پیش کئے ہیں خود اس مجموعہ میں کئی مقالے غیر مطبوعہ ہیں ان کے علاوہ اور بھی مضامین ہیں جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئے ہیں۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اپنے معاونین کا شکریہ ادا نہ کیا جائے خصوصاً مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی، مولانا زین العابدین سہارنپور اور حافظ جنید اکرم فاروقی امروہی کا کہ ان حضرات نے میری درخواست پر اپنی گراں قدر آراء سے مقالات فریدی کو مزین کیا۔ نیز کتب خانہ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ اردو کے منتظم جناب شمیم احمد کا بھی مشکور ہوں۔

احقر نے آخر میں مولانا فریدی کا سوانحی خاکہ بھی پیش کر دیا ہے تاکہ مولانا کے حالات سے یک گونہ

یہ مکتوبات شاہ ولی اللہ اکیڈمی محلہ سے شائع ہو چکے ہیں۔

واقفیت ہو جائے مقالات کی ترتیب میں اگر احقر سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو قارئین سے درخواست ہے کہ نشاندہی کر کے خاکسار کو مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس خامی کو دور کر دیا جائے۔

نام نیک رفتگاں ضائع کن ☆ تابماند نام نیکت برقرار

خاکپائے حضرت فریدیؒ

محب الحق پرونی استاذ جامعہ اسلامیہ

عربیہ جامع مسجد، امر وہہ

ایک صاحب کرامت محقق

مفسر قرآن مولانا حافظ قاری سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی

مولانا نسیم احمد فاروقی فریدیؒ کو میں نے صاحب کرامت محقق تحریر کیا ہے کیونکہ مولانا نے

اپنے لئے جو موضوع منتخب کیا تھا وہ تحریر و انشاء کا مشکل ترین موضوع تھا۔

خدا کی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کتب سابقہ میں ایک تحریری معجزہ ہے اور حضرت حق تعالیٰ

نے اپنے کلام مقدس کے اسی پہلو (تحریر و ادب کی بلاغت) سے مکہ کے اہل زبان اور مدعیان ادب و شعر

کے سامنے بطور چیلنج پیش کیا اور ان اہل زبان کو قرآن کی تحریر اور قرآن کے بلیغ تحقیقی ادب کا جواب دینے سے

قاصر کر دیا۔

صاحب قرآن رسول محترم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ”النبی الامی“ بنایا تاکہ قرآن کریم کے کلام حق

ہونے میں کسی صاحب عقل سلیم کو شبہ نہ رہے۔

یہ امت و ارث کتاب (سورہ فاتحہ) قرار دی گئی ہے اس لئے اس امت نے اپنے ماننے والوں میں

بڑے بڑے اصحاب تحریر و قلم علماء تیار کئے، جنہوں نے کتاب الہی اور اس سے تعلق رکھنے والے علوم و فنون کی

تحریری خدمت کا وہ حق ادا کیا جس کی مثال دوسری امتوں میں تلاش کرنا بے سود ہے۔

مولانا فریدیؒ کا خاندان نسباً فاروقیت کا شرف رکھنے کے ساتھ علم روحانیت اور طریقت کے میدان میں بھی بڑے بڑے شہسوار رکھتا تھا اور ان شہسواروں میں مولانا سیم احمد فریدیؒ کا خاص درجہ تھا۔

مولانا سیم احمد صاحبؒ پر تصوف و روحانیت کا غلبہ تھا اس لئے ان کے تحقیقی و تحریری ذوق نے تصوف سے متعلق نادر چیزوں کو اپنی تحقیقی کاوش کا موضوع بنایا اور اس سلسلے میں بڑی بڑی بیش قیمت تصوفی کتابیں وجود میں آئیں۔

جیسا کہ ان کی تصنیفات کی فہرست سے ظاہر ہوتا ہے۔

اس ناچیز کا آپ سے واسطہ امر وہہ کے جلسوں میں پڑتا تھا اس موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تمہارے تفسیری ذوق پر رشک آتا ہے اور وہ بھی دلی الہمی خاندان کے فارسی اور اردو تراجم کی تحقیق کا ذوق جو خدا تعالیٰ نے خاص طور پر تمہیں عطا کیا ہے اور تم سے دلی الہمی خاندان کے قرآنی علوم کے رموز اور لطائف کے ظاہر کرنے کی خدمت لی۔

میں نے تو مولاناؒ کی معذوری کا دور امر وہہ کی مسجد (جمنڈا شہید) میں فقر و درویشی کی شان کے ساتھ دیکھا ہے اور مولانا محبت الحق صاحب کی خدمت (پڑھنا اور لکھنا) اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مولانا فریدیؒ کے مقبول مسترشد ہونے کا یقین حاصل کیا ہے کیونکہ مولانا محبت الحق صاحب جیسا بے لوث خادم خدا تعالیٰ کی خاص دین ہی ہو سکتا ہے، ورنہ موجودہ دور پر غرض پسندی کا غلبہ ہو چکا ہے اخلاص نام کی کوئی چیز دور دور نظر نہیں آتی۔

اکابر دین کے باہمی علمی اختلافات کے بیان کرنے میں عام طور پر نزاکت کا احساس نظر نہیں آتا۔ مولانا باوجود تحقیقی مزاج رکھنے کے جس میں فکری آزادی لازمی ہے اسلاف کرام کی عظمت کے قائم رکھنے کا بہت خیال رکھتے تھے۔

اس ناچیز نے جب مولانا زید میاں فاروقی مجددیؒ کی کتاب "مولانا محمد اسماعیل" اور ان کی کتاب "تقویت الایمان" کے جواب میں "مولانا محمد اسماعیل شہید اور ان کے ناقد" کتاب تحریر کی تو اس میں حتمی طور

پر حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کے درمیان اس اختلاف کا بھی ذکر کیا جو مجدد صاحب کے نظریہ قومیت سے محدث صاحب اور قومیت پیدا ہو گیا تھا۔

یہ مسئلہ بڑا نازک تھا اس لئے مولانا نے مسودہ میں سے اس مضمون کو حذف کر دیا اور اس ناچیز نے مولانا فریدی کے حکم کی تعمیل کی۔

ایک خاص بات مولانا فریدی کی یہ بھی بیان کر دوں جو موجودہ دور میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ:

یہ ناچیز مولانا فریدی کے اندر اسلاف کی صفت (امت سازی) کی جھلک بھی دیکھتا تھا اخلاقی طور پر جس صفت کو قدر افزائی کی صفت کہا جاتا ہے سماجی طور پر یہ صفت امت سازی کی ہے جماعت کے مختلف بلند اوصاف رکھنے والوں کو متحد رکھنا اور سب کو اپنی اپنی جگہ پر اعتماد میں رکھنا قوم کے اندر اتحاد قائم رکھنے کی فخری تدبیر ہے۔

رسول پاک ﷺ نے اپنے مختلف صلاحیت رکھنے والے صحابہ کو مختلف القاب عطا فرمائے کسی کو صدیق کسی کو فاروق کسی کو بمنزلہ ہارون اور کسی کو جواری رسول وغیرہ کے القاب دے کر امت مسلمہ کو بنیاد بنا دیا۔ مولانا فریدی میں چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کا بڑا وصف تھا اس ناچیز کی تقریر سن کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تمہاری تقریر میں مولانا احمد سعید صاحب دہلوی کی تقریر کا مزا آ جاتا ہے وہی دلی کے ہتھارے وہی لوج لکڑی اور گرمی جو حجام الہند کی تقریر کا رنگ تھا اسی کی یاد تمہاری تقریر دلا دیتی ہے۔

میں کیا کہوں کہ خود تھک کر گھر بیٹھ گیا ہوں ورنہ چل پھر کر مولانا کا یہ بیش قیمت علمی سرمایہ چھپوانے کے لئے اصحاب خیر سے درخواست کرتا۔

بہر حال مولانا کے وہ بیش قیمت مضامین مولانا محبت الحق صاحب شائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ موصوف خود ایک فقرو زہد کی دنیا کے آدمی ہیں۔

دیکھئے: کس اللہ کے بندے کو اس معاملہ میں تعاون کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ جو کام شیخ فریدی

انجام دے گئے ہیں اس کے لئے اب امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے مشکل نظر آتے ہیں۔
امیر خسروؒ نے کہا ہے :-

خون شد دل خسرو ز نگہداشتن راز ☆ چوں پیچ کے محرم اسرار ندام

اخلاق حسین قاسمی

لال کنواں دہلی۔ ۶

۲۷ اگست ۲۰۰۵ء

کلماتِ چند

مولانا زین العابدین اعظمی استاذ شعبہ تخصص فی الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارنپور حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی امرہوی کا ذکر خیر اور ان کی تحقیقات کا تذکرہ اپنے بزرگوں سے طالب علمی ہی کے زمانے سے سنتا چلا آ رہا تھا اور ”مکتوبات اکابر دیوبند“ کا مسودہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے زمانے میں جناب دفتر نورالحق صاحب عثمانی مرحوم کے واسطے سے پڑھ چکا تھا اور ان کے ایک خاص معتقد جناب حکیم محمد اسحاق صاحب حیدرآبادی کے ذریعہ یہ معلوم ہوا کہ یہ مکتوبات مسودہ کی شکل میں جناب مفتی نسیم احمد صاحب فریدی کے مبارک قلم کے لکھے ہوئے ہیں اور پھر دفتر صاحب کے حکم سے میں نے اور حکیم صاحب نے مل کر اس مسودہ کا مقابلہ اکابر کے اصل مکتوبات سے کیا جو خاص انھیں کے قلم کے مکتوبات تھے جن کی تصحیح ہم دونوں نے کی یہ ۱۳۷۲ھ مطبوعہ ۱۹۵۳ء کا واقعہ ہے پھر دیوبند سے فراغت کے بعد جب مدرسہ احیاء العلوم مبارکپور ضلع اعظم گڑھ میں تدریسی خدمت میرے ذمہ آئی تو وہاں مفتی صاحب کے کئی درسی ساتھی مولانا عبد الباقی قاسمی مرحوم اور مولانا شمس الدین حسینی مرحوم سے ملاقات ہوئی اور ان بزرگوں سے بھی مفتی صاحب کی بہت سی باتیں معلوم ہوئیں گمان غالب یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ مدرسہ احیاء العلوم میں بھی مفتی صاحب کو دیکھا لیکن آپ سے تفصیلی ملاقات ۱۳۹۰ھ میں ہوئی ربیع الاول کا مہینہ تھا اور انگریزی حساب سے ۱۲۲۱ھ میں ۱۹۷۰ء میں سخت گرمی میں امرہہ میں ایک عالمی اجتماع ہونے والا تھا اس وقت میں سات چلہ والی بیعت

میں وقت لگا رہا تھا اکابر نظام الدین کے حکم اور مشورہ سے اس اجتماع کی محنت کے لئے ایک جماعت کے ساتھ امر وہہ بھیج دیا گیا ایک ہفتہ قیام کر کے عربوں کی ایک جماعت اور ان کے ساتھ کچھ مقامی ساتھیوں کو لگا کر میرے ساتھ بھوپال روانہ کیا گیا مولانا نسیم احمد صاحب فریدی کی اخلاص بھری کوشش اس اجتماع میں دیکھنی نصیب ہوئی جماعتوں کی ترتیب مساجد امر وہہ میں ان کا نظام بنانے اور ان کی نھرتوں اور سخت گرمی میں ان جماعتوں کے ساتھ وقت گزاری کی مشقوں کے دیکھنے کا موقع وہیں میسر ہوا۔

یہ چند کلمات مولانا محبت الحق صاحب مدظلہ کی فرمائش پر لکھ دئے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے اور مولانا محبت الحق صاحب کو مفتی صاحب کے علوم کو شائع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ (آمین)

زین العابدین الاظمی

شعبہ تخصص فی الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور (یو۔ پی)

تعارف

مولانا حافظ قاری جنید اکرم فاروقی امر وہی

حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی "ایک جید عالم دین روشن ضمیر بزرگ اور بہترین صاحب قلم تھے ان کی ذات والا صفات علم و آگہی کا خزانہ اور اہل علم و ادب کا مرکز و مرجع تھی وہ دن بھر کتنے ہی علمی، ادبی اور سماجی معاملات سلجھاتے تھے اہل علم ان کے پاس علمی نکات سمجھنے آ رہے ہیں اہل قلم اپنی نگارشات سنا رہے ہیں شعراء اپنے کلام پر اصلاح لے رہے ہیں طلبہ اخذ علم کر رہے ہیں عوام اپنے مسائل اور استفتاء لے کر آ رہے ہیں بعض حضرات صرف سنتوں سننے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب کو مستفید و مستنئف کر رہے ہیں ساتھ ہی اپنی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری ہے بصارت زائل ہو چکی ہے لیکن بصیرت کامل ہے علم زبان و قلم پر ٹھانسیں مار رہا ہے کوئی علمی نکتہ چیمزد تبکے اور ذرا سی دیر میں ان کے وسیع مطالعہ عمیق فکر اور دقت نظر کا احساس کر

لیجئے ذوق صحیح سلامتی فکر اور خدا داد ذہانت کے بل پر بات کی تک پہنچ جانا اور صحیح نکتے کو پکڑ لینا ان کی خصوصیات میں سے تھا۔

تحقیق ان کی عادت اور نقد و نظر ان کا مزاج تھا ان کے سیکڑوں عالمانہ اور محققانہ مضامین اور متعدد کتابیں ان کی زندگی میں شائع ہو کر علمی حلقوں سے دادِ تحسین وصول کر چکی ہیں۔

حضرت مفتی صاحبؒ کی زندگی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نادر و نایاب مکتوبات کی اشاعت ہے جو تقریباً دو صدیوں سے گوشہ گنہاری میں پڑے ہوئے تھے بہت سے اہل نظر کی رسائی ان تک ہوئی لیکن ان کی تیز روشنی نے نگاہوں کو خیرہ کر دیا انھوں نے ان مکتوبات پر سرسری نظر ڈالی اور نظر انداز کر دیا دراصل خطِ شکست نے بھی حوصلوں کو شکست اور دلوں کو پست کیا تھا حضرت مفتی صاحبؒ اس میدان کے مرد تھے اور وہی اس مے مردِ آئین کے حریف ثابت ہوئے انھوں نے دلجمعی کے ساتھ ان مکتوبات کو پڑھ کر اندازہ لگایا کہ یہ حضرت شاہ صاحبؒ کے مکتوبات ہیں اور پھر انھوں نے دن رات سردی گرمی کا احساس کے بغیر انھیں نقل کیا کر خردہ مقامات پر صحیح الفاظ بٹھائے پھر ان کا ترجمہ کیا اس تمام عرق ریزی و جگر کاوی میں ان کی بیباکی متاثر ہو گئی اور بالآخر وہ بصارت سے محروم ہو گئے لیکن اہل ذوق کو انھوں نے بصیرت عطا کر دی کیا کیا جو اہر ان قلمی مکتوبات کے صدف میں پوشیدہ تھے جنھیں انھوں نے آب و تاب دے کر اس سلک مروارید کو عام کر دیا۔ ع

راز ہائے کہ نہاں بود بہ بازار افتاد

مولانا محبت الحق صاحب فارغ التحصیل عالم دین ہیں حضرت مفتی صاحبؒ کے تربیت یافتہ اور

شاگرد ہیں۔

زوالِ بصارت کے بعد مفتی صاحبؒ ان سے کتاب رسالے پتہ آ کر سنتے اپنے مضامین کا امانت کرتے خطوط لکھواتے یہیں سے گویا ۱۹۰۰ء تا محبت الحق صاحبؒ نے اندر دینی و اہم کارائزائیاں اپنے ان مفتی صاحب کی وفات (۱۸ اکتوبر ۱۹۸۸ء) کے بعد وہ باقاعدہ نکلنے کے ان کے قلم کار تھے، مجبوراً انہوں نے اپنے استاد کی

شخصیت ان کے مکتوبات و مقالات ہیں اب وہ کئی کتابوں کے مؤلف ہیں خصوصاً وہ حضرت مفتی صاحب کے حالات ملفوظات اور مکتوبات "فیضانِ نسیم" کے نام سے شائع کر چکے ہیں اب انھوں نے رسائل میں بکھرے ہوئے مفتی صاحب کے مضامین یکجا کرنے اور انھیں کتابی شکل میں شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے پہلی جلد "مقالات فریدی" آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں تیرہ مقالے ہیں ان میں تحقیقی و تنقیدی مضامین بھی ہیں اور تعارفی و سوانحی بھی کیونکہ یہ ایک بلند پایہ محقق اور ناقد کے قلم سے ادا ہوئے ہیں اس لئے اہل علم و قلم کے لئے ان کی حیثیت مستند حوالے اور اہم ماخذ کی ہے بلکہ ان کے مطالعے سے نقد و نظر کے سلیقے کا اندازہ ہوتا ہے بالخصوص مولانا عبدالرزاق بلخ آبادی کی کتاب "مولانا آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی" پر "مولانا آزاد کی کہانی نقد و نظر کی کسوٹی پر" زبردست تحقیقی و تنقیدی مقالہ ہے جسے پڑھتے ہوئے بار بار روح و جد میں آجاتی ہے اور دل کہتا ہے:

دعویٰ نقد و نظر ہو جسے اس کو یہ دکھا ☆ دیکھ اس طرح سے کرتے ہیں محقق تحقیق

زیر نظر کتاب میں جن شخصیات کے سوانحی مضامین ہیں ان کی شخصیتیں زبردست علم و فضل بے نظیر تقدس و تقویٰ اور بے مثال کردار و عمل کی حامل ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت محدث امر وہی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا شیخ محمد محدث تھانوی، مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی مفسر قرآن امر وہی، مولانا محمد صدیق صاحب قاسمی مراد آبادی حافظ محمد ضامن فاروقی شہید تھانوی وغیرہ ایسی پاکیزہ شخصیات اور ایسے مقدس نفوس ہیں جن کی سیرتوں کا مطالعہ سیرت سازی کے عمل میں کامل اثر رکھتا ہے مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی نے ان زندہ جاوید ہستیوں کے فیض کو جاری اور باقی رکھنے کی سعی محمود فرمائی ہے اور اب یہی کوشش مولانا محبت الحق صاحب کی بھی ہے وہ اپنے استاذ و مربی اور مخدوم کے فیضان کو مضبوط و مربوط اور جاری و ساری رکھنے میں اسی طرح کوشاں ہیں جس طرح امام ابو یوسف نے امام اعظم کے فیضان کو عام کیا تھا۔

فجزاہ عند ربہ خیر الجزاء۔

جنید اکرم فاروقی امر وہی

20/8/05

مولانا مفتی نسیم احمد فاروقی فریدی امر وہیؒ

امروہہ شمالی ہندوستان کی ایک قدیم مردم خیز بستی رہی ہے جس کو بڑے بڑے علماء و فضلاء، صوفیاء و اولیاء، اطباء و شعراء اور صاحبانِ علوم و فنون کا مولد و مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس شہر کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ یہاں تقریباً تمام مرتبہ سلاسلِ طریقت کے مشائخ نے اپنے اپنے عہد میں چشمہ ہائے فیوض و ہدایت سے مخلوق کو سیراب کیا ہے۔ یہاں ہر دور میں بڑے بڑے باکمال علماء ہوئے اور بعض خاندانوں میں مسلسل کئی پشتوں تک علماء پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح بعض خاندانوں کو یہ امتیاز حاصل رہا کہ اس میں نسلاً بعد نسل بڑے بڑے ذی علم اور حاذق اطباء پیدا ہوتے رہے۔ جنھوں نے خدمتِ خلق کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ فنِ شاعری میں بھی امر وہہ نے کافی نام پیدا کیا۔ شمالی ہند کے پہلے منثوی گو شاعر ”اسمعیل“ امر وہوی اور مشہور صاحبِ دوادین شاعر ”مصحفی“ کے وطن ہونے کا بھی شرف امر وہہ ہی کو حاصل ہے۔ یہاں ہر دور میں باکمال شاعر پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تیرہویں صدی ہجری کے اواخر میں فخر زین، سید العلماء، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امر وہیؒ نے اپنے وجودِ باجود سے اس خطہٴ خاک کو شرفِ تقدس بخشا۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد، امر وہہ آپ ہی کی مساعی جلیلہ سے وجود میں آیا جس سے ہزاروں تشنگانِ علوم فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ حضرت محدث امر وہیؒ کے فیض یافتگان میں بڑے بڑے علماء، حفاظ و قراء، اطباء اور مشائخ ہوئے جنھوں نے امر وہہ کا نام روشن کیا۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدیؒ تھے۔ حضرت موصوفؒ جامع کمالات شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نہایت متقی، عبادت گزار، نیک طبیعت، درویش صفت عالم تھے۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ کو تجزیہ و تقریر، تصنیف و تالیف، ادب اور شاعری میں بھی بڑا کمال حاصل تھا۔ مولانا فریدیؒ ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۲۹ھ تا ۶ اکتوبر ۱۹۱۱ء کو امر وہہ میں متولد ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے واسطے سے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ثانی تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سید شاہ آہن بدر چشت

کی اولاد میں تھیں۔ جن کا سلسلہ نسب حضرت علی رضاً کے واسطے سے جگر لوشہ رسول شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین سے متصل ہوتا ہے۔

مولانا فریدی نے ایک ایسے علمی و دینی گھرانے میں آنکھیں کھولیں جس میں علم و فضل اور فقر و دین کی کئی پشتوں تک مسلسل اور مربوط روایات ملتی ہیں۔ آپ کے یہاں پرانی قدروں کا احترام اور مشرقی تہذیب کا اہتمام تھا۔ آپ دل و دماغ کی نادر خوبیوں سے آراستہ تھے۔ آپ نہایت بااخلاق، پر خلوص و بامروت، منکر مزاج و متواضع، فراخ دل اور علم دوست تھے۔ آپ کے اندر انسانی ہمدردی اور شفقت و محبت بھی بے پناہ تھی۔

مولانا فریدی شروع ہی سے ذہین و ذکی اور علم کے شوقین تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت والدہ ماجدہ اور بڑے بھائیوں کے زیر اہتمام ہوئی۔ ابتدائی تعلیم قرآن مجید اور دینی کتب سے شروع ہوئی۔ پھر پرائمری اسکول سے جو نیر اسکول تک ہندی اور انگریزی میں مڈل کا امتحان پاس کیا۔ آپ کو علوم مشرقیہ سے گہری دلچسپی تھی۔ اس لئے آپ نے منشی، منشی کامل، مولوی فاضل اور اعلیٰ قابلیت کے امتحانات امتیاز کے ساتھ کامیاب کئے۔ پھر عربی شروع کی اور جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد، امر وہہ علی حضرت مولانا سید رضا حسن، حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی مفسر امر وہی وغیرہ علماء سے جلالین شریف اور مشکوٰۃ شریف تک پڑھ کر بقیہ علوم کی تحصیل تکمیل کے لئے از ہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر سند فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا اعجاز علی امر وہی، حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی، حضرت مولانا سید اصغر حسین محدث دیوبندی، حضرت مولانا مفتی محمد سہول بھاگل پوری، حضرت مولانا مفتی ریاض الدین افضل گڑھی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ثم کراچی، آپ کے اساتذہ میں تھے۔ آپ نے لاہور جا کر حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے تفسیر کی سند بھی حاصل کی۔ فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے ”مدرسہ اشفاقیہ بریلی“ میں دو سال تک بخاری شریف کا درس دیا۔ پھر اپنی مادر علمی جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد، امر وہہ میں بحیثیت مدرس و مفتی علمی خدمات انجام دیں اور تاحیات اسی درگاہ سے وابستہ رہے۔ آپ کو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے بیعت کا شرف حاصل تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا

محمد زکریا قدس سرہ، حضرت مولانا فتح محمد میوانی اور حضرت حافظ مقبول حسن گنگوہی ثم دہلوی سے بلا طلب اجازت بیعت اور خلافت حاصل تھی مگر آپ نے اپنی کسر نفسی تحریری و تصنیفی مشغولیات اور بعض ذاتی حالات کی بناء پر بیعت کرنے کا سلسلہ جاری نہیں رکھا۔ آپ ایک جید عالم اور مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب طرز ادیب اور باکمال شاعر بھی تھے۔ آپ نے پچاس سال سے زائد عرصے تک برصغیر کے مختلف موقر رسالوں میں علمی و تحقیقی مضامین لکھے۔ مضمون نگاری اور شعر و شاعری کا یہ سلسلہ تاحیات جاری رہا۔

اس خادم دین اور خادم علوم اسلامیہ نے ۵ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ موافق ۱۸ اکتوبر ۱۹۸۸ء یوم شنبہ کو وفات پائی اور بقول مومن خان مومن دہلوی ۔

دستِ بیدادِ اجل سے بے سرو پا ہو گئے ☆ فقر و دین، فضل و ہنر، لطف و کرم، علم و عمل

ذوق دہلوی کے شعر میں دو لفظوں کی ترمیم کے ساتھ ۔

زندہ قلم سے نام قیامت تک ہے ذوق ☆ اولاد سے تو ہے یہی دو پشت چار پشت

خاکپائے حضرت فریدیؒ

محبت الحق امر وہ

مقالات فریدی

حضرت شیخ عبدالحق حقّی محدث دہلویؒ

نسب نامہ

حضرت شیخ عبدالحق حقّی ابن حضرت شیخ سیف الدین سیفی قادری ابن شیخ سعد اللہ ابن فیروز شہید ابن ملک موسیٰ ابن ملک معز الدین ابن آغا محمد ترک بخاریؒ۔ حضرت شیخ محدث دہلویؒ نے ”اخبار الاخیار“ میں اپنا نسب نامہ یہیں تک تحریر فرمایا ہے آگے کو معلوم نہ ہو سکا۔ آغا محمد ترک بخارا سے بعد سلطان محمد علاء الدین خلجی جماعت کثیر کے ساتھ دہلی آئے اور گجرات وغیرہ کی تسخیر کرنے پر مامور ہوئے۔

پیدائش اور بچپن کے حالات

حضرت شیخ محدث دہلوی محرم ۹۵۸ھ میں تولد ہوئے۔ آپ نے اپنی خودنوشت سوانح عمری میں عہد طفولیت کے بہت سے واقعات تحریر فرمائے ہیں۔ جن کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت بچپن ہی سے صلاحیت پسند واقع ہوئی تھی۔ کھیل کود میں آپ نے اپنا عزیز وقت ضائع نہیں فرمایا۔ اپنے بزرگ والد سے (جو کہ حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی قادری کے مرید تھے) تقویٰ و طہارت کو ورثہ میں پایا تھا۔ درحقیقت حضرت شیخ کے کمالات علمیہ و ثمرات روحانیہ میں ان کے والد ماجد کی تربیت کو بہت بڑا دخل ہے۔

حضرت شیخؒ اپنے شغف علم کا ذکر فرماتے ہوئے ایک جگہ (اخبار الاخیار میں) تحریر فرماتے ہیں کہ ماں باپ میرے نہ کھیلنے پر بہت کڑھتے تھے لیکن مجھے لطف تحصیل علم میں ہی آتا تھا۔

برخلاف اور بچوں کے ان کے ماں باپ ان کو کھیلنے سے روکتے ہیں اور وہ پڑھنے سے جی چراتے ہیں۔ سیر و تفریح، وقت پر کھانا، دوست احباب سے سے ملنا جلنا رات کو وقت پر سونا غرض یہ کہ دنیا کا کوئی پیش شوق علم کے باعث میسر نہ تھا۔

تحصیل علم

حضرت نے اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی دیگر اساتذہ دہلی سے بھی تعلیم پائی ہوگی۔ جن کے اہماء معلوم نہ ہو سکے۔ ۲۲ سال کی عمر میں سوائے علم حدیث کے تمام علوم نقلیہ و عقلیہ سے فارغ ہو گئے تھے۔ بعد فراغ ایک سال میں قرآن شریف حفظ فرمایا۔ زمانہ تعلیم میں جس محنت اور جانفشانی سے کام لیا۔ اس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ خود فرماتے ہیں ”گاہے در اثنائے مطالعہ کہ وقت از نیم شب درمی گذشت والدہ قدس سرہ مرا فریادی زد کہ با پاجہی کئی۔ من فی الحال در ازمی شدم تا دروغ نشود وی گفتم خفتہ ام چہی فرمایند باز برمی نشستم و مشغول می شدم و چند بار در دستارہ موئے سر آتش چراغ در گرفت باشد۔ و مرا تا رسیدن حرارت آں بہ حجرہ دماغ خبر نہ

چہ درد ہائے چراغی کہ در دماغ نرفت
کدام بادہ محنت کہ در ایاغ نرفت
کدام خواب و چہ آسائش و کجا آرام
چہ خار خار کہ در بستر فراغ نرفت
بجیر تم زد لہ خود کہ عمر رفت و لے
ز کج غم کدہ ہرگز بھمن باغ نرفت

ہندوستان میں تعلیم حاصل کر چکنے اور نکاح ہو جانے کے بعد حرمین شریفین کی زیارت کا شوق اور علم حدیث کے حصول کا ذوق دامگیر ہوا۔ چنانچہ آپ ۹۹۱ھ میں دہلی سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آمد و رفت، قیام و تعلیم اور حج و زیارت میں چار سال کا عرصہ لگا۔ ۹۹۹ھ کے آخر میں آپ اپنے وطن مالوف (دہلی) واپس آئے۔ علمائے حرمین شریفین سے آپ نے صحاح ستہ کا درس حاصل کیا۔ اور حضرت مولانا عبدالوہاب متقی قطب مکہ معظمہ سے مشکوٰۃ شریف پڑھی اور اس بزرگ کے فیض صحبت و فیض درس سے روحانی و علمی منافع حاصل کر کے ہندوستان میں محدث کے لقب سے مشہور ہوئے۔ غالباً آپ سے پہلے ہندوستان میں کوئی عالم محدث کے لقب سے شہرت یافتہ نہیں ہوا تھا۔ مشکوٰۃ شریف پڑھ کر آپ کو امام شافعی کا مسلک اختیار کرنے کا خیال تھا۔ لیکن آپ کے استاذ حضرت عبدالوہاب متقی نے آپ کو سمجھایا اور امام اعظم کے فضائل و مناقب بیان فرمائے جس کے باعث آپ حنفیہ پر قائم رہے۔ چنانچہ آپ نے ”فتح المنان فی تائید مذہب العثمان“ ایک ضخیم کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ جس میں حنفیوں کے مسائل ضروریہ کو مدلل طریقہ سے تحریر فرمایا ہے۔

سلوک و تصوف

حضرت شیخؒ کمالات معنویہ میں بھی یگانہ روزگار تھے۔ آپ کے والد نے وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا فقط ملائے خشک نہ بنے رہنا۔ غالباً اس وصیت کی تعمیل میں آپ نے تزکیہ نفس کا شروع ہی سے التزام رکھا۔ فن تصوف میں کتابیں لکھیں۔ اولیاء اللہ کا ایک مستقل تذکرہ اخبار الاخبار لکھا جو شائع ہو چکا ہے اور نہایت مقبول و مروج ہے۔ آپ حسب ذیل چار بزرگوں سے بیعت تھے: (۱) اپنے والد ماجد حضرت شیخ سیف الدین قادریؒ مرید شیخ امان اللہ پانی پتی قادریؒ سے طریقہ قادریہ میں۔ (۲) اٹھائیس سال کی عمر میں حضرت سید موسیٰ سے (جن کا مزار سید موسیٰ پاک شہیدؒ کے نام سے اُچنواں ملتان میں ہے) بیعت ہوئے۔ یہ بزرگ حضرت غوث اعظمؒ کی اولاد میں سے تھے۔ (۳) حضرت مولانا عبدالوہاب متقی قطب مکہ معظمہ سے مکہ معظمہ میں بیعت ہوئے۔ یہ بزرگ قادریہ سلسلے کی شاذلیہ شاخ میں بیعت تھے۔ علاوہ ازیں سلسلہ چشتیہ میں بھی بیعت تھے۔ (۴) حضرت خواجہ باقی باللہ دہلویؒ سے طریقہ نقشبندیہ میں بیعت ہو کر ذکر و مراقبہ اور دیگر نقشبندی خصوصیات حاصل کیں۔ ان چار بزرگوں سے عالم ظاہری میں بیعت ہونے کے علاوہ عالم باطنی یعنی خواب میں حضرت غوث اعظمؒ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیعت ہوئے۔ مرید ہو جانے کے بعد آنحضرتؐ نے فارسی زبان میں بشارت دی ”بزرگ خواہی شد“ اس بیعت کا ذکر کتاب زبدۃ الآثار منتخب بیچہ الاسرار کے حاشیے پر حضرت شیخؒ نے کیا ہے۔

حضرت شیخ اس بشارت کے علاوہ کئی دفعہ سرور کائنات رومی فداۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے عالم رویا میں شرف ہوئے ہیں۔

شعر و شاعری

حضرت کو شعر و شاعری سے بھی ذوق تھا۔ حقی تخلص فرماتے تھے۔ ایک نعتیہ قصیدہ بندوستان میں تالیف فرما کر مدینہ منورہ میں روضہ مطہرہ پر جذب و کیف کے عالم میں پڑھا۔ اس کا ایک وجہ آور شعر نیچے

خراہم در غم بجز جمالت یا رسول اللہ ☆ جمال خود نما رہے بجان زار شیدا کن
اس شعر کے متعلق اپنی کتاب زاد المصنفین میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب قصیدہ کی اس بیت پر پہنچا اس
کو اتنا پڑھا کہ حالت گریہ طاری ہو گئی اور رونے لگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ غالباً یہ شعر مقبول و موجب حصول مقصود
ہو گیا ہو۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں۔

حقی کجا و محبت کس کز خیال دوست ☆ ازوے بخود چو مردم دیوانہ عالمے
ایک رباعی اور پڑھ لیجئے:

حقی ز پنے قصہ و افسانہ شدی ☆ چوں مردم روزگار فرزانہ شدی
درویش ترا ز ذکر شاہان چہ غرض ☆ منون سخن گشتی و دیوانہ شدی

تصنیفات

حضرت شیخؒ نے زمانہ طالب علمی میں اور قبل از سفر حرمین شریفین بھی کئی کتابیں تالیف و تصنیف فرمائی تھیں لیکن بعد واپسی ۱۰۰۰ھ سے ۱۰۵۲ھ تک (تا وصال) سلسلہ تصانیف و تالیف کو باقاعدہ جاری رکھا۔ اور عربی و فارسی زبان میں بڑی بڑی ضخیم اور معرکہ آرا کتابیں تحریر فرمائیں۔ حضرت شیخؒ نے ایک مستقل رسالہ اپنی تالیفات کی فہرست کا لکھا ہے۔ اس کا نام ”تالیف قلب الالیف بذکر فہرس التالیف“ ہے۔ اس فہرست میں ۴۸ کتابوں کا اندراج ہے۔ ایک کتاب از سٹھ رسائل کا مجموعہ ہے جس کا نام ارسال الکتیب و الرسائل الی ارباب الکمال و الفعائل ہے یہ رسالے ایک ہی جلد میں ہیں۔ حضرتؒ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ”ایں ہمہ رایک محیفہ سازند“ اس حساب سے معہ فہرست کے ۵۰ کتابیں ہوئیں لیکن آخر فہرست میں حضرتؒ نے اپنی تصانیف کی میزان کل دی ہے۔ اس میں رسائل کے اڑسٹھ ہی تعداد محسوب فرماتے ہیں۔ اس صورت میں از تالیس کتابیں مندرجہ فہرست اڑسٹھ رسائل اور ایک رسالہ فہرس التالیف کل ۱۱ کتابیں ہوتی ہیں۔ آخر فہرست میں تحریر فرماتے ہیں:

ہنوز سلسلہ سخن دراز است و در فیض الہی باز یکجا رسد و یکجا رساند۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصانیف کا سلسلہ اس فہرست کے بعد بھی جاری رہا۔ لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ بعد میں کتنی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ صاحب مرآة الحقائق یعنی غشی برکت علی صاحب جو کہ حضرت شیخؒ کی اولاد و احفاد سے ہیں فرماتے ہیں کہ کتب خانہ مولوی انوار الحق دہلوی میں گیارہ ایسی کتابیں موجود ہیں جو فہرست میں درج نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے ۱۲۸ کتابیں ہوئیں۔ ممکن ہے کہ ان کے علاوہ بھی اور تصنیفات ہوں واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت شیخؒ نے فہرست میں جو کتابیں درج فرمائی ہیں ان کتابوں کی سطریں پانچ لاکھ ہیں اور یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ حصہ بھی مرتبہ قبولیت کو پہنچ جائے تو الحمد للہ ورنہ سب پہنچ ہی مقصود رضائے حق اور عطائے حق ہے۔

اللہ اللہ کیسے کیسے صاحب کمال اور ذی علم حضرات دہلی کی سر زمین پر گذر چکے ہیں! مولانا حاتی نے دہلی مرحوم کے مرثیے میں سچ فرمایا ہے۔

چپے چپے پہ ہیں یاں گوہر یکتا تہہ خاک ☆ دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہر گز
آج نہ وہ علم رہا نہ وہ علم کا ذوق نہ وہ صاحب کمال رہے نہ وہ صاحب تصانیف۔ موجودہ زمانے میں
بھی جو چند بزرگ ہندوستان میں رہ گئے ہیں آئندہ خدا جانے علم و عمل کا کیا حشر ہو۔

کتب خانہ شیخ

حضرت شیخؒ کی اولاد میں ایک صاحب مولوی انوار الحق صاحب دہلویؒ ہیں جن کی حیات کا پتہ
۱۳۱۹ھ تک صاحب مرآة الحقائق کے بیان سے چلتا ہے۔ ان کی تخیل میں جو کتب خانہ تھا اس میں سوائے تیرہ
کتب کے جو بزمانہ جنگ ۷ بیت ۱۸۵۷ء ضائع ہو گئیں۔ باقی تمام تصانیف شیخؒ موجود ہیں۔ ان تیرہ کتب غیر
موجودہ کے اسماء یہ ہیں: (۱) آداب المطلقہ والمنظرہ (۲) اسماء الاستاذین (۳) افکار الصافیہ (۴) انتخاب
المشوی (۵) بناء المرفوع (۶) ترغیب اہل السعادات (۷) تعلیق الحاوی (۸) حاشیہ الفوائد (۹) حسن الاشعار
(۱۰) رسالہ نورانیہ سلطانیہ (۱۱) صحیفۃ المودۃ (۱۲) فضول الخطب (۱۳) نکات العشق۔

خدا معلوم ان کتابوں کی نقل بھی کہیں موجود ہے یا نہیں۔ اگر ان کتابوں میں سے کوئی کتاب کسی

صاحب کی نظر سے گذری ہو تو خاکسار راقم الحروف کو مطلع فرمائیں۔

کتب خانہ مولوی انوار الحق صاحب دہلویؒ میں جو کتابیں حضرتؒ کی ہیں ان میں سے اکثر اسی عہد کی لکھی ہوئی ہیں۔ چند کتابوں پر حاشیہ بعض بعض جگہ حضرت شیخؒ کے قلم خاص سے لکھا ہوا ہے اور ایک کتاب انوار الجلیہ تو از اول تا آخر حضرتؒ ہی کے دست مبارک کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کتابوں میں سے بعض طبع بھی ہو گئی ہیں مگر اکثر کتب ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں۔

کثرت مشاغل

فشی محمد امین مصنف ”شاجہان نامہ“ نے حضرت شیخؒ کے جو کچھ حالات لکھے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے ”بالفعل ۱۰۲۷ھ میں حضرت شیخؒ کی عمر نوے برس کی ہو گئی ہے۔ باوجود اس کے آپ کے حواس ظاہری و باطنی سلامت ہیں۔ عبادات، اوراد، ذکر، تلاوت قرآن شریف اپنے بچوں اور شاگردوں کی تعلیم اور کتابوں کی تصنیف و تصحیح میں ایام جوانی کی طرح مشغول ہیں۔“

وفات

حضرت شیخؒ نے ۲۲/۲۱ ربیع الاول ۱۰۵۲ھ کی درمیانی شب میں چورانوے سال دو ماہ کی عمر پاکر وفات پائی اور خولجہ قطب الدین بختیار کا کی اوشی کے احاطہ مزار کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا نور الحق صاحب دہلوی شیخ ثانیؒ نے حسب وصیت ایک کتبہ مزار پر نصب کرایا جس میں مختصر حالات زندگی درج فرمائے۔

اولاد

حضرت شیخؒ کے غالباً تین صاحبزادے تھے جن میں بڑے شیخ ثانی مولانا نور الحق صاحب دہلوی تھے۔ یہ نہایت ذی علم، صاحب تصنیف اور باپ کی نظروں میں عزیز تھے۔ چنانچہ حضرت شیخؒ نے وصیت نامہ میں ان کو اپنا وجود ثانی تحریر فرمایا ہے۔ حضرت شیخؒ کے جانشین بھی ہوئے آپ کو شاعر و شاعری کا بھی ذوق تھا

لیکن توجہ علم دین کی طرف زیادہ منعطف رہی۔ حکومت برطانیہ سے پہلے پہلے حضرت شیخؒ کی اولاد میں صاحب تصانیف اور تبحر علماء ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت خاندان شیخؒ میں میراث پدری کی طرف کتنی رغبت ہے۔ اس کا حال نہیں معلوم البتہ مراۃ الحقائق کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ ۱۳۱۹ھ تک حضرت شیخؒ کے اخلاف میں ۹۲ ذکور خورد و کلاں موجود تھے۔ جن کے مختصر حالات زندگی بھی لکھے گئے ہیں۔ لیکن میراث شیخؒ کو تلاش کیا ان میں ایک تو مولوی انوار الحق صاحب دہلوی کو عالم و فاضل پایا اور دوسرے مولوی محمد مظہر الحق ابن محمد وحید الحق کو دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل دیکھا۔ باقی سب کے سب یا تو انگریزی کی انتہائی تعلیم پائے ہوئے ملے یا اردو فارسی کے جاننے والے۔

افسوس کے اب بزرگوں کے قلمی کارنامے اخلاف کی بے توجہی کی وجہ سے فنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہلکے پھلکے اور برکلے کی تصانیف کے شوق میں ان کے جواہر پاروں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اسلاف نے خون پسینہ ایک کر کے جن کتابوں کو اعلیٰ مضامین اور خوشخط حروف میں لکھا تھا وہ کتابیں دیمک کی خوراک بنی ہوئی ہیں۔ ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ان کتابوں کو دھوپ دے دیں یا حفاظت کی غرض سے ورق گردانی کر لیں۔ انقلاب زمانہ اسی کو کہتے ہیں

اعتمادے نیست برودر جہاں بلکہ ایں گردون گرداں نیز ہم

امروہہ کے چند اکابر خاندان چشتیہ صابریہ

آخر شعبان میں دیوبند حاضر ہوا تھا وہاں صاحبزادہ سید محمد ازہر شاہ قیصر لے بھی ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ میرا مضمون ان بزرگوں کے حالات پر ہوگا جن کا تعلق میرے وطن امر وہہ سے ہے۔ میں رمضان ہی میں اس وعدے کی تکمیل کر دیتا، لیکن رمضان میں یہ مضمون مرتب نہ ہو سکا۔ شوال میں مدرسہ کے مشاغل سامنے آئے اور یہ کام مقرر بنا، لیکن صاحبزادے کے والا نا محبت یاد دہانی اور تقاضے کے سلسلہ میں پیہم آتے رہے۔ مجبوراً وقت نکال کر وعدہ پورا کرنا پڑا۔

قیصر صاحب محدث عمر حضرت علامہ انور شاہ محدث صغیر کی بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ کی وفات ۲۷ نومبر ۱۹۸۵ء میں ہوئی۔ (محب الحق)

سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس مضمون کا محرک اول یہ خیال ہوا کہ چونکہ ہمارے اکابر علماء دیوبند جہاں علم حدیث میں بوساطہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت امام بخاری سے تعلق رکھتے ہیں وہاں صحیح مسلک حنفیت اور طریقہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہتے ہوئے اُن کا روحانی رشتہ حضرت خواجہ اجیرئی سے بھی متصل ہوتا ہے اور وہ۔ ع

درکئے جام شریعت و رکئے سندانِ عشق

کے پورے پورے مصداق ہیں۔ ضرورت ہے کہ اُن کے متوسلین ان بزرگان دین سے بھی واقف ہوں جو روحانی زنجیر کی مقدس کڑیاں ہیں۔ سب سے زیادہ اچھا تو یہ ہوتا کہ میں حضرت خواجہ اجیرئی سے لے کر بعد کے تمام حضرات سلسلہ کا تذکرہ لکھتا، لیکن میری ہل پسند طبیعت نے صرف ان بزرگوں پر اکتفا کر لیا جن کا تعلق امر وہہ سے ہے یوں بھی امر وہہ سے اوپر کے حضرات بہت معروف و مشہور ہیں اور اُن کے حالات آسانی سے کتب میر سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے اُن بزرگانِ امر وہہ کے حالات مرتب کرنے میں امکانی محنت کی ہے۔ مقاصد العارفین قلمی (مصنفہ حضرت شاہ عضد الدین جعفری امر وہی) مفتاح الخزان (مرتب ثار علی بخاری) انوار العارفین (مؤلفہ حافظہ محمد حسین مراد آبادی) تجلیۃ التوارخ (مولوی آل حسن نقشبندی امر وہی) شائم امدادیہ (مترجمہ محمد مرتضیٰ خاں قونجی) "قصائد قاسمی" تذکرۃ الکرام (مؤلفہ مولوی محمود احمد عباسی) مقدمہ آثار الکرام (ڈاکٹر عبدالحق) بیاض شاہ حاتم (خلیفہ حضرت شاہ عبدالباری امر وہی قلمی) ابواب الفوائد قلمی (مؤلفہ بہلول ابن مرزا خاں برکی ثم جالندھری) شجراتِ نظم و نثر (مرتبہ حکیم شکیبہ احمد صدیقی امر وہی) اور خاندانِ شاہ عضد الدین صاحب امر وہی کی چند دستاویزیں اور مختلف یادداشتیں سامنے رکھ کر اور ان میں تلاش و جستجو کر کے اس مضمون کو مرتب کر رہا ہوں۔ کوشش کرونگا کہ ہر بزرگ کے حالات میں ضروری باتیں آجائیں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں گا جن بزرگوں کا اس مضمون میں مستثنیٰ تذکرہ کیا جائے گا۔

۱۔ سب یہ مضمون لکھا یا تھا تو یہ ساہانان بقید حیات تھے۔ مہاشی صاحب ۱۵ اکتوبر ۱۹۱۳ء کو لاہور میں دوا ہوئی اور ان کی سکونت انڈیا آگئی تھی۔ ۲۔ ۱۹۱۳ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔ ۳۔ ۱۹۱۱ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔ ۴۔ ۱۹۱۱ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔ ۵۔ ۱۹۱۱ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔ ۶۔ ۱۹۱۱ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔ ۷۔ ۱۹۱۱ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔ ۸۔ ۱۹۱۱ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔ ۹۔ ۱۹۱۱ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔ ۱۰۔ ۱۹۱۱ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔ (محبت الحق)

اُن کے اسماء حسب ذیل ہیں:

- (۱) حضرت شاہ محمدی فیاض جعفری ہرگامی ثم امر وہی (۲) حضرت شاہ محمد حامد جعفری ہرگامی ثم امر وہی (۳) حضرت شاہ عضد الدین جعفری امر وہی (۴) حضرت شاہ عبدالہادی صدیقی امر وہی (۵) حضرت شاہ عبدالباری صدیقی امر وہی۔

حضرت شاہ محمدی فیاض جعفری ہرگامی ثم امر وہی

شیخ عیسیٰ ہرگامی کے فرزند تھے۔ محمدی نام ہے اور فیاض دہر بعد کو لقب ہوا۔ نسباً جعفری اترینی ہیں۔ ۱۲ شوال ۱۰۲۱ھ کو عالم وجود میں آئے، قطعہ ذیل کے آخری مصرعے سے تاریخ ولادت برآمد ہوتی ہے:

در جہاں آفتاب پیدا شد ☆ ذر ہادر ہواش شیدا شد
سال تاریخ جلوہ اش بوجود ☆ قدوة الکاملین ہویدا شد

اُن کے تین بھائی اور تھے شاہ محمد حامد، شاہ عبدالحق، شاہ عبدالحلیل یہ سب بھائی باکمال اور اہل اللہ تھے۔ ہر ایک ازبیاں آراستہ بکمال حال و قال بودہ۔ (نخبۃ التواریخ)۔

شیخ عیسیٰ ہرگامی کا دستور تھا کہ جہاں کوئی درویش سُن پاتے اس کی خدمت میں جاتے، اُس کے پاس کھانا لیجاتے اور اُس کی دعا حاصل کرتے تھے۔ راتوں کو بھوکوں، در ماندوں، غریبوں کی خبر گیری کرتے اور پوشیدہ طریقہ پر اُن کے گھروں میں روٹیاں اور زرنقہ پہنچاتے تھے۔ جس کسی درویش سے دعا کی استدعا کرتے تو یہ خاص مقصد پیش کیا کرتے تھے کہ ”اولاد من بمراد حقیقی و مدعا عن نفس الامری فائز گردند و بصلاحت و تقویٰ و علم معنی معروف و عقل معاد موصوف باشند“ یعنی میری اولاد مراد حقیقی کو پہنچ جائے اور وہ صلاحیت و تقویٰ اور علم سلوک میں معروف اور عقل معاد سے موصوف ہو۔

کیسا اعلیٰ مقصد اور کیسی اچھی دعا تھی اور کس قدر کامیاب ہوئی کہ آج تک دنیا ان کے صاحبزادوں کے تقویٰ اور علم معنی سے راہ یاب و فیض یاب ہو رہی ہے اور نہ صرف وہ عقل معاد سے موصوف ہوئے بلکہ بعد کو

آنے والا گروہ کثیر (جن میں ہندوستان اور حجاز و مصر وغیرہ کے متوسلین شامل ہیں) آخرت کی فکر میں منہمک ہو کر مطلوب حقیقی سے ہمکنار ہوا۔

مقاصد العارفین اور مفتاح الخزان سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ محمدی فیاضؒ نے بالغ ہونے تک علم کی طرف توجہ نہیں کی، بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول رہتے تھے۔ اُن کے والد کو اس کا بڑا غم تھا اور یہ کسی طرح اپنی آزاد مزاجی سے باز نہیں آتے تھے، آخر ایک دن اُن کے باپ نے اُن کے دونوں ہاتھ پکڑ کے خوب تنبیہ کی اور خوب ڈانٹا۔ بس اُس دن سے اُن کی غیرت جوش میں آئی، علوم عربیہ کی تحصیل میں کوشش کی اور تھوڑے ہی عرصے میں درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ بعدہ علم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے اور زبدۃ المحققین شیخ کبیر محبت اللہ اللہ بادی قدس سرہ کی خدمت اقدس میں پہنچے اور بیعت ہوئے، چودہ سال تک اُن کی خانقاہ میں رہے اور اعلیٰ مدارج روحانی پر فائز ہوئے، پیر کو اس مرید پر کتنا اعتماد تھا اور مرشد نے اپنے اس فیض یافتہ کا کیا مرتبہ سمجھا تھا اس جملے سے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ شاہ عبدالمدین کی زبانی سنئے:

روزے شیخ بکمال التفات فرمود	ایک دن شیخ محبت اللہ آبادی نے
کہ محبت اللہ اگر پیر خود را ندیدے	بکمال التفات فرمایا کہ اگر محبت اللہ
و محمدی را بدیں کمال کہ دار دیافتی	(میں) اپنے پیر کو نہ دیکھتا اور محمدی کو
ارادت بویے آوردے	اس کمال پر جو وہ رکھتا ہے پاتا تو
(مقاصد العارفین)	اسی سے مرید ہو جاتا۔

! کچھ ایسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر تکی نے بھی: "اوانا محمد قاسم صاحب ہاتھ توڑی اور مولانا رشید احمد صاحب کنگوٹی کے بارے میں "ضیاء القلوب" میں ضمنی حیات پند و نصائح تحریر فرمایا ہے:

"ہر کس کہ ازین فقیر محبت و تقیدت ارادت دارہ: مولوی رشید احمد صاحب سکنہ: مولوی محمد قاسم صاحب سکنہ را کہ جامع جمیع کمالات علوم ظاہری و باطنی اندہ جائے راقم اوراق بلکہ مدارج فوق ازمن شمارند اگر چہ بظاہر محالہ برکس شد کہ اوشاں بجائے من و من بر مقام اوشاں شد، محبت اوشاں را نصیحت دانند کہ ایں جنمیں کناں دریں زمانہ تا یزب اند (ضیاء القلوب شیخ چھاپائی ص ۱۰۱) (فریدی)

حضرت شیخ محبت اللہ آلہ بادئی کے اور بھی چند خلفاء تھے لیکن جس قدر سلسلہ کا شیوع شیخ محمدی فیاض سے ہوا اور کسی سے نہیں ہوا آپ نے ع

رو بردر محبوبے شوخرم اسرارے

کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ طویل عرصہ تک اپنے شیخ کے قدموں سے جدانہ ہوئے۔ چودہ سال کے عرصہ میں صرف ایک مرتبہ اپنے والد صاحب سے ملنے کے لئے اپنے وطن (ہرگام ضلع سیٹاپور) آئے تھے، پھر والد سے ملاقات نہ ہو سکی، ان کے والد اپنے بیٹے کے غلغلہ کمال، شہرہ فضل اور دولت معنی کی بھم رسانی کو سن کر خوش ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کرتے تھے، والد کے انتقال کے بعد وطن پہنچے، لیکن چونکہ ان کا مستقر خلافت اکبر آباد (آگرہ) تھا اس لئے وطن میں قیام نہیں فرمایا۔

۱۰۵۸ھ میں پیر و مرشد کا وصال ہو گیا، ۱۰۶۰ھ میں یہ آگرہ پہنچے کثیر تعداد میں شہر کے سربر آوردہ اشخاص اور عمال سلطنت حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، اس کے چند سال بعد محمدی الدین اور نگ زیب عالمگیر سربر آرائے سلطنت ہوئے۔ اس وقت حضرت شاہ محمدی فیاض کا دریاے ارشاد و ہدایت آگرہ میں بڑی تیزی سے موجیں مار رہا تھا اور ان کا آفتاب شہرت نصف النہار پر تھا۔ یہ ترقی دیکھ کر، گندم نما جو فروش قسم کے صوفیوں کو حسد پیدا ہوا اور ان حاسدین نے آپ پر دہریت اور بے دینی کا اتہام لگا کر بادشاہ کو بدظن کرنا شروع کیا۔ آخر کار یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا آپ نے ایسے موقع پر مناسب خیال کیا کہ کچھ عرصہ کے لئے آگرہ کو خیر باد کہہ دیں اور ہندوستان کا ایک طویل سفر کریں۔ چنانچہ آپ آگرہ سے روانہ ہو کر دہلی، پانی پت، کرنال، منگلوہ ہوتے ہوئے مراد آباد تشریف لائے۔ جس شہر اور قصبہ میں کسی صاحب کمال کی شہرت سننے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ مراد آباد میں معلوم ہوا کہ امر وہہ میں تذوۃ الواصلین سید عبدالکلیم قدس سرہ خلیفہ حضرت شیخ عبدالجید قدس سرہ کا وجود گرامی قابل ملاقات ہے۔ چنانچہ امر وہہ آئے۔ امر وہہ آکر شاہ ولایت کے مزار پر حاضر ہوئے اور پھر سید عبدالکلیم سے ملاقات کی، آپس میں خوب راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، یہاں پر بہت سے اکابران کی جانب متوجہ ہوئے اور حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے، آپ یہاں سے آگرہ پہنچے۔ اس کے بعد دوبارہ امر وہہ

آتا ہوا۔

تیسری مرتبہ ۱۹۱۷ء میں سید عبدالکیم امروہیؒ کی خبر وفات سن کر امروہہ تشریف لائے۔ اب کی مرتبہ زیادہ عرصہ آپ نے قیام فرمایا۔ اس دفعہ جمع اکابر و اصاغر نے جو آپ کے حلقہ بگوش تھے مل کر یہ درخواست پیش کی کہ ”حضرت والا قصبہ امروہہ میں رشتہ مناکحت قائم کر لیں اور یہیں سکونت پذیر ہو جائیں“ یہ درخواست قبول ہوئی۔

شیخ فیض اللہؒ برادر حقیقی و خلیفہ سجادہ نشین شاہ عبدالحمید امروہیؒ کی دو صاحبزادیاں تھیں ان میں سے ایک حضرت شیخ کے نکاح میں آئیں اور کچھ عرصہ بعد دوسری صاحبزادی حضرت شیخ کے بھائی شاہ محمد حامدؒ والد شاہ عضد الدینؒ کو منسوب ہوئیں۔ اس طرح ہر گام کے ایک جعفری خاندان کے دو بزرگوں کے امروہہ سے وابستہ ہونے کی صورت پیدا ہوئی۔

حضرت شیخ نے اس رشتہ مناکحت کی بنا پر امروہہ میں سکونت اختیار کر لی اور ایک مسجد اور چند مکانات تعمیر کرائے چنانچہ امروہہ کا ایک پورا محلہ محمدی سرائے کے نام سے موسوم ہے۔ اس رشتہ کے بعد سے آپ کا معمول تھا کہ کچھ عرصہ امروہہ کچھ عرصہ دہلی اور کچھ دنوں اپنے مستقر الخلافت (آگرہ) قیام فرماتے تھے اور بیروسیاحت میں بھی رہتے تھے۔

حاسدین کی فتنہ انگیزی

حضرت شیخ کی روز افزوں شہرت اور قبولیت کو دیکھ کر حاسدین کی رگ حسد پھر جوش میں آئی اور انہوں نے اپنی آتش حسد کو تیز سے تیز تر کر دیا، حضرت شیخ تو حید و جود کے قائل تھے اور یہ عقیدہ صرف قال تک محدود نہ تھا بلکہ ان کا حال تھا۔ وہ شیخ محبت اللہؒ آبادی کے دیرینہ محبت یافتہ اور برگزیدہ خلیفہ تھے اور شیخؒ آبادی کی یہ خصوصیت مشہور و معروف ہے کہ وہ اپنے وقت کے شیخ اکبر ثانی تھے جیسا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اس خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے

عشق بحر و اجاج معانی ☆ محبت اللہ محی الدین ثانی

حاسدین کے لئے یہی کافی تھا کہ وہ وجودی مسلک کی نازک باتوں کو توڑ مروڑ کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں۔ مگر اس کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ دارالشکوہ سے ساز باز کا الزام بھی لگایا۔ تاہمی اور حسد و بغض سے مجبور ہو کر بادشاہ وقت سے باتیں لگائیں اور خوب اچھی طرح شیخ کے خلاف پروپگنڈہ کر کے ایک طوفان عظیم برپا کر دیا۔

حج بیت اللہ

اس موقع پر حضرت شیخ نے زیارت حرمین شریفین کا قصد کیا۔ چنانچہ ۱۰۹۰ھ میں آپ روانہ ہوئے دو سال آپ مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہے حج ادا کئے، بعدہ مدینہ الرسول پہنچے ۱۰۹۵ھ میں ہندوستان واپس آئے۔ اس سفر میں آپ کی اہلیہ محترمہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں، زمانہ قیام مکہ میں ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام محمد کئی رکھا گیا۔ قیام مدینہ کے زمانہ میں بھی ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام تہامی روشن محمد مٹی رکھا۔ حجاز سے واپسی پر پھر وہی فتنہ

واپس آنے پر مخالفین کی فتنہ انگیزی اور دراندازی بدستور باقی رہی بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس مرتبہ رسالہ تسویہ مصنفہ شیخ محبت اللہ لہ آبادی بھی معرض بحث میں آیا۔ عالمگیر جو ایک دیندار اور پابند شرع بادشاہ تھے، ان کے مزاج کو برہم کرنے کے لئے اچھے اچھے سامان بہم پہنچائے گئے مگر واہ رے استقلال کہ قدم ذرا نہیں ڈگکایا اور مخالفین کے تمام تیروں کا نشانہ اپنے سینہ بے کینہ کو بنایا۔

رسالہ تسویہ پر ہنگامہ

اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحق صاحب کے مقدمہ مآثر الکرام کی عبارت بخداف چند سطور پیش کر دی جائے تاکہ اس تاریخی واقعہ سے ناظرین کو یک گوند آگاہی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے ”تسویہ“ کی ایک عبارت کو پیش کر کے جو بحث کا دروازہ غلط طریقہ پر کھولنا چاہا ہے میں اس وقت اس سے قطع نظر کرتا ہوں۔

”آزاد نے حسب عادت میر سید محمد الترمذی کے تذکرے میں شیخ محبت اللہ لہ آبادی کی کتاب

تسویہ کا اچھا ہوا سا ذکر کر دیا ہے، لیکن اس کتاب کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس لئے ہم اُسے یہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوگا کہ بادشاہ اورنگ زیب اتار اللہ برہانہ کو جزئیات پر بھی ایسی ہی نظر تھی جیسی کلیات پر، دوسرے یہ معلوم ہوگا کہ بعض باخدا لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ وہ اورنگ زیب جیسے سخت گیر اور پر جلال شہنشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، تیسرے اس سے دینیات کے ایک معرکہ الآراسلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

رسالہ تسویہ شیخ محبت اللہ آبادیؒ کی تصنیف سے ہے جو ایک درویش اور صوفی تھے۔

جب یہ رسالہ (جو عربی زبان میں ہے) شاہ اورنگ زیب کی نظر پڑا تو انکار عظیم کیا، شیخ محبت اللہ اس زمانہ میں رحلت کر گئے تھے، لیکن اُن کے مریدوں میں سے دو شخص پایہ تخت میں موجود تھے۔ ایک میر سید محمد جو ملازم شاہی اور امرائے دربار میں سے تھے، دوسرے شیخ محمدی فیاضؒ جو لباس درویشی و زہد میں تھے، اول بادشاہ نے میر سید محمد سے ”تسویہ“ کی اس عبارت کی شرح دریافت کی ”سید نے شیخ کی مریدی سے انکار کر دیا۔“ بعد ازاں شیخ محمدی فیاضؒ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہیں شیخ کی مریدی کا اقرار ہے تو احکام شرع سے اس رسالہ کے مقدمات کو مطابق کر کے بتاؤ اور اگر مطابق نہیں کر سکتے تو اس کی مریدی سے استغفار کرو اور کتاب کو آگ میں ڈال دو۔

شیخ محمدی فیاضؒ نے جواب دیا کہ ”نہ مجھے اُن کی مریدی سے انکار ہے نہ استغفار کی ضرورت لیکن جس مقام سے کہ شیخ نے گفتگو کی ہے مجھے وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے جس وقت میں اس رتبہ کو پہنچ جاؤں گا تو آپ کی درخواست کے بموجب اس کی شرح لکھ بھیجوں گا اور اگر بادشاہ نے اس رسالہ کا جلاتا ٹھان لیا ہے تو اس فقیر متوکل کے گھر سے کہیں زیادہ شاہی مطبخ میں آگ موجود ہے، حکم دیا جائے کہ یہ رسالہ اور اس کی جس قدر نقلیں دستیاب ہوں آگ میں جھونک دی جائیں۔ بادشاہ اس جواب کو سکر ساکت رہ گئے۔“

(مقدمہ آشکر ام ص ۱۳-۱۵-۱۶ بحوالہ مرآة الخیال قلمی کتب خانہ آصفیہ دکن ص ۶۶ و آثار الامراء جلد سوم ص ۶۰۶ مطبوعہ ایشیا نیک سوسائٹی، بنگال کلکتہ)

وفات

عالمگیر بادشاہ نے ایک مدت تک شیخ کو دہلی میں محبوس رکھا بعد ازاں قلعہ اورنگ آباد (مہاراشٹر) میں مقید کر دیا۔ ۳۱ رجب ۱۱۰۷ھ مطابق ۱۶۹۶ء میں وفات پائی اور تابوت آگرہ لایا گیا اور وہاں دفن کئے گئے، حضرت شاہ عضد الدین نے قطعہ تاریخ لکھا ہے جس کا آخری شعر یہ ہے ع

گفت بگوش دل من کس زغیب ☆ قطب زماں رفت سوائے لامکاں
آپ کے مزار کی نشان دہی کرتے ہوئے صاحب تذکرۃ الکرام لکھتے ہیں۔

”مزار شریف محلہ ہنگ منڈی آگرہ میں لب سڑک واقع ہے پہلے یہاں عالی شان عمارت اور خانقاہ بنی ہوئی تھی امتداد انقلابات زمانہ سے تمام عمارت مسمار ہو کر حراز بھی ایک مکان کے اندر آ گیا تھا۔“

”صاحب بوستان خیال“ لکھتے ہیں: چند سال ہوئے شاہ بخاری نے مکان مذکورہ خرید کر دالان و احاطہ بنوادیا ہے۔“

اولاد

حضرت شاہ محمدی فیاضؒ کے جیسا کہ اوپر لکھا گیا دو صاحبزادے تھے جو بزمانہ قیام حجاز عالم و جوہ میں آئے تھے۔ (۱) شیخ محمد کی (۲) شیخ روشن محمد دنی

طب کی مشہور کتاب قریب الدین جلالی (جو مطبع نولکھور میں طبع ہو چکی ہے) کے مؤلف مولوی حکیم جلال الدین امر دینی (شاگرد حکیم علوی خاں دہلوی) شیخ محمد کی کے صاحبزادے اور شیخ محمدی فیاضؒ کے پوتے تھے۔
مریدین و خلفاء

آپ سے جن بزرگوں نے استفادہ کیا ان کی تعداد کثیر ہے لیکن ان میں اہم شخصیتیں یہ ہیں (۱) آپ کے برادر بیانی حضرت شاہ عبدالجلیل جعفریؒ جو پہلے شیخ محبت اللہ آبادی سے بیعت ہوئے، ان

کی وفات کے بعد تکمیل سلوک آپ سے کی۔ (۲) آپ کے برادر سوم حضرت شاہ محمد حامد جعفریؒ (۳) آپ کے برادر زادے حضرت شاہ عضد الدین محمد جعفریؒ تھے۔

عادات و خصائل

آپ کی مجلس میں خدا اور رسول ﷺ اور آیات و احادیث اور اقوال بزرگان کا ذکر ہوتا دنیادی اذکار بہت کم ہوتے۔ سائل کے سوال کو پورا کرنا سب سے مقدم خیال کرتے ہر شخص کا جواب عام فہم اور اسی کی زبان میں دیتے، ہمیشہ دوزانو بیٹھے اور احترام قبلہ کا خیال رکھتے، کبھی کشف و کرامات کا تذکرہ زبان پر نہ لاتے اہل دل کو بہت دوست رکھتے اور اہل علم کا بہت احترام فرماتے۔ جو لوگ آپ کو صاحبِ قائل کہتے اور صاحبِ حال نہ کہتے ان سے بہت خوش ہوتے اور فرماتے ”الحمد للہ کہ لوگ مجھے صفت کلام سے متصف کرتے ہیں، ہر نماز کے لئے تجدید وضو کرتے اور نصف شب کے بعد طاعتِ الہی میں مشغول ہو جاتے، نماز باجماعت ادا فرماتے، اکثر خود ہی امامت کرتے، ہمیشہ صرف ایک وقت کھانا تناول فرماتے اور وہ بھی محض اس لئے کہ قوت و توانائی باقی رہے۔ (تذکرۃ الکرام ص ۱۰۶)

حضرت شاہ محمد حامد جعفریؒ امر وہی

سید عیسیٰ جعفری ہرگامی کے صاحبزادے، شاہ محمد فیاضؒ کے برادر حقیقی ہیں۔ ۹ ربیع الثانی ۱۰۲۹ھ کو ہرگام میں پیدا ہوئے، مولانا سید عسکرت اللہ بن مولانا فضل اللہ سے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اخذ علوم کیا، اپنے بھائی شاہ عبد الجلیل سے بھی پڑھا باطنی علوم کا سرمایہ حضرت شیخ محبت اللہ لد آبادی کے فیضِ محبت سے حاصل کیا، رموز تصوف میں ایک رسالہ آپ کی تصنیف ہے۔

۱۰۷۳ھ میں اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ محمد فیاضؒ سے امر وہہ آ کر مدارج سلوک طے کئے اور ان کے مجاز و خلیفہ ہوئے، شیخ فیض اللہ علوی امر وہی کی دختر سے عقد نکاح ہوا۔ اس رشتہ کی وجہ سے امر وہہ میں آپ نے سکونت اختیار کی۔ حضرت شاہ عضد الدین محمد جعفریؒ آپ ہی کے صاحبزادے ہیں۔

حضرت شاہ محمد حامدؒ امر وہہ سے ہر سال اپنے بھائیوں شاہ عبدالجلیل و شاہ عبدالخالق سے ملنے ہر کام جایا کرتے تھے۔ ۱۱۱۸ھ میں وہیں گئے ہوئے تھے کہ انتقال فرمایا، دخل الجنتہ سے آپ کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔

ایک ضروری تصحیح

ہمارے تمام اکابر شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئی سے لے کر مرشدنا و شیخنا شیخ الاسلام حضرت مولانا مدظلہؒ تک کے مطبوعہ شجروں میں حضرت شاہ محمد فیاضؒ اور حضرت شاہ عضد الدینؒ کے درمیان شاہ محمد کئی ایک نام ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہ عضد الدینؒ کے پیر و مرشد ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شاہ عضد الدین صاحبؒ براہ راست حضرت شاہ محمد فیاضؒ کے بھی خلیفہ ہیں اور اپنے والد ماجد حضرت شاہ محمد حامدؒ سے بھی بیعت ہیں، اس لئے یہ درمیانی نام شاہ محمد حامد ہونا چاہئے نہ کہ شاہ محمد کئی، اس کے متعلق حضرت شاہ عبدالہادیؒ کے خاندان کے ایک فرد حکیم شبید احمد صاحب صدیقی امر وہی نے شجرات نظم و نثر میں ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

”شجرات خاندان حضرت مولانا شیخ محمد تھانویؒ و حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کئی میں ہونا حضرت شیخ محمد فیاضؒ کے اسم گرامی کے بعد حضرت محمد کئی کا اسم مبارک ہے جس سے مراد فرزند حضرت شیخ محمد فیاضؒ ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے حضرت شاہ محمد فیاضؒ کے بعد آپ کے برادر خورد حضرت شاہ محمد حامد ہر گامی کا اسم گرامی ہونا چاہئے جو حضرت شیخ عضد الدینؒ کے والد بزرگوار ہیں یہ ہردو (حضرت شاہ محمد حامد پدراور حضرت شاہ عضد الدینؒ فرزند) حضرت شیخ محمد فیاضؒ کے مرید و خلیفہ مجاز تھے جس کی تصدیق خود حضرت شیخ عضد الدینؒ کی تصنیف ”مقاصد العارفین“ سے ہوتی ہے، اندریں صورت اگر شیخ محمد کئی اور شیخ عضد الدینؒ کے درمیان کوئی واسطہ نہ رکھا جائے تب بھی درست ہو سکتا ہے، مگر والد بزرگوار کا واسطہ رکھنا باعث خیر و برکت و ادوی ہے“ (شجرات مطبوعہ ص ۶)

میں نے ذاتی طور پر تحقیق کی ”مقاصد العارفین“ قلمی، انوار العارفین، مفتاح الخزان، ملفوظات وحالات شاہ عبدالہادی کا مطالعہ کیا سب سے آخر میں حضرت شاہ حاتم خلیفہ حضرت شاہ عبدالباری کی قلمی بیاض دیکھی جو میرے رشتہ کے ماموں مولانا شاہ سلیمان احمد صاحب چشتی سجادہ نشین حضرت شاہ عبدالہادی کے پاس موجود محفوظ ہے اور جس کے متعلق غالب خیال یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالباری کے زلمہ حیات ہی میں وہ بیاض مرتب ہو گئی تھی۔ اس میں جہاں شجرہ بیعت درج ہے صاف طریقہ پر بجائے شاہ محمد کئی کے شاہ محمد حامد لکھا ہے: ہے۔ پس مناسب یہی ہے کہ سلسلہ امدادیہ کے شجروں میں بجائے شاہ محمد کئی کے حضرت شاہ محمد حامد کا نام نامی درج فرمایا جائے۔

میں اس امر کو اپنے اکابر کے سامنے رکھنے میں یک گونہ شرم محسوس کرتا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک تحقیقی بات تھی اور اس کا تعلق امر وہ سے ہے اس لئے میں نے اس کا اظہار ضروری سمجھا۔ سہو ایک نام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور بعد کو ہر وقت اس کی تصحیح کی جاسکتی ہے۔

شاہ عضد الدین کا نام مبارک ہمارے اکابر کے یہاں مدتوں شاہ عزیز الدین مشہور چلا آیا اور بعد کو اس کی تصحیح ہوئی جیسا کہ بیاض یعقوبی، نیز ضیاء القلوب مطبوعہ سنجہائی کے ۱۰۲ کے حاشیہ پر بایں الفاظ اس کا ذکر ہے:

”ان کا (شاہ عضد الدین کا) نام پہلے عزیز الدین مشہور تھا۔ حضرت شاہ رحمن بخش صاحب کے (جو شاہ عبدالہادی کی اولاد سے ہیں، علاقے داروں سے معلوم ہوا کہ آپ کا نام عضد الدین ہے۔ لہذا سلسلوں میں بھی یہی نام لکھا گیا کہ وہ قرابت دار اور سلسلہ میں داخل تھے ان کو تحقیق ہوگی۔“

علاوہ ایں شیخ محمد کئی کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت ۱۳-۱۴ سال کی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم کا زمانہ ہے۔ اس عمر میں اپنے والد ماجد سے سلوک کی منازل کیسے طے کی ہوگی؟ پھر حضرت شاہ محمد فیاض کے خاندان کی دستاویزات اور کاغذات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنے والد ماجد کے سجادہ نشین دوسرے صاحبزادے شیخ روشن محمد دی تھے۔ اس لحاظ سے بھی شیخ محمد کئی سلسلہ کے اندر نہیں آتے ہیں، لامحالہ یہ شاہ محمد سلیمان احمد صدیقی نے جامعہ اسلامیہ مرہیہ جامعہ سید، امر وہ میں جملہ علوم کی تحصیل و تکمیل حضرت محدث امر وہی سے کی۔ ۲۳/۱۱/۱۳۸۱ھ مطابق یکم جنوری ۱۹۶۶ء میں وفات ہوئی۔ (محب الحق)

حامد ہیں۔ جن کے بجائے شیخ محمد کئی کے نام کا اندراج سدا ہو گیا ہے، حضرت شاہ عضد الدین ہرگز شیخ محمد کئی سے بیعت نہیں تھے بلکہ بہت ممکن ہے کہ خود شیخ محمد کئی نے اپنے پچازاد بھائی حضرت شاہ عضد الدین سے اخذ فیض کیا ہو، کیونکہ یہ عمر میں بھی اُن سے بہت بڑے تھے اور ان کے والد شاہ محمدی فیاضؒ سے براہ راست خلافت حاصل کر چکے تھے۔

حضرت شاہ عضد الدین محمد جعفری امر وہیؒ

حضرت شاہ محمد حامد ہرگامی ثم امر وہی کے فرزند دلپند ہیں جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت شاہ محمد حامد ۱۷۳۷ء میں اپنے برادر بزرگ حضرت شاہ محمدی فیاضؒ کے تعلق سے امر وہہ آئے اور یہیں عقد نکاح کے بعد متوطن ہو گئے تھے۔ ۲۳ رجب ۱۷۷۷ء کو شاہ عضد الدین محمد امر وہہ میں پیدا ہوئے۔

تحصیل علوم

فارسی و عربی کی تحصیل و تعمیل کے بعد سنسکرت زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ہزاروں مشکلات اختیار کر کے بالآخر اُس میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ مؤلف تذکرۃ الکرام اس سلسلے میں یوں رقم طراز ہیں:

”اُس زمانے میں کسی مسلمان کا سنسکرت زبان سیکھنا اور برہمنوں کا اپنی مقدس زبان کا کسی مسلمان کو سکھانا آج کی بہ نسبت جس قدر دشوار تھا اُس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں..... مگر اس نوجوان جو یائے علم کا عزم راسخ مشکلات پر غالب آیا.....! جو دہیا اور بنارس کا سفر اختیار کیا۔ پنڈتوں سے سنسکرت زبان سیکھی اور عرصے تک مقیم رہ کر ہندو مذہب اور ہندو فلسفہ سے واقفیت تام حاصل کی۔“ (تذکرۃ الکرام ص ۱۲۲)

تصانیف

مقاصد العارفین، دیوانِ عضدی اور ایک کتاب سد سرور بزبان سنسکرت آپ کی تصنیفات ہیں۔ مگر

۱۔ مقاصد العارفین کوڈا کٹر نارامہ فاروقی مرحوم نے ایڈٹ کیا اور مقدمہ لکھا جسے نواب زادہ شوکت علی خان (نوبک) نے شائع کیا۔ (محب الحق)

افسوس ان میں سے کوئی کتاب طبع نہیں ہوئی۔ اب یہ کتابیں کیا اب بلکہ تباہ ہو چکی ہیں۔ مقاصد العارفین جو علم عقائد و تصوف میں ایک بیش بہا اور معرکتہ الآرا کتاب ہے اُس کا صرف ایک نسخہ ایک صاحب کے پاس امر وہ میں موجود ہے وہ بھی نہ معلوم دست برد زمانہ سے کس طرح محفوظ رہ گیا۔

اس کتاب کے مطالعہ کی سعادت احقر کو حاصل ہوئی ہے۔ بڑے اعلیٰ پایہ کی کتاب ہے، اس سے مصنف کے مبلغ علم کا پتہ چلتا ہے۔ اس کتاب کو چند سال کی محنت کے بعد ۱۱۲۳ھ میں ختم کیا۔ اس تصنیف میں کس قدر عرق ریزی کرنی پڑی اُس کو خود ہی فرماتے ہیں:

ہزار بار فرو رفتہ ام بقصر محیط ☆ رسیدہ تا برف ایں چند گوہران بیبط
 ”اس کتاب کی تصنیف کا سبب والد ماجد تھے۔ انھوں نے حضرت شیخ محمدی فیاض کی
 توجہ سے جو فیض حاصل کیا تھا اُس کی معاونت سے بعد وفات شیخ چند مقدمات صوفیہ
 تحریر فرمائے تھے۔ اُن مقدمات کی شرح کا کام اپنے صاحبزادے کے سپرد فرمایا۔
 ۱۱۱۵ھ میں یہ کام سامنے آچکا تھا اور اس کے کرنے کا عزم بھی کیا لیکن بعض وجوہ سے
 عرصے تک یہ کام پورا نہ ہو سکا بالآخر والد گرامی کی تاکید مزید اور تحریک قوی سے مجبور ہو
 کر ۱۱۱۵ھ میں باقاعدہ اس کو شروع کر کے ۱۱۲۳ھ میں اختتام کو پہنچایا۔“

دیباچہ کتاب میں اسی حقیقت کو ظاہر فرما رہے ہیں:

”ابابعدی گوید فقیر عضد الدین محمد امرودی ابن شیخ حامد ابن شیخ عیسیٰ ہرگامی کہ چون
 والد گرامی مراد خدمت شریف مجلس عالی قبلہ گاہ ارشاد پناہ شیخ محمدی ابن شیخ عیسیٰ
 ہرگامی بیشتر ایام محبت حاصل بود و اونچہ معانی عالیہ از زبان آں قبلہ ظاہری شد بر آئینہ
 صافی ضمیر پدر بزرگوار و دیگر آئینہ داران محفل آں آفتاب معرفت عکس انجلا می گرفت
 بعد وفات شیخ والدہم بطور چند در تحقیق بعضے مقدمات صوفیہ نوشتہ بود۔ در سن یکہزار و یک
 صد و یازدہ (۱۱۱۵ھ) بایں کترین حوالہ نمود تا بہارت منضبط آں مقدمات را واضح نماید

اس کمترین بحکم وصینا الانسان بوالدیه احسانا۔ لاچار آمدہ عزم برآں گماشت کہ بزبان قلم آورد..... چون والدمراتا کید فرمود تا چار سن یکہزار و یک صد و پانزدہ کتابت کردم (۱۱۱۵ھ) و مقاصد العارفین نام نہاد و درسن یکہزار و یک صد و بست و چہارم اختتام یافت (۱۱۲۳ھ)“

دیوان عضدی کا بھی کوئی نسخہ اب امر وہہ میں باقی نہیں ہے۔ احقر نے اس دیوان کے آخری ورق کی زیارت کی ہے جو مراد آباد سے ایک صاحب کو دستیاب ہوا تھا۔ اُس کے مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ کلام نظم پر بھی بڑی قدرت حاصل تھی۔ بعض غزلیں حافظ شیرازی کی بعض غزلوں پر لکھی ہیں۔ عضدی متخلص تھا۔ چند اشعار ایک قصیدے کے جو حمد پروردگار جل شانہ میں لکھا ہے نقل کرتا ہوں۔

چہ یار اذرہ خاکی کہ نامش برزباں آرد دریں پستی خیال، خود بر اوج آسماں آرد
خداوندے کہ دریک دم دو حرف کاف و نون او ہزاراں کلمہ قدرت بر اوراق عیماں آرد
کراتاب ثنائے او کہ گوید و صف توحیدش اگر گوید ہماں باشد کہ عجز اندر عیماں آرد
ہمائے فر اجلاش شکارپشہ نتواں شد کجا مور ضعیف آخر کہ کوہے درد ہاں آرد

آپ کے اقوال و کرامات

اس عنوان کے تحت مناسب سمجھتا ہوں کہ مؤلف تذکرۃ الکرام کی عبارت جتنہ پیش کر دوں:

”تعبیر رویاء میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ واقعات کے بارے میں جب کبھی پشنگوئی کرتے

پوری ہوتی۔ حاجی رفیع الدین (مراد آبادی) اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ۱۱۱۶ھ میں مجھے امر وہہ جانے کا اتفاق ہوا۔ شاہ عضد الدین محمد کی خدمت میں بھی حاضری کا موقع ملا۔ اُن ایام میں روہیلوں کا تسلط ملک کلمبر

ع حاجی رفیع الدین فاروقی مراد آبادی صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ان کی خط و کتابت رہتی

تھی۔ حضرت شاہ صاحب کے جوابات اور اپنے سوالات کو اسولہ واجوبہ کے نام سے مرتب فرمایا ہے۔ تذکرہ بھی اُن کی ایک نایاب

تصنیف ہے جو اب واقعی نایاب ہو گیا ہے۔ خود اُن کے وطن میں باوجود تلاش کے اس کا کوئی نسخہ دستیاب نہ ہو سکا۔ معلوم ہوا ہے کہ

نواب شروانی مرحوم کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ (فریدی)

(روہیلکھنڈ) کے اس حصہ پر ہو گیا تھا اور ان کے جبر و تشدد کا ہر جگہ چرچا تھا۔ شاہ صاحب کی مجلس میں بھی مخلوق خدا کی عام پریشانی کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس وقت آپ نے مجھے (حاجی رفیع الدین مراد آبادی کو) مخاطب کر کے فرمایا کہ روہیلوں پر پھاگن کے مہینے میں آفت آئے گی۔ میں نے عرض کیا کس پھاگن میں؟ فرمایا امسال یا آئندہ کسی سال مگر پھاگن کے مہینے میں.... حاجی صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ”بعد وفات شاہ صاحب سندھیا اور دوسرے سرداران قوم مرہٹہ نے شاہ عالم بادشاہ کو ساتھ لے کر ضابطہ خاں سے جنگ کی۔ پھاگن کے چند ہی دن گزرے تھے کہ ضابطہ خاں کو شکست ہوئی اور یہ ملک روہیلوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔“

”ایک مرتبہ ایک جوگی جو کیمیا سازی میں مہارت رکھتا تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے تقدس و کمالات دیکھ کر گرویدہ ہو گیا۔ ایک دن اس نے اکسیر جس کے ذریعہ سے سونا بنانا تھا ایک تیل میں رکھ کر پیش کی اور سونا بنا کر بھی دکھلایا۔ شاہ صاحب نے اس کے قبول کرنے سے ہر چند انکار کیا مگر جوگی کے اصرار سے مجبور ہو کر وہ تیل اس کے ہاتھ سے لے کر خانقاہ کے طاقچے میں رکھ دیا کئی سال بعد وہ جوگی پھر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ تیل خاک و گرد میں آلودہ بدستور اسی جگہ رکھا ہے اٹھا کر دیکھا تو اکسیر بھی اسی طرح موجود ہے۔ اُس نے دریافت کیا کہ اس کو کام میں کیوں نہ لایا گیا آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آگ جلانے اور تاننا گلانے کی فرصت کہاں؟ موت ہر وقت سر پر سوار ہے۔ مگر ہمارے پاس تمہاری اس اکسیر سے زیادہ قیمتی اکسیر موجود ہے جوگی نے اس اکسیر کا نسخہ معلوم کرنا چاہا آپ نے فرمایا:

”تاعت“ (تذکرۃ الکرام ص ۱۲۳، ۱۲۵)

وفات

۲۷ مارچ ۱۷۲۳ء مطابق ۲۷ مارچ ۱۷۵۹ء کو تقریباً سو برس کی عمر پا کر واصلِ بحق ہوئے۔ قطعہ

تاریخ وفات یہ ہے: قطعہ

نبردِ حلت چو شاہ عضد الدین	☆	بست و بفتح رجب زدار فنا
سال تاریخ او چو پر سیدم	☆	گفت ہاتف کہ شد باہر خدا

آپ کا مزار جامع مسجد، امر وہہ کے قریب ہے مزار کے قریب ہی آپ کی حسپوش خانقاہ ہے جو بکچی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے۔

اولاد اور خلفاء

آپ کی اولاد میں درویشی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اب سے پچاس ساٹھ برس پیشتر حضرت شاہ قیام الدین جعفریؒ جو کہ صاحب جذب و حال بزرگ اور اس خاندان کے سجادہ نشین تھے۔ اُن کے کشف و کرامات کے سیکڑوں واقعات زبان زد خاص و عام ہیں۔

ان کو حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امر وہی اور مولانا عبدالغنی صاحب پھلاؤدی سے بہت زیادہ ربط تھا کبھی کبھی مدرسہ میں تشریف لے آتے تھے اور دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔

اُن کے جنازہ کی نماز حضرت محدث امر وہی نے ہی پڑھائی تھی۔ آج اس خاندان کا چشم و چراغ ایک نوجوان کا یادگار ہے۔

حضرت شاہ عضد الدینؒ کے مرید و مجاز بہت سے تھے مگر سب میں افضل و اشہر حضرت شاہ عبدالہادیؒ ہیں۔

حضرت شاہ عبدالہادی صدیقی امر وہیؒ

آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی شیخ محمد حافظ ہے۔ آپ امر وہہ محلہ قریشی میں ۱۳۱۳ھ جب ۱۰۸۴ھ موافق ۱۶ جلوس عالمگیری بروز چہار شنبہ پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب اکتیس واسطوں سے حضرت محمد بن ابی بکر صدیقؓ سے متصل ہوتا ہے۔

بچپن اور آغاز شباب

مفتاح الخزان میں ہے کہ آپ کے والد ماجد شیخ محمد حافظ سے (جو کہ رؤسا امر وہہ میں سے تھے)

اب پختہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد، امر وہہ کے دارالحدیث کی بنیاد حضرت محدث امر وہی نے آپ سے رکھوائی تھی۔ ۱۰ نومبر ۱۹۰۷ء کو مولانا عبدالمعین الدین جعفری عرف بابو میاں مرحوم جن کا انتقال ۲۸ رمضان المبارک ۱۳۲۷ھ مطابق

۶ ذی الحجہ ۱۹۰۷ء میں ہوا۔ اس وقت محمد مطلب جعفری سجادہ نشین ہیں۔ (محب الحق)

منقول ہے کہ شاہ عبدالہادی چار سال کے تھے کہ ایک دن حضرت شاہ محمدی فیاض بہت قریب ضیافت ان کے والد کے مکان پر تشریف لائے فراغت طعام کے بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب اٹھے اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ چونکہ حضرت شاہ محمدی کی بصارت ظاہری کچھ کم ہو گئی تھی علاوہ ازیں استغراق بھی تھا۔ اس لئے سمت قبلہ سے کچھ ہٹ کر کھڑے ہوئے حضرت شاہ عبدالہادی نے باوجود صغیرن کے ان کا ہاتھ پکڑ کر صحیح طریقہ پر متوجہ قبلہ کر دیا۔ حضرت شیخ نے اس بات سے خوش ہو کر فرمایا:

”شیخ محمد حافظ خلف الصدق شامقداے عصر گردو عالمے رادر طریق حق دستگیری نماید“۔

وادا پیر کے یہ الفاظ جو کہ متضمن بدعائے خیر تھے کس قدر مقبول ہوئے ان کے مقتداے عصر ہونے اور طریق حق میں دستگیری اور ہنمائی کرنے میں کے کلام ہو سکتا ہے۔

قاسم العلوم و المعارف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنے شجرہ منظرہ میں حضرت شاہ عبدالہادی کی اسی خصوصیت کا اظہار فرمایا ہے۔

بعد الہادی ہادی پیراں ☆ امیر دستگیر دیکیراں

تعلیم و تربیت

اسی وقت سے ترک و تجرید کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ والد بزرگوار نے اس خیال سے کہ حصول علم معنوی سے حصول علم صوری ضروری ہے۔ ایک معلم کے پاس بٹھایا۔ مفرح القلوب اور گلستان کے دو باب تک پہنچے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ اتفاق سے معلم صاحب کتب سے اٹھ کر کسی کام کو گئے ہوئے تھے اور سوائے حضرت شاہ عبدالہادی کے کتب میں کوئی موجود نہ تھا۔ ناگاہ ایک درویش سالکوں کے لباس میں نمودار ہوا جس کو دیکھ کر آپ پر ایک قسم کا ہراس غالب ہوا۔ اس درویش نے کھانے کی کوئی چیز منہ میں سے نکال کر آپ کو دی اور کہا کہ اس کو کھالے، آپ نے خوف کی وجہ سے بے تامل اس کو کھالیا۔ اس کے بعد وہ درویش نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کا کھانا تھا کہ آثار وحشت آپ پر طاری ہو گئے۔ صحرانوردی کی ٹھان لی اور آشنایگانہ سے بیگانہ ہو کر مسلسل تین شبانہ روز ااپتہ رہے۔ تلاش کر کے گھرا یا گیا۔ اس کے بعد آپ کا یہ

معمول ہو گیا کہ دن بھر جنگل میں رہتے رات کو کسی وقت گھر آ جاتے۔ سولہ سال کی عمر تک یہی حالت رہی۔ والد ماجد نے یہ حال دیکھ کر ان کی شادی کر دی تاکہ آثار وحشت کم ہوں۔ لیکن وارثگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر کار پرگنہ شیرکوٹ کے ایک موضع کا انتظام کاشت آپ کی حسب خواہش آپ کے سپرد کیا گیا۔ وہاں پر آپ نے اپنی سیر چشمی اور سخاوت کے جوہر دکھائے اور محتاجوں کی رفع ضرورت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ یہاں پر بھی باوجود فراغت اور تنہائی کے آپ کے جوش دروں میں سکون پیدا نہیں ہوا۔ شاہ یتیم صحرائی ایک مجذوب نواح امروہہ میں رہتے تھے ان کی ہمراہی میں صحرا نور دی میں مصروف ہو گئے اور ذوق و شوق کی کیفیات حاصل کیں۔ ایک دن شاہ یتیم صحرائی نے اپنے پیران عظام کا سلسلہ بیان کر کے ان کو ہدایت کی کہ تم شاہ عضد الدین سے بیعت کر لو ان کا سلسلہ اور میرا سلسلہ پانچ واسطوں کے بعد حضرت شاہ نظام الدین ^{علیہ السلام} پر ایک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت شاہ عضد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بیعت ہوئے اور انہیں کی صحبت اقدس میں رہنے لگے۔ یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایک دن آدمی رات کا وقت تھا اپنے مرشد کے پاؤں داب رہے تھے اٹھا حالت میں عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیے کہ جاذبہ رحمت الہی مجھے قید خودی سے نجات دیدے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میاں تم بارعلاق اپنے سر پر رکھتے ہو اور حرص کرتے ہو ہم جیسا بننے کی۔ یہ سنکر نہایت لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت! میری تو یہ تنہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سگان کوچہ حضرت کی مانند بنا دے۔ پیر و مرشد کے دل میں یہ الفاظ گھر کر گئے کمال عنایت سے آپ کو نوازا اور اپنا خلیفہ اور نائب مطلق بنایا۔

آپ کا ظاہری علم اگرچہ مختصر ہے مگر آپ کو علم لدنی حاصل تھا۔ وہ علم جو اولیاء امت محمدیہ کو منجانب

حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر کی جن کے ذریعہ حضرت شاہ عبدالہادی کا نام عرب و عجم میں شہرت پزیر ہوا۔ اتفاق دیکھئے کہ ان کی درسیات بھی مختصر ہیں۔ قرآن شریف حفظ کیا بعدہ مولانا مملوک علی صاحب کے ہمراہ دہلی کا سفر کیا۔ اسی زمانہ میں چند مختصرات فارسی تحصیل فرمائے۔ کچھ صرف و نحو اساتذہ عصر سے حاصل کی اور مولانا رحمت علی تھانوی سے حکمیل الامان شیخ عبدالحق دہلوی کی قرأت کی۔ (شائمہ امدادیہ ص ۱۰) اس کے باوجود علم لدنی کا حال سنیے:

ایک شخص نے قاسم اعظم مولانا محمد قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت محمد م عالم حاجی امداد اللہ صاحب عالم بھی ہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ عالم ہونا کیا معنی اللہ نے ان کی ذات پاک کو عالم کر فرمایا ہے۔ نیز احمیات میں لکھتے ہیں کہ جس وقت بانی اگلے صفحہ پر

اللہ نصیب ہوتا ہے۔ علم سینہ کی مدد سے آپ عجیب عجیب رموز و معارف بیان فرمایا کرتے تھے۔ سچ ہے

صد خانہ پراز کتاب کارے ناید باید کہ کتاب خانہ در سینہ بود

حضرت مرزا مظہر جانجاناں جو کہ علم باطنی کے ساتھ علم ظاہری میں بھی درجہ کمال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سنہیل تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالہادی کا قیام اُس زمانے میں موضع برای (پرگنہ سنہیل) میں تھا۔ آپ نے سنہیل پہنچ کر حضرت مرزا صاحب سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات میں حضرت نے کلام پاک اور بعض احادیث کے جو مطالب بیان فرمائے ان کو سکر مرزا صاحب کو آپ سے خاص اُنس ہو گیا۔ ایک مرتبہ مرزا صاحب دہلی سے موضع برای بھی تشریف لائے۔

شاہ عالم بادشاہ کی عقیدت

نواب امین الدولہ سنہیلی اور مرزا اکبر علی خاں کو آپ سے بہت عقیدت تھی ان حضرات نے آپ سے شاہ عالم بادشاہ کی طرف خاص توجہ فرمانے کی استدعا کی اُس زمانے میں بادشاہ بہت متشکر تھے سلطنت زبردور ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بادشاہ میرے نصائح پر عمل کریں گے تو کیا عجب ہے کہ حالات درست ہو جائیں اور سلطنت مضبوط ہو جائے اور اگر ان نصائح پر عمل پیرا نہ ہوں گے تو اس سے زیادہ تباہی و بربادی ہوگی۔

صاحب مقنن الخزانے نے اس سلسلہ کی مراسلت اور شاہ عالم کے دو خط (جن میں اظہار عقیدت

گذشتہ سے آگے..... مکہ معظمہ میں زیارت حضرت ایٹان سے شرف اندوز ہوا ہجرت حیدرآباد وین دنیا کچھ نہ پیش کر سکا۔ بجز اس کے کہ ان ہی اوراق سیاہ مسودہ کو پیش کر کے رسم پیش کش بجالایا..... یہ تمام نورا افشانی بدولت اسی شخص العارفین (حاجی صاحب) کے ہیں اور اس جگہ بھی مثل زبان و دست بقلم ۱۰ خطبہ پور مضامین کنونول عرش منزل حضرت ایٹان ۱۱۰۰ء۔ (شام امداد یہ ۱۸)

راقم مکملین (مؤلف شام امداد یہ) نے اکثر زبان حق ترجمان سے سنا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مولوی محمد قاسم مرحوم کو یہی زبان بنایا تھا جیسے ۱۱۰۰ء اور مولانا حضرت شمس تہ بڑا قدس سرہ کی بنایا تھا۔ (شام امداد یہ ۱۸) فریدی
یہ کتاب ۱۲۲۸ھ میں نارملی بخاری بریلوی مصنف فضاؤد لغتین نے حضرت کے غلطہ زہرت شاہ کی فرمائش پر ترتیب دی۔ کتاب کا نام تاریخ بنی۔ (۱۳۳۱ھ میں نکات حیدرآباد یہ) یہ کتاب جانہ ۱۳۳۲ھ میں صاحب مرحوم نے شائع کر کے مفت تقسیم کی۔ فریدی)

و عرض مدعا ہے) من و عن درج کر دئے ہیں۔

نواب دوندے خاں کی عقیدت

نواب دوندے خاں آپ کے کمالات کا شہرہ منکر ملاقات کے مشتاق تھے۔ آپ کو بسولی بلانے کی ہر چند کوشش کی لیکن آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے پھر سید علی اعظم خان امر وہی کے اصرار پر تشریف لے گئے۔ قیام بسولی کے زمانہ میں دوندے خاں دردقونج میں مبتلا ہوئے۔ سخت تکلیف تھی اطباء و معالجین علاج و تدابیر کرتے کرتے عاجز آ گئے۔ آپ حسب درخواست نواب کی مجلس اے میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی نواب دوندے خاں کے بالمقابل ہوئے درد کا پتہ نہ تھا۔

لکھنؤ کا سفر

ایک مرتبہ بعض معتقدین کی درخواست پر آپ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ اکبری دروازہ میں آپ کا قیام ہوا۔ لکھنؤ میں بندگان خدا جوق در جوق آپ سے نیاز حاصل کرنے آئے وہاں لوگ آپ کی خدمت میں نذریں گزارتے تھے لیکن آپ استغناء کے باعث ان کی رقوم قبول نہیں فرماتے تھے، واپس کر دیتے تھے۔

آپ کا قیام کہاں کہاں رہا

آپ امر وہہ میں بہت کم رہے اپنے پیر و مرشد کی حیات ہی میں صحرائے حاذق پور میں قیام پذیر رہتے تھے۔ بعد عالم رویاء میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان (کہ آبادی میں رہ کر خلق اللہ کی نصاب و مواظب کے ذریعہ رہنمائی کرو) کے بعد آپ موضع برہای چلے گئے۔ مدتوں وہاں رہے۔ پھر مولانا محمد احسن خاں عباسی کی استدعا پر آپ بریلی تشریف لے گئے وہاں مولانا کے مکان میں قیام رہا بعدہ قاضی شیخ الاسلام صدیقی وغیرہ اکابر شہر بریلی کی درخواست پر موضع کھائی کھیزہ (نزد بریلی) کی سکونت اختیار کی وہیں ۴ رمضان المبارک ۱۱۹۰ھ بروز جمعہ قریب دو پہر آپ کا وصال ہوا۔ آپ وہیں دفن کئے گئے تھے ع

”عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی میا“

کیم شوال ۱۱۹۰ھ کو تابت مبارک اعزاز میں امریدین امر وہ لے آئے ۸ شوال سن مذکور کو بمقام امر وہ اپنے صاحبزادے شیخ ظہور اللہ صدیقی کے باغ میں قیامت تک کے لئے محو استراحت ہوئے۔

آپ کے خلفاء

آپ کے خلفاء بکثرت تھے۔ صاحب نخچہ التواریخ لکھتے ہیں:

”خلفاء و مریدانہ راشیہ واحدہ نیست“

چند خلفاء کے نام درج کرتا ہوں: (۱) آپ کے ہر دو نبیرگان شاہ عبدالباری (۲) و شاہ دوست محمد (۳) شاہ محمد قاسم فاطمی (۴) شاہ محمد کمل مراد آبادی (۵) حاجی محمد اکبر شاہ صاحب (۶) زہت شاہ بریلوی (۷) مولوی شاہ ظہور اللہ مراد آبادی (۸) شیخ نور لاہوری (۹) شاہ حسین دلائی (۱۰) بشارت علی ساکن سیٹل تحصیل نواب سنج ضلع بریلی (۱۱) مولانا محمد احسن خاں عباسی ساکن بریلی محلہ قاضی نولہ آپ شاہ عالم بادشاہ کے عہد میں عہدہ قضاء پر ممتاز اور بلند پایہ فقیہ و محدث تھے۔ (۱۲) قاضی شیخ الاسلام (۱۳) مولانا صدر الشریعہ ہر دو حضرات بریلی کے ساکن نسباً صدیقی اور صاحب علم و عرفان تھے۔ (۱۴) جنم شاہ، نو مسلم تھے حضرت کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے اور باطن کی تکمیل کی۔ (۱۵) شاہ عنایت، نو مسلم تھے۔ حضرت کی عنایت سے اعلیٰ مدارج ولایت حاصل کئے۔ (۱۶) مولانا حاجی رفیع الدین خاں فاروقی ساکن مراد آباد عالم و فاضل مفسر و محدث تھے۔ اولاً حضرت شاہ عضد الدین محمد جعفری سے ارادت تھی پھر حضرت شاہ عبدالہادی سے بیعت ہوئے۔ اپنے تذکرے میں ایک موقع پر تحریر فرماتے ہیں:

”شیخ عبدالہادی قریشیؒ مروی..... با من بسیار مہربان بود۔“

اولاد

آپ کے ایک صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادے کا اسم گرامی شیخ ظہور اللہ ہے۔ اگرچہ یہ میدان روشنی میں گامزن نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے دو صاحبزادے حضرت شاہ عبدالباری اور

حضرت شاہ دوست محمد کا ملائین وقت سے تھے۔ اول الذکر سلسلہ عالیہ امدادیہ کے ایک فرد ہیں۔ آگے ان کا ذکر مفصل آ رہا ہے۔

ایک خاص واقعہ کا ذکر

صاحب مفتاح الخزانہ نے لکھا ہے کہ ابتدائے سلوک میں حضرت گوٹھہ کا بہت شوق تھا ایک دن اپنی ہمشیرہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور اپنی بھانجی سے ہتھ بھر کر لانے کی فرمائش کی۔ ہمشیرہ کی زبان سے اُس وقت میرا سنا کہ ”ابھی تک باوجود فقیری کے حکومت و فرمائش کی بود ماغ سے نہیں گئی۔ اگر ایسا ہی تھا تو باپ دادا کی ریاست کو کیوں چھوڑا؟“ (یہ فرمائش ریاست میں ہی اچھی معلوم ہوتی ہے) ہمشیرہ کے ان کلمات و نصائح کا آپ پر اس قدر اثر پڑا کہ آپ نے یہ عہد کر لیا کہ ہرگز کسی سے خدمت نہیں لیا کریں گے۔ چنانچہ آپ کسی سے فرمائش کر کے خدمت نہیں لیتے تھے یہ دوسری بات ہے کہ مریدین ذخیرہ برکات جمع کرنے کے لئے از خود خدمت کریں۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی کام منظور و ملحوظ ہوتا تو خدام و حاضرین کے قلوب پر اپنی توجہ ڈال کر اُن کو سعادت اندوزی کا موقع عنایت فرمادیتے تھے۔ آپ اپنی ہمشیرہ کا ذکر خیر اکثر فرمایا کرتے تھے اور ان کی نصیحت کو تمام عمر نہیں بھولے۔ آپ نے ہتھ بھی ترک کر دیا تھا اس کی وجہ مفتاح الخزانہ میں یہ لکھی ہے کہ آپ ایک رات سردی کا نجات ۷۷ کی زیارت سے مشرف ہوئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عبدالہادی حقہ راترک کن“۔

بس اُس دن سے اتنا دل امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھتے ہوئے حقے کو چھوڑ دیا اور مدت العراس کی طرف التفات نہیں کیا۔

آپ کے کرامات و خرق عادات

صاحب مفتاح الخزانہ نے آپ کی بہت سی کرامات لکھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے:

”از انجا کہ کرامات و خرق عادات آنحضرت بحد تو اترو تو ابی رسیدہ اگر شرمہ ازاں بقید

تلم و تحریر در آید دفتر بلایید پروا خست“ یعنی آپ کی کرامات اس کثرت سے ہیں کہ ان میں کا تھوڑا سا حصہ بیان کرنے کے لئے دفتر کے دفتر درکار ہیں۔“

کلماتِ طلیبات

اب میں حضرتؒ کے چند اقوال و ملفوظات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں مفتاح الخزان سے ماخوذ و منتخب ہو کر پہلی مرتبہ یہ اقوال سامنے آرہے ہیں عام تذکرہ نویسوں نے اس حصے کو نظر انداز کر رکھا تھا۔

آئیے اب ان کی کچھ باتیں سنئے:

① ایک دن آپ نے فرمایا: کہ برکات فقیر ہر وقت منقسم ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی فقیر کی محض دلی توجہ سے کشادگار ہو جاتا ہے یعنی زبان خاموشی سے کام کرتا ہے اور بسا اوقات اس کو زبان سے کہنے کی حاجت ہوتی ہے۔ کبھی نگاہ سے کام چل جاتا ہے اور کبھی ہاتھ پاؤں کو حرکت میں لانے کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ اس آخری صورت کی تشریح میں ایک واقعہ بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بریلی میں ایک بیمار کے لئے جس سے اطباء عاجز آگئے تھے آپ نے دعاء کی وہ مستجاب نہ ہوئی آخر آپ بریلی سے چل کر ایک موضع میں پہنچے اور وہاں سے ایک باغ میں پہنچ کر مشغول دعاء و توجہ ہو گئے۔ انجام کار اللہ تعالیٰ نے بیمار پر فضل فرمایا اور اس کو شفا ہو گئی۔

② بریلی کی اقامت کے زمانے میں آپ کے صاحبزادے شیخ ظہور اللہ بریلی آئے اور یہ قصد تھا کہ میں اپنی معاش کے بارے میں حضرت سے عرض کروں گا کہ جس ملازمت پر میں ہوں اس سے بقدر حاجت یا قوت نہیں ہوتی۔ پہلے اس سے کہ وہ اپنے دل کی بات کہیں حضرت نے فرمایا کہ:

”عجیب بات ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مرتبہ و مال میں حافظ رحمت خاں (والہی

بریلی) اور نواب دوندے خاں (والئی بسولی) اور دیگر نوابوں کی مانند ہو جائے۔ وہ اپنے سے کم درجے کے آدمیوں اور اپنے سے زیادہ غریبوں کو دیکھ کر شکر الہی ادا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو ایمان، اطمینان، صحت و تندرستی عزت و آبرو اور اولاد دے دی ہے۔“ صاحبزادے یہ کلمات سن کر خاموش ہو گئے۔

③ ایک مرتبہ مولوی غلام عمر صاحب ساکن بریلی موضع کھائی کھیزہ میں حضرت کی ملاقات کے لئے تشریف لے گئے۔ اُس وقت حضرت اپنا لباس خود اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خادم نے عرض کیا کہ مولوی صاحب آج ہی بریلی واپس ہونے کا قصد رکھتے ہیں اور دن تھوڑا رہ گیا ہے۔ حضرت یہ سن کر اٹھے اور مولوی صاحب موصوف سے ہمکلام ہوئے۔ مولوی صاحب نے مسئلہ وحدت الوجود کا بیان شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس قسم کی باتوں سے توبہ کرنی چاہئے۔ چنانچہ انھوں نے تین مرتبہ استغفار پڑھی، بعدہ حضرت نے فرمایا کہ تا وقتیکہ یہ حالت و کیفیت طاری نہ ہو جائے یہ مسئلہ منکشف نہیں ہوتا۔ توحید و جود کے مسائل کا زبانی جمع خرچ کرنا محض کفر و زندقہ ہے۔ مولوی صاحب نے اس کو تسلیم کیا اور رخصت ہو کر

آئیے اس موقع پر ایک اہم خط و کتابت کا ذکر کر دیا جائے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب بریلی امروی مرحوم نے جن کا حضرت مولانا فوتوٹی سے تحریری مناظرہ ہوا ہے اور مناظرہ عجیبہ کے نام سے شائع ہو گیا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کو ایک خط لکھا جس میں یہ شکایت لکھی: ”(مولانا) مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم معتقدان وحدت الوجود، وحدت الوجود کو طہ و زندقہ کہتے ہیں اور ان کے مرید شاگرد (مولانا) مولوی احمد حسن صاحب (امروہی) کا بھی یہی عقولہ ہے اور اقوال فیما بالقلوب کو کھانا تاویل چلتے ہیں اور ان تاویلوں کا واقف اپنے سوائے دوسروں کو نہیں جانتے اور (مولانا) مولوی رشید احمد صاحب (مولانا) مولوی محمد یعقوب صاحب بھی اسی مسلک پر ہیں۔ باوجود اس کے آپ سے اجازت حاصل کی ہے اور مشرب اہل چشت کا رکھتے ہیں۔ خلاف شائع چشت گفتگو کرتے ہیں۔“

حضرت حاجی صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے اُس کا کچھ اقتباس یہاں نقل کرتا ہوں: ”نکتہ ناما! مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں فقیر و مشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا عقائد یہی ہے۔ مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم اور مولوی رشید احمد و مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی احمد حسن صاحب وغیر ہم فقیر... بقیا گلے صفی پر

بریلی واپس آگئے۔

③ آپ نے فرمایا کہ: ابتدائے سلوک میں میرے دل میں یہ خیال جم گیا تھا کہ احکام شریعت اور احکام طریقت میں مغائرت اور مخالفت ہے، اسی خیال پر تھا کہ ایک مرتبہ قحط کے زمانہ میں ایک محتاج بڑھیا میرے پاس آئی میں نے اُس کو اجازت دے دی کہ گنتے کے کھیت میں سے (جو میری ملکیت تھا) گنتے لے کر اپنی حاجت روائی کرے۔ میں نے ملازموں کو بھی کھیت کی نگہداشت کی سخت تاکید کر دی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اُس بڑھیا کو ملازم (گنتے توڑنے کی وجہ سے) گرفتار کر کے لائے چونکہ اس بڑھیا عورت اور اُن ملازمین میں سے ہر ایک کا فضل میرے ہی حکم کے مطابق تھا اس لئے میں کسی کو بھی منع نہ کر سکا (ہر ایک نے مطابق حکم کام کیا) اُس وقت یہ خطرہ جو مدت سے جما ہوا تھا میرے دل سے دور ہوا اور یہ بات منکشف ہوئی کہ ہر دو طریق کے حاکم

بقیہ سے آگے..... کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں کبھی خلاف اعتقادات فقیر و خلاف مشرب مشائخ طریق خود مسلک اختیار نہ کریں گے۔ سوائے اس کے اس مسئلہ کے چھپانے میں یہ فائدہ ہے کہ اسباب ثبوت اس مسئلہ کے بہت نازک اور نہایت دقیق ہیں فہم عوام بلکہ فہم علماء و ظاہر کہ اصطلاح عرفانے عاری ہیں قوت اس کے اور اک کی نہیں رکھتا اور علماء کا کیا ذکر ہے بلکہ جن صوفیوں کا سلوک ہنوز ناقص ہے اور مقام نفس سے نکل کر مرتبہ قلب تک نہیں پہنچتے۔ اس مسئلہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔

معارف آگاہ! اسی احتیاط کی وجہ سے احباب فقیر مثل فقیر اس قیل و قال سے زبان کوزہ کے ہیں اور ایمان سے پرہیز کرتے اور پوچھنے والوں کو تاہمات کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ انکار اس مسئلہ کا نہ ہو جاوے، بہت سے جاہلوں نے اس مسئلہ کو مسلک بنا کر محفلوں میں اپنی شہنی کی گرم بازار کر رکھی ہے اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے گروہوں کو گمراہ کرتے ہیں جیسا کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ بس اس قیل و قال سے کیا فائدہ اگر توفیق ہو تو آدمیوں کو طلب حق و ترک تعلق دنیا و کثرت ذکر و فکر کی تخریب دلاوے اور اس میں کوشش کرے جب اس محنت سے تزکیہ نفس و تصفیہ قلب حاصل ہو جائے گا خود ضرورت اس مراقبہ کی جو ضیاء القلوب میں لکھا گیا ہے۔ پیش آویگی اور اندھ خور بہری فرمانے والا ہے۔ والہیں حماہد و اہلسنا لسنہد بہم سبلا فرض ہدایت کرنے سبیل معرفت سے جلی ذاتی ہے قلب سالک پر تا کہ حقیقت مسئلہ وحدت الوجود کی منکشف ہو جاوے۔ یہ راہ چلنے کی ہے کہنے اور بتانے کی نہیں ہے کہنے سے جاننے تک اور جاننے سے دیکھنے اور ہونے تک بڑا فرق ہے۔ خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے احباب کو اور آپ کو اور آپ کے احباب کو اس راہ میں لغزش سے محفوظ رکھے۔ شام ۱۷ ادا یہ ص ۶۱۲۵۵ (فریدی)

حق چلن مجددہ ہیں اور مفاخرت اعتباری ہے حقیقی نہیں ہے۔

⑤ ایک مرتبہ قناعت پر بات چلی۔ حضرت نے اس بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک مسافر درویش ایک مجلس کے مکان پر وارد ہوا۔ اُس غریب نے جو کچھ روکھی سوکھی روٹی حاضر تھی پیش کر دی۔ روٹی چونکہ خشک اور بے نمک تھی اس مسافر کو نمک کی خواہش پیدا ہوئی۔ میزبان کی طرف اشارہ نمک لانے کے لئے کیا وہ غریب مکان کے اندر گیا، اپنی لڑکی سے دریافت کیا نمک ہے؟ نمک وہاں کہاں تھا۔ مجبور ہو کر اپنے وضو کا لونا گروی رکھ کر بقال کی دوکان سے نمک لایا اور اُس مسافر کے سامنے رکھا۔ اُس وقت اُس مہمان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ دیکھئے تو کل اس کو کہتے ہیں کہ میں خشک روٹی نمک کے ساتھ کھانے پر قناعت کر رہا ہوں۔ لڑکی سن رہی تھی اُس نے ہنس کر کہا کہ اے شیخ اگر توحزہ قناعت اور لذت تو کل سے آشنا ہوتا تو ہمارا لونا بقال کی دوکان پر نہ جاتا۔ مسافر نے یہ سن کر شرم سے گردن جھکائی۔

⑥ فرمایا دعائے فقیر تین خاصیتیں رکھتی ہے۔ (۱) خاصیت خم (۲) خاصیت درخت (۳) خاصیت ثمر یعنی دعائے فقیر کے ظہور کی تین حالتیں ہیں۔

ایک وہ دعا ہے جو خم کی مانند ہے اُس کا ظہور کچھ مدت کے بعد ہوتا ہے جیسا کہ خم مدت معبودہ کے اندر نشوونما پاتا ہے۔ دوسری وہ دعا ہے کہ درخت کی طرح ہے کہ تھوڑی مدت میں اُس سے حصول ثمرات کی امید ہو جاتی ہے۔

تیسری وہ دعا ہے جو ثمر کی مثل ہے اُس کا ثمرہ فوراً مرتب ہوتا ہے اور ان تینوں دعاؤں کو تین صورتوں پر رکھا جائے وہ دعاء جو حکم ثمر رکھتی ہے اُس شخص کے حق میں ہوتی ہے جو خود دعاء کی استدعاء کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے حق میں کی ہوئی دعا کو مستجاب کر دیتا ہے اور جو دعا درخت سے مناسبت رکھتی ہے۔ وہ دعا کرنے والے کی اولاد کے حق میں کی

ہوئی دعا ہوتی ہے کہ بعد کچھ زمانہ کے ظہور کرتی ہے اور وہ دعا جو تخم کے مشابہ ہے وہ ہے جو اپنی اولاد کی اولاد کے لئے کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کامل کی دعاء ضائع اور معطل نہیں ہوتی۔

(۷) فرمایا کہ طالب کو راہ طلب میں رہبر عشق درکار ہے تاکہ وہ اس راہ میں جدوجہد کر سکے اگر بوائے عشق اپنے اندر نہیں رکھتا اور یہ دولت خدا داد اس کو میسر نہیں ہے تو اس کی کوشش محض بے سود ہے۔ اس کے بعد ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک لڑکا اپنے باپ سے خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اس کو آلات سپاہ گری اور اسلحہ جنگ خرید کر دیئے جائیں اور ایک گھوڑا بھی خرید دیا جائے تاکہ سپاہیوں اور جنگ آوروں میں شامل ہو سکے۔ یہ سب چیزیں حسب خواہش مہیا ہو سکتی ہیں لیکن دلیری اور شجاعت اس کے اندر نہ ہو اور چاہے کہ یہ کہیں سے پیدا کر دی جائے یہ ممکن نہیں۔ شجاعت کسب سے یا بازار سے کتنی ہوئی نہیں ملتی۔ یہ ایک جوہر ذاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دل میں پیدا فرماتا ہے (اور یہی سپاہی کے لئے ضروری ہے) ایسے ہی فقیر کے لئے عشق و ذوق ضروری ہے کہ یہی وصول مقامات کا وسیلہ ہے۔

ایک دن مکاروں کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مکاروں کی جدوجہد بمقابلہ ان لوگوں کے جو صحیح مسلک پر گامزن ہیں زیادہ ہے اور کیوں نہ ہو ان کی بات بغیر اس جدوجہد کے رواج پذیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لو۔ چور کی بیداری اور آگاہی مال والوں سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بیداری کے ذریعہ دوسروں کا مال و متاع چرا کر حاصل کر سکے۔

فرمایا کہ آدمی کو اپنے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت پر گھمنڈ نہ کرنا چاہئے، مدارجات حسن خاتمہ پر ہے۔

①۰ فرمایا ہر کسی کو چاہئے کہ اپنے پاؤں اپنے دائرہ عمل سے باہر نہ رکھے ایسا کرنا ترک ادب اور عمل خوف ہے۔

حضرت شاہ عبدالباری صدیقی امر وہیؒ

عبدالباری شیخ طریقت ☆ چراغ دین احمد شیخ ملت (مولانا ناتوئی)

حضرت شاہ عبدالباریؒ ابن شیخ ظہور اللہ نیرہ حضرت شاہ عبدالہادی صدیقیؒ ۸ رجب المرجب ۱۱۶۰ ہجری بروز دوشنبہ بوقت صبح صادق ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے ابتدائی حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ۱۱ سال کی عمر تک بجز دربار شاہ عضد الدینؒ کی حاضری کے گھر سے باہر قدم نہیں نکلا۔ بچوں کے ساتھ لہو و لعب کا مطلق شوق نہ تھا۔ تعلیم کس سے پائی کیا کیا پائی یہ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ ۲۲ رسال کی عمر تھی کہ جد امجد نے ان کو اور ان کے بھائی شاہ دوست محمد کو حاذق پور (نزد سنہیل) میں طلب کر کے اشغال باطنی میں مشغول کیا۔ چونکہ نازک طبع تھے اس لئے آپ کے لئے ریاضت بھی بہل تر تجویز فرمائی۔

جد امجد ان کو لباس فاخرہ پہناتے تھے۔ صاحب انوار العارفين لکھتے ہیں:

”وے حضرت راجحادات و ریاضات بہل تر امر فرمودند و لباس فاخرہ زیب بدن وے

می نمودند کہ طبیعت عبدالباری بس نازک است متحمل ریاضات شاقہ نمی گردد۔“

آپ حسن صورت و حسن سیرت میں یگانہ روزگار تھے۔ اپنے جد امجد کے سجادہ نشین ہوئے اور اپنے

خلفاء کے سینوں کو نسبت چشتیہ سے معمور کیا۔ انوار العارفين میں ہے:

”سجادہ نشین جد امجد خود گمشدہ و از ہمت و قوت نسبت عشقیہ چشتیہ سینہ خلفاء خود پر شور و پر

زور ساختند حسن صورت و حسن سیرت مشابحانہ بود۔“

مرزا مظہر جانجاناں شہیدؒ سے خرقہ خلافت

حضرت مرزا مظہر جانجاناںؒ امر وہ تشریف لاتے رہتے تھے یہاں پر شاہ ضیف اللہ شہبندؒ اور

دیگر حضرات مرید و خلیفہ تھے۔ اپنے مکتوبات میں کئی جگہ یہاں کے آنے کا تذکرہ فرمایا ہے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

”فقیر از دہلی بسطمل رسید و امر وہہ و مراد آباد را ہم دیدہ..... مردم سنخیل و مراد آباد و امر وہہ ہر سہ بلا حاجت نمودند کہ اینجایا بدہ۔“ (کلمات طیبات ص ۶۶)

دوسرے مکتوب میں ہے:

”فقیر از سیر امر وہہ مراد آباد قارغ شدہ دست و قصد تماشائے شاہ جہان پور وارد۔“
(کلمات طیبات ص ۷۲)

ایک اور مکتوب میں امر کا فرماتے ہیں:

”از سنخیل و امر وہہ تاشاہ جہان پور در جمع منازل دستہ دستہ و جماعہ جماعہ مردم از قوم رعایا اکثر و از مردم ہندی کمتر اخذ طریقہ علیہ نمودند و منور و متاثر گردیدند۔“
(کلمات طیبات ص ۸۸)

ایک مرتبہ حضرت مرزا صاحب شہیدؒ یہاں تشریف لائے اور سید اسد اللہ خاں عرف میر کلو کے مدرسہ میں قیام فرمایا۔ حضرت شاہ عبدالباریؒ نے اس موقع پر حضرت مرزا صاحب شہیدؒ سے استفادہ کیا۔ اس کی پوری تفصیل مولفہ نے کراۃ الکرام کی زبانی کی ہے:

”حضرت شاہ عبدالباریؒ حاضر خدمت ہوئے، اس وقت حضرت مرزا صاحبؒ حاضرین کو توجہ سے دیکھ رہے تھے، آپ بھی خاموش و مؤدبانہ حلقہ میں شامل ہو گئے کچھ دیر بعد حضرت مرزا صاحبؒ نے سزاٹھا کر فرمایا کہ اس جلسہ میں چشتی بزرگ کون ہیں؟ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی کہ شاہ عبدالباریؒ نبیرہ، حضرت شاہ عبدالہادیؒ بغرض سلام حاضر ہیں بعد سلام و مصافحہ ان سے دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ بالآخر حضرت

لیکھنؤ مدرسہ کاندھلی کی حوض والی مسجد میں پہلے بھی کتاب بھی جاری ہے۔ (محب الحق)

مرزا صاحب نے فرمایا کہ آپ کے جد بزرگوار کے مجھ پر بہت الطاف ہیں۔ اس لئے بھداق ہل جزاء الاحسان الا الاحسان میرا فرض ہے کہ ان کا نعم البدل کروں۔ چنانچہ آپ نے خاص توجہ کے ساتھ آپ کو مختلف منازل کی میر میں مصروف رکھا ہر منزل کا واقعہ پلایا بعد ان فرانس ارشاد ہوا قدم شیخ عبدالباری دہر ہر مقام ازما یک قدم پیش بود حسب استدعائے شاہ عمید الباری مرزا صاحب خانقاہ شاہ عبدالہادی میں تشریف لے آئے اور کئی ہفتہ قیام فرمایا۔ حضرت مرزا صاحب طعنا نہایت نازک اور لطیف الطبع تھے چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ جس دن حضرت مرزا صاحب خانقاہ میں تشریف لائے شاہ عبدالباری صاحب نے ایک چارپائی تیار کرائی تھی جس پر پہلی مرتبہ حضرت مرزا صاحب نے استراحت فرمائی۔ صبح کو شب بھر نیند نہ آنے کی شکایت کی اور فرمایا کہ اس میں کان ہے ناپنے سے معلوم ہوا کہ واقعی خفیف سی کان موجود تھی۔

یہ تبرک چارپائی اب تک اسی حالت میں خاندان میں موجود ہے اور کان بھی نمایاں ہے۔ زلمنہ قیام میں حضرت مرزا صاحب نے شاہ صاحب پر خاص الطاف فرمائے اور خلافت عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے سرفراز کیا۔ (تذکرۃ الکرام ص ۱۶۴-۱۶۵)

دہلی و اجمیر کا سفر

بعد وفات حضرت مرزا صاحب آپ نے دہلی و اجمیر کا سفر کیا۔ دہلی میں کچھ دن خانقاہ مظہریہ میں قیام ہوا۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے علاوہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر مشائخ عصر سے ملاقاتیں ہوئیں۔ قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے مزارات پر حاضری دی۔ بعدہ اجمیر جا کر سلطان الہند خوجہ معین الدین چشتی کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ ایک مدت تک وہاں قیام رہا۔

اب اس چارپائی کا صرف ذکر باقی ہے، نام و نشان مٹ گیا۔ (محب الحق)

شاہ عبدالرحمن لکھنویؒ کی آمد

شاہ عبدالرحمن لکھنویؒ نے ۱۲۱۹ھ مطابق ۱۸۰۵ء میں روحانی استفادے کے سلسلے میں ہندوستان کے مشہور مقامات کا سفر کیا تھا۔

چنانچہ آپ امر وہ بہ بھی تشریف لائے اور مسلسل چھ ماہ خانقاہ شاہ عبدالباریؒ میں قیام فرمایا اور حضرت کے فیضِ محبت سے مستفیض ہوئے۔ انوار الرحمن لتویؒ (سوانح عمری شاہ عبدالرحمن لکھنویؒ) میں اس کا ذکر ہے۔

وفات

اوائلِ رجب ۱۲۲۶ھ میں بجاڑہ چپ محرقہ تقریباً ایک ماہ اور چند یوم غلیل رہ کر ۱۱ شعبان ۱۲۲۶ھ مطابق ۱۸۱۱ء جمعہ کے دن ۵ بجے صبح کو انتقال فرمایا اور اپنے جد امجد کے پائین مزار مدفون ہوئے۔

اولاد

حضرت شاہِ رحمٰن بخش آپ کے اکلوتے صاحبزادے تھے، جو سلوک و درویشی میں اپنے والد بزرگوار اور جد امجد کے قدم بقدم تھے۔ اعدوا للہم ما استطعتم... الایہ پر عمل کا یہ عالم تھا کہ آخر وقت تک گھوڑا پالتے رہے اور برابر ورزش کرتے رہے۔

حضرت سید احمد صاحب شہید رائے بریلویؒ کے اعلان پر آپ بنفس نفیس اُن کی ہمراہی کے لئے تیار ہو گئے تھے لیکن میراں حاتم علی صاحبؒ کے ایما سے آپ کی قائم مقامی میں حاجی سید عبدالرحیم ولایتی کو مخانب خانقاہ پانصد روپے دیکر مع ایک خط کے روانہ کیا گیا۔ اس خاندان میں اس وقت شاہ سلیمان احمد صاحب پستی سجادہ نشینؒ ہیں جو کہ حضرت محدث امر ویؒ کے خلقہ درس کے فیض یافتہ اور فارغ التحصیل ہیں۔

حادثات و خصوصیات

حضرت شاہ عبدالباریؒ صاحبِ اَخفاء کرامات کے لئے ہمیشہ ذاک کیا کرتے تھے۔ مہمان نوازی

اب شاہ محمود البانی، شیخ ناہن، شیخین ہیں۔ شاہ سلیمان احمد صاحب کا تذکرہ پہلے دو نکات ہے۔ (محبت الحق)

میں مشہور نزدیک و دور تھے۔ کلمات توحید و جود کا اظہار بلا غلبہ حال ناپسند کرتے۔ تلاوت قرآن آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے۔ امامت خود کرتے۔ شب و روز میں بکثرت نوافل پڑھتے۔ طالب کے لئے ذکر جبر کو مفید اور مؤثر فرمایا کرتے۔ اکثر یہ رباعی پڑھتے:

خواہی کہ شود دل تو چون آئینہ ☆ وہ چیز بروں کن از درون سینہ

حرص و امل و غضب، دروغ و غیبت ☆ بخل و حسد و ریاء و کبر و کینہ

سر پر عمامہ باندھتے تھے، نیچا کرتے پہنتے ایک رومال ہوتا تھا جس میں تسبیح و مسواک موجود رہتی۔ عطر کا استعمال بہت کرتے۔ ۵۰ سال کے بعد ریش مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ صبح و شام حضرت شاہ عضد الدینؒ اور اپنے جد امجد کے مزارات پر حاضری آپ کے معمولات میں تھی۔

حضرت شاہ عبدالباریؒ کے خلفاء

آپ کے خلفاء کے اسماء یہ ہیں: (۱) میراں سید حاتم علیؒ ساکن ہزارہ (۲) حاجی سید عبدالرحیم ولایتی شہیدؒ (۳) حافظ خیر الدینؒ اخوندزادہ (۴) حاجی حافظ گلشن شاہؒ (۵) مولوی علی احمد صدیقی بریلویؒ ابن مولانا شیخ الاسلامؒ۔

ان خلفاء میں حاجی سید عبدالرحیم صاحب ولایتی ہمارے اکابر کے سلسلہ کے بزرگ ہیں، جو میاں جی نور محمد جھنجھانویؒ کے پیر اور حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے دادا پیر ہیں۔

میں چاہتا ہوں کہ آخر میں تھوڑا سا تذکرہ ان کا بھی کر دوں یہ نہا سادات حسینی سے تھے آبائی وطن افغانستان تھا۔ ابتداء شاہ رحم علی صاحب قادری سے بیعت کی۔ بعد ان کی وفات کے حضرت شاہ عبدالباریؒ کی خدمت میں آکر بیعت ہوئے اور ریاضات و مجاہدات شاقہ کئے۔ قوی الجوش اور فن حرب کے ماہر صائم الدہر اور قائم اللیل بزرگ تھے۔ ۱۲۳۳ھ میں اپنے مرشد زادہ شاہ رحمن بخشؒ کی قائم مقامی میں جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوئے۔ ۱۲۳۶ھ میں بمقام بالا کوٹ جام شہادت نوش فرمایا۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت سید عبدالرحیم شہیدؒ پر حضرت سید احمد صاحب رائے بولویؒ کا بڑا گہرا

اثر پڑا تھا اور انہوں نے اپنا آخری قطرہ خون راہِ خدا میں آپ ہی کے جھنڈے کے نیچے بہا دیا۔ مگر اغلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت سید شہید صاحب کے ہاتھ پر صرف بیعت جہاد کی تھی۔ سلوک و ارشاد سے اس بیعت کا کوئی تعلق نہ تھا۔ حضرت سید عبدالرحیم ولایتی نے اپنے مرشد اول سے سلسلہ قادریہ کی خلافت حاصل کی تھی اور امر وہ آ کر مرشد ثانی سے چشتیہ سلسلہ کا سلوک طے کیا اور اپنے مرشد کے انتقال کے بعد بھی ۱۲۳۴ھ تک امر وہہ کی خانقاہ میں اُن کا قیام رہا۔ حضرت سید صاحب کے اعلان پر ہمیں سے بغرضِ رفاقت گئے تھے۔ اُس کے بعد جہاد و شہادت کی منزل تھی جو سید صاحب کی رہنمائی میں طے ہوئی۔ چنانچہ ۱۲۳۶ھ میں شہید ہو گئے۔

یوں تو سلسلہ امدادیہ کے تین بزرگوں پر حضرت سید صاحب کے اثرات ہیں: (۱) حضرت سید عبدالرحیم ولایتی شہید (۲) حضرت نور محمد مہمچھا نوٹی (۳) خود حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی حاجی صاحب نے فرمایا ہے کہ ”میں تین سال کا تھا کہ سید صاحب کی آغوش میں دیا گیا انہوں نے مجھ کو بیعت تبرک میں قبول فرمایا۔“ (شائم امدادیہ ص ۹۹)

شاہ عبدالرحیم ولایتی کے بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر کے ملفوظات

(۱) فرمایا کہ میرے دادا پیر حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب شیخ جان محمد صاحب ولایت سے خدا کی طلب میں ہندوستان تشریف لائے اور حضرت رحم علی شاہ سے خاندان قادریہ میں بیعت کی۔ بعد اُن کے انتقال کے پھر طلب کا تقاضہ ہوا۔ پھرتے پھرتے امر وہے پہنچے، وہاں حضرت شاہ عبدالباری کی شہرت تھی اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے چند دن بعد شاہ عبدالباری کو مطالعہ مشنوی شریف کی کیفیت ہوئی خدام سے کہا ”محمد جان سے کہہ دو کہ تمہارا حصہ شاہ غلام علی صاحب دہلوی کے یہاں ہے اور شاہ عبدالرحیم کو میرے پاس بلا لاؤ“ جب شاہ عبدالرحیم صاحب حاضر ہوئے حضرت نے اُن پر اسی کیفیت میں نظر ڈالی پہلے تو شاہ صاحب کو حالت گریہ طاری ہوئی بعد اُتھم شروع ہوا۔ مگر دوسری حالت شاہ عبدالباری کی بھی ہوئی۔ دونوں صاحب باغ میں تشریف لے گئے اسی حالت میں شاہ عبدالرحیم صاحب کا مقصد دلی حاصل ہوا۔ (شائم امدادیہ ص ۱۶۲)

(۲) فرمایا: کہ مومن خاں صاحب دہلوی (مشہور شاعر) فرماتے تھے کہ ایک بار چند حضرات شاہ

عبدالعزیز صاحب سے حدیث شریف پڑھ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے تذکرہ اکابر دین کا کیا۔ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اب بھی کوئی ایسا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ پرسوں ہمارے پاس فلاں حلیہ کا ایک شخص مسئلہ دریافت کرنے آویگا وہ مردِ کامل ہے اور سمت اور وقت بھی معین کر دیا۔ ہم لوگ روزِ موعود میں زینت المساجد میں کہ کنارے جناح کے واقع ہے اُن کے اشتیاق میں بیٹھے تھے۔ وقت مقررہ پر دریا کے کنارے سے اسی حلیہ کے ایک بزرگ صاحب نمودار ہوئے۔ ہم دوڑے اور زیارت سے مشرف ہوئے وہ شاہ عبدالرحیم صاحب تھے۔ مومن خان صاحب اس واقعہ کی وجہ سے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ (شام امدادیہ ص ۱۶۳)

وہ خانقاہ شاہ عبدالبارئ جو مرجعِ خلائق اور مرکزِ رشد و ہدایت تھی، جہاں بڑے بڑے درویش سفر کر کے قیام کی غرض سے آتے تھے۔ طالبین کا ہتھکھار ہتا تھا علم و عرفان کی نہرین بہتی تھیں۔ جہاں علاوہ سلوک و معرفت کے مجاہدوں کی آواز پر لبیک کہنے کی صلاحیت بھی پیدا کی جاتی تھی۔ افسوس کہ آج وہ خانقاہ ویران اور کھنڈر ہو گئی ہے۔ احقر نے بمشکل تمام بعض بزرگانِ خاندان سے اُس کے نشانات اور حدود معلوم کئے تھے۔ سدا رہے نام اللہ کا

۷

اعتمادے نیست بر دورِ جہاں ☆ بلکہ ایں گردون گرداں نیز ہم

آخر میں پھر عرض کر دوں کہ میں نے سلسلہ امدادیہ کے اُن چند بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے جو سر زمین امرودہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

میں نے حالات لکھنے میں اختصار کا بہت خیال رکھا ہے پھر بھی کہاں تک اختصار کرتا۔ ہر ایک کا حال لکھنے کے لئے ایک دفتر درکار تھا۔ میں نے انتہائی کوشش سے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کوئی اہم بات چھوٹنے نہ پائے اور پورا پورا تعارف ان حضرات کا ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عشق، اپنے رسول کی محبت اور اتباع سنت کی پابندی کے ساتھ بزرگانِ دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کا خاندان

(ایک سرسری جائزہ ایک اجمالی نظر)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے ان عظیم الشان اکابر میں سے ہیں جن پر ارض ہند بجا طور پر فخر کر سکتی ہے اس عظیم شخصیت کے فیوض و برکات ہندو سندھ میں تو تھے ہی تمام عالم اسلامی اور دیگر ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں وہ ایک طرف باکمال محدث اور فقید المثل فقیہ تھے تو دوسری طرف ایک ماہر رموز تصوف محقق صوفی اور بلند پایہ مفکر و متکلم بھی تھے ان کے شاگردوں کا حلقہ بھی بہت وسیع تھا جن میں مولانا نور اللہ بڈھانوی، خواجہ امین اللہ ولی الہی کشمیری، شاہ محمد عاشق پھلتی، علامہ سید مرتضیٰ بگڑامی ثم زبیدی صاحب ”تاج العروس شرح قاموس“ اور صاحب تصانیف کثیرہ الحاج نواب رفیع الدین خاں فاروقی مراد آبادی جیسے حضرات بھی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک عبرتی (پیدائشی باکمال) انسان تھے ان کا آبائی سلسلہ نسب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ سے ملتا ہے اور ان کی نضیال کا سلسلہ نسب خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ سے متصل ہوتا ہے ان کی دوھیال اور نضیال میں بڑے بڑے پاکیزہ نفوس اور باب علم و عرفان اور اصحاب قلم و علم گذرے ہیں۔

یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ کے تقریباً تمام تذکرہ نویس لکھنا بھول گئے ہیں کہ وہ قصبہ بھلت ضلع مظفر نگر میں ۱۱۱۳ھ میں پیدا ہوئے ان کے نانا شیخ محمد پھلتی تھے جو ایک بلند معیار صوفی اور درویش تھے حضرت شاہ عبدالرحیم سے بیعت اور مجاز تھے ان کی عفت مآب صاحبزادی ”فخر النساء“ حضرت شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ تھیں شیخ محمد کے صاحبزادے شاہ عبید اللہ پھلتی، حضرت شاہ ولی اللہ کے حقیقی ماموں اور خسر تھے ان کا مقام بھی مشائخ بھلت میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم فاروقی بھی جامع مآلات بزرگ تھے انھوں نے

اپنے بھائی شاہ ابوالرضا محمد اور خواجہ خورڈ کے علاوہ مشہور ماہر علوم عقلیہ ”میرزا بہرودی“ سے بھی اخذ علوم کیا تھا انھوں نے سلسلہ آدمیہ مجذوبیہ میں حافظ ”سید عبداللہ اکبر آبادی“ سے اور سلسلہ ابوالعلائیہ میں خلیفہ ”ابوالقاسم اکبر آبادی“ سے نیز سلسلہ چشتیہ میں ”سید عفت اللہ چشتی اکبر آبادی“ سے فیض حاصل کیا تھا شاہ عبدالرحیم کے والد شیخ وجیہ الدین بھی بڑے دیندار، پابند وضع، ذی علم اور شجاع شخص تھے۔ دوھیال اور نھیال کے علمی اور روحانی ماحول نے حضرت شاہ ولی اللہ کی سیرت پر بہت بڑا اثر ڈالا آپ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم فاروقی نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا دس سال سے کم عمر تھی کہ حافظ قرآن مجید ہوئے اور اس کے بعد سولہ سال کی عمر تک تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی... فراغت کے بعد جبکہ آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تو ان کی جگہ سترہ سال کی عمر میں مسند نشین علم و معرفت ہوئے اور صد ہا تشنگان علوم اور طالبان معرفت کو فیض یاب کیا آپ نے مدرسہ رحیمیہ کو ترقی دی اور دہلی کے اندر کارِ تعلیم و تدریس کو فروغ دیا اپنے والد کی وفات کے ۱۳۱۲ سال کے بعد ۱۱۳۳ھ میں بغرض حج و زیارت و تحصیل علم و حصول حدیث آپ حجاز مقدس چلے گئے وہاں دو سال رہے اور شیخ ابوالظاہر مدنی کردی وغیرہ جیسے مشہور و معروف محدثین سے اخذ فیض کیا آپ کے اندر جو خداداد ذہانت اور ذکاوت تھی اس کو دیکھ کر وہاں کے اساتذہ حدیث بہت خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کی طبابت کا بڑے اچھے الفاظ میں اظہار کیا۔

حجاز مقدس سے واپس آ کر بھی حضرت شاہ صاحب رِس دیتے رہے لیکن اب آپ کی مشغولیت تصنیف و تالیف میں زیادہ ہو گئی آپ کی تصانیف میں ”ازلۃ الہناء اور جہۃ اللہ الباقۃ“ وہ دو بہترین کتابیں ہیں جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔

ان کے علاوہ بھی درجنوں کتابیں اور رسائل آپ نے تصنیف کئے ہر فن میں پدھلوی رکھتے تھے، خصوصاً تفسیر و حدیث اور فقہ و تصوف میں ان کو بڑا درک حاصل تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے تصوف میں جو کتابیں لکھیں ان میں ایک محققانہ شانِ اجتہاد جھلک رہی ہے ”توحید و جودی“ اور ”توحید شہودی“ کے مسائل پر بھی آپ نے لکھا اور اس نزاع کو ”نزاع لفظی“ قرار دیا... تمام مشائخ طریقت سے حسن ظن پیدا کرنے کے

لئے آپ نے اپنی تصنیفات میں پوری پوری کوشش فرمائی۔ ”الانتباه فی سلاسل اولیاء اللہ، قول الجلیل، ہمعات، ہوامع، ہمہیمات الہیہ، خیر کثیر، بدور بازغہ اور قرۃ العینین“ وغیرہ کتابیں آپ کی بلند کی استعداد اور بلند پایہ بصیرت پر شہد عدل ہیں۔ آپ نے فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جس کا نام ”فتح الرحمن“ ہے وہ بھی اتنا معیاری ہے کہ جس کی نظیر فارسی زبان کے کسی ترجمہ میں نہیں ملتی۔ اس فارسی ترجمہ اور اس کے فوائد میں جو رموز اور مصالح ہیں ان کا ادراک وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی متعدد تفسیر اور متعدد تراجم کا مطالعہ کیا ہو۔

آپ نے ”الغوز الکبیر“ اصول تفسیر میں ایک رسالہ لکھا جو حجم و ضخامت کے لحاظ سے کم اور معانی کے لحاظ سے بہت جامع اور پر مغز ہے۔ اس کا عربی ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اس رسالہ سے حضرت شاہ صاحب کی تفسیر قرآن کی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے مغلیہ دور کے کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ ان کی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی نے اپنے زمانے کے بعض بادشاہوں کو بھی دعوت نظام عدل دی ہے اور ان کے سامنے انتظام ملک و مال کا نقشہ پیش فرمایا ہے۔ آپ کے وہ خطوط جو اس وقت کی سیاست کے آئینہ دار ہیں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کو عقل معاد کے ساتھ ساتھ عقل معاش سے بھی کافی ودانی حصہ ملا تھا۔

آپ کے روحانی مسترشدین بھی کافی تعداد میں تھے جن میں حضرت شاہ محمد عاشق پھلتی کی حیثیت سب میں ممتاز ہے۔ حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی جو حضرت سید احمد شہید کے نانا تھے، تصوف و معرفت میں آپ کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ خلیفہ و مجاز تھے۔

آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کے تمام علوم ظاہری و باطنی کے حامل تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ محمد عاشق پھلتی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ذریعہ علوم ولی اللہی زیادہ سے زیادہ اشاعت پذیر ہوئے۔

شاہ محمد عاشق پھلتی حضرت شاہ ولی اللہ کے ماموں زاد بھائی بھی ہیں، برادر نسبتی بھی ہیں، شاگرد بھی

ہیں اور مرید و وظیفہ بھی..... وہ حجاز مقدس میں شاہ صاحبؒ کے ساتھ حدیث کے درس میں بھی شریک رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے حضرت شاہ صاحبؒ کی کتابوں کے مسودات کو جمع کیا اور بڑی لگن سے ان کی تمییز و ترتیب میں حصہ لیا۔ یہ کام انھوں نے شاہ صاحبؒ کی حیات میں بھی کیا اور بعد کو بھی..... وہ خود بھی صاحب تصنیف تھے۔ رسالہ ”سہیل الرشاد“ سلوک میں ان کا بہترین شاہکار ہے۔

شاہ محمد عاشقؒ نے حضرت شاہ ولی اللہؒ کے مکاتیب کے جمع کرنے کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ شروع میں ان کے صاحبزادے شاہ عبدالرحمنؒ شاہ صاحبؒ کے خطوط و مکاتیب جمع کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد خود شاہ محمد عاشق پھلتی نے اس کام کو بڑی محنت و جانفشانی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس مجموعہ کے سیاسی مکتوبات احقر کے اردو ترجمہ اور پروفیسر خلیق احمد نظامی سلمہ کے مقدمہ اور حواشی کے ساتھ ”مدوۃ المعصنین“ اردو بازار جامع مسجد، دہلی کے زیر اہتمام شائع ہو چکے ہیں..... بقیہ دوسو سے زائد علمی اور دینی مکتوبات احقر کے ترجمہ مقدمہ اور حواشی کے ساتھ عنقریب شائع ہونے والے ہیں۔

ان خطوط کے مطالعہ سے بھی حضرت شاہ ولی اللہؒ کی زندگی کے حالات پر کافی روشنی پڑے گی اور بہت سی ایسی معلومات سامنے آئیں گی جو ان خطوط کے علاوہ ان کی تصنیفات میں کہیں نہیں ملتیں۔

حضرت شاہ محمد عاشق پھلتی نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اور ان کے بھائیوں کی تعلیم و تربیت میں بھی بڑا حصہ لیا۔

۱۷۱۱ھ میں حضرت شاہ ولی اللہؒ کا وصال ہوا تو اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی عمر سولہ سال کی تھی۔ اپنے والد ماجد سے بھی بہت کچھ پڑھ چکے تھے مگر حضرت شاہ محمد عاشقؒ کی تربیت نے آپ کی علمی و روحانی استعداد میں جلا پیدا کی۔

۱۔ کتب خانہ قاضی شہرہ امپور اور رمالا بھری، راجپور میں اس کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ (فریدی)۔ ۲۔ جب یہ مضمون لکھا گیا تھا، اس وقت نظامی صاحب بقید حیات تھے۔ ۵ دسمبر ۱۹۹۶ء میں وفات ہوگئی۔ ”تاریخ مشائخ چشت“، ”سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات“، ”حیات شیخ عبدالحی محدث دہلوی“، ”نگاہ نظر“ وغیرہ نظامی صاحب مرحوم کی تصنیفات میں سے ہیں۔ ۳۔ شاہ ولی اللہؒ کی کئی مکتوبات شائع ہو چکے ہیں۔ (محب الحق)۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی زوجہ ثانیہ کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔ پہلی زوجہ کے لپٹن سے شیخ محمدؒ تھے، جنہوں نے بڑھانہ ضلع مظفرنگر میں سکونت اختیار کر لی تھی اور وہیں وفات پائی اور بڑھانہ کی جامع مسجد کے ایک گوشہ میں مدفون ہوئے۔

شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے تین حقیقی بھائی اور تھے جن کے اسمائے مبارک یہ ہیں:

(۱) شاہ رفیع الدین عبدالوہابؒ (۲) شاہ عبدالقادرؒ (۳) شاہ عبدالغنیؒ۔

یہ سب بھائی علمی استعداد اور ذہانت و ذکاوت نیز بلندی اخلاق اور پابندی شرع میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے مسند علم و عرفان پر بیٹھ کر اپنے والد ماجد کی جانشینی کا پورا پورا حق ادا کیا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں اور مریدوں کی بہت بڑی تعداد چھوڑی۔ ان میں سے چند نمایاں شخصیتوں کے نام یہ ہیں:

ان کے تینوں چھوٹے بھائی، دو برادر زادے یعنی شاہ محمد اسماعیل شہید اور شاہ مخصوص اللہ نیز دو نواسے یعنی شاہ محمد اسلمی فاروقی محدثؒ (مہاجر) اور مولانا محمد یعقوب فاروقی محدثؒ (مہاجر) ان کے علاوہ شاہ غلام علی دہلوی مولانا مفتی الہی بخش نشاط کاندھلوی، رشید الملسک مولانا رشید الدین دہلوی، مولانا کرم اللہ محدث دہلوی، مولانا سلامت اللہ کشتی بدایونی ثم کانپوری، مولانا حسین احمد طلیح آبادی وغیرہم حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے اجازت حدیث پانے والوں میں مجملہ اور اکابر کے حضرت شاہ فضل الرحمن صغیر مراد آبادی بھی ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تصانیف اور رسائل بھی ان کی اعلیٰ و اکمل علمی استعداد کی اطلاع دینے والے ہیں۔ ان میں ”تحدائشہ عشری اور تفسیر عزیزی“ کی تو نظیر نہیں ملتی۔ دیگر کتب بھی حقائق و معارف سے لبریز ہیں۔ انہوں نے آپ کے بہت سے مسودات اور خطوط انقلاب زمانہ کے ہاتھوں ضائع ہو گئے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ۸۰ سال کی طویل عمر پائی۔ زندگی کے آخری کئی سال ظاہری بصارت جاتی رہنے سے اور دیگر امراض کے غلبہ کی بنا پر آپ درس و تدریس سے معذور ہو گئے تھے اور آپ کے بھائیوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادرؒ نے مسند درس کو سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پیدا کی ہوئی تعلیمی و تدریسی، تالیفی اور تصنیفی سرگرمیوں میں ذرا فرق نہ آنے دیا۔

آپ کے سب سے چھوٹے بھائی شاہ عبدالغنی تھے جو خود تو زیادہ مشہور نہیں ہوئے لیکن اپنے صاحبزادے شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی کی وجہ سے ان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے بھی دیگر تصانیف کے علاوہ اردو زبان میں قرآن کے ترجمے کئے جو شائع ہو چکے ہیں۔ ان ترجموں میں بڑی لطافتیں اور بہت سی خوبیاں ہیں جو اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ ان ترجموں میں ہندی الفاظ کو کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔

ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ ان چاروں بھائیوں میں عمر کے لحاظ سے جو سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سب سے پہلے انتقال کیا اور سب سے بڑے نے سب سے آخر میں۔ درمیانی دو بھائیوں کا انتقال بھی اسی ترتیب سے ہوا یعنی شاہ عبدالقادر صاحب کا پہلے اور شاہ رفیع الدین صاحب کا بعد کو۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بعد ان کے نواسے شاہ محمد الحق محدث دہلوی نے اپنے نانا کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ ہنگامہ ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۷۳ھ سے پندرہ سال پہلے ۱۲۵۸ھ میں وہ ہجرت فرما گئے تھے۔ ان کے باکمال تلامذہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جن میں مفتی عبدالقیوم ابن مولانا عبدالحی بڑھانوی، شاہ عبدالغنی فاروقی مجددی مہاجر مدنی، قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی "صاحب مظاہر حق" نواب قطب الدین خاں دہلوی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا شیخ محمد محدث تھانوی، مولانا عالم علی گنگوئی ثم مراد آبادی اور مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی وغیرہم بھی شامل ہیں۔

ان میں مولانا شاہ عبدالغنی فاروقی مجددی کا سلسلہ فیض بہت وسیع ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے انہی سے خانقاہ شاہ غلام علی میں درس حدیث حاصل کیا تھا۔ سہارنپور میں حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری، گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی دیوبند میں

انشاء اللہ مستقبل قریب میں حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی اور ان کے بھائی حضرت شاہ محمد یعقوب پراک مستغل مقالہ تاخرین الفرقان کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ (فریدی) آسمان علم و عرفان کے دو درخشندہ ستارے کے عنوان سے ماہنامہ الفرقان ہی کے اکتوبر نومبر ۱۹۷۷ء کے شمارے میں شائع ہو چکے ہیں اور آپ کے تلامذہ کے حالات کاروان اہل فضل و کمال کے عنوان سے ۱۳ اقسطوں میں شائع ہوئے ہیں۔ (محب الحق)

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی سیرتھ میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مراد آباد میں مولانا عالم علی اور رامپور میں مولانا حسن شاہ محدث رامپور، بعدہ مولانا محمد شاہ محدث نے درس حدیث کا سلسلہ تادیر جاری رکھا۔ آخر میں حضرت مولانا ظلیل احمد اور حضرت مولانا نانوتوی کے دو باکمال شاگردوں یعنی سید العلماء حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امرہوی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندی کے ذریعہ تشنگان علم حدیث کو حوض ولی، الہمی سے بڑی سیرابی و شادابی حاصل ہوئی۔ ان حضرات کے ذریعہ ہندوستان کے ہر ہر صوبے اور ہر گوشے کے علاوہ بیرون ہند میں بھی فیوض ولی الہمی کا سلسلہ پھیل رہا۔

آخر دور میں ولی الہمی علی خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرات میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی مفسر امرہوی، وقار الحدیث حضرت مولانا محمد انور شاہ محدث کشمیری، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مفتی محمد کفایت اللہ شاہ جہاں پوری ثم دہلوی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا سید فخر الدین احمد محدث وغیرہم نے عرب و عجم میں اپنی تصنیفی و تدریسی خدمات سے ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کے افراد کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ ان کے تعلیمی مستفیدین کے علاوہ روحانی مسترشدین کا حلقہ بھی آفاق گیر ہے اور آج بھی دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ، مدرسہ جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امرہ، مدرسہ شاہی مراد آباد کے علاوہ میرٹھ، مظفر نگر، گلادھسی، خوجہ، سنجل، علی گڑھ، ممبئی، بریلی، شاہ جہاں پور، مونا تھ، بھجن، مبارک پور، سرانے میر، بنارس نیز بہار و بنگال، گجرات، علاقہ حیدرآباد دکن، پنجاب، نوٹک، صوبہ مدراس اور پاکستان کے تمام تدریس حدیث کے ادارے اور اہل حق کی مشہور درس خانے۔۔۔ سب سلسلہ ولی الہمی سے وابستہ و مربوط ہیں اور بقول شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم (غیر ہندوستان) میں اہل سنت والجماعت کا کوئی ایسا دینی و تعلیمی ادارہ اور تدریس قرآن و حدیث کا مدرسہ باوجود تفتیش و تلاش کے معلوم نہ ہو۔ جس کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سلسلہ سے نہ ہو۔

لاحظ یہ مضمون نگار کیا تھا تو حضرت شیخ بقید حیات تھے۔ آپ کا وصال یکم شعبان ۱۴۰۲ھ ۱۶ مئی ۲۰۲۳ء ۱۹۸۴ء میں مدینہ منورہ میں ہوا اور جنت البقیع میں ابدی آرام گاہ ملی۔ (محبت الحق)

ہندوستان میں علم حدیث انیسویں اور بیسویں صدی میں

ہندوستان میں علم حدیث کے درس و تدریس کا سلسلہ سلطنتِ مغلیہ کے قیام سے بہت پہلے جاری ہو چکا تھا۔ گجرات اور سندھ میں، دہلی اور اس کے اطراف سے زیادہ اس فن کی طرف توجہ تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی غالباً ہندوستان کے عہد اکبری و جہانگیری کے وہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے حجاز مقدس میں حدیث پڑھی اور ہندوستان واپس آ کر تمام عمر حدیث و فقہ کے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق نے اپنے والد ماجد کی روایات کو زندہ رکھا اور ان کے ایما پر چھ جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی اور شمائل ترمذی کی شرح بھی کی۔ ان کے بعد شیخ دہلوی کی نسل سے مولانا سلام اللہ محدث رامپوروی نے علم حدیث کی خدمت کی اور محنتی شرح مؤطا لکھ کر معلمین حدیث کے واسطے بڑی آسانی بہم پہنچائی۔

شیخ عبدالحق کے بعد حدیث کے درس و تدریس کا سلسلہ زیادہ سرگرمی کے ساتھ نہیں چلا۔ اس کے اسباب جو کچھ بھی ہوں۔ ہم اس سے قطع نظر کر کے آخر عہد مغلیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی اولاد و اتحاد اور تلامذہ نے علم حدیث کی ترویج و ترقی میں جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اورنگ زیب سے لے کر شاہ عالم تک دس گیارہ بادشاہوں کا زمانہ پایا۔ ان میں اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تقریباً چار سال کے ہوں گے کہ اورنگ زیب نے وفات پائی۔ بہادر شاہ اول اور جہاندار شاہ کے عہد میں آپ کی ابتدائی تعلیم کا زمانہ تھا۔ عہد فرخ سیر کے ختم پر ہندوستان کے اندر ان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ فرخ سیر کے بعد تین بادشاہ اور ہوئے جو ایک ہی سال کے اندر اندر بادشاہت سے بے دخل ہو گئے۔ پھر محمد شاہ کا زمانہ آیا۔ عہد محمد شاہ کے وسط میں آپ حجاز گئے اور وہاں سے تقریباً دو سال کے بعد

مکہ و مدینہ کے علماء سے علم حدیث حاصل کر کے ہندوستان واپس ہوئے اور پرانی دہلی کے اُس مدرسہ میں جس میں شاہ عبدالرحیم دہلوی درس دیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی درس دینا شروع کیا۔ اندازہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کے پاس تعلیم حدیث حاصل کرنے کے لئے کثرت سے طلباء ملک کے گوشے گوشے سے آتے ہوں گے اور مدرسہ کا پرانا مکان طلباء کے ہجوم کے باعث یقیناً تنگ ثابت ہوا ہوگا۔ محمد شاہ بادشاہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ اس نے حضرت شاہ ولی اللہ کو بلا کر اندرون شہر دہلی ایک عالی شان مکان بنا دیا یہ مکان سکونت کے علاوہ ایک مستقل دارالعلوم بھی بن گیا۔ اس مدرسہ کو مدرسہ رحیمیہ کہہ لیجئے یا دارالعلوم ولی النبی۔ بہر حال عہد محمد شاہ میں یہی وہ ادارہ تعلیم حدیث ہے جس میں شاہ ولی اللہ نے اور شاہ صاحب کے بعد ان کے بعض تلامذہ نے اور بعد میں ان کے صاحبزادوں نے درس حدیث دیا۔

شاہ صاحب کے صد ہا شاگردوں میں شاہ محمد عاشق پھلئی، شاہ نور اللہ بڈھانوی، خواجہ محمد امین ولی النبی کشمیری، حاجی محمد سعید بریلوی، حاجی رفیع الدین فاروقی مراد آبادی نمایاں شخصیات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض شاگردوں نے دہلی میں رہ کر حضرت شاہ صاحب کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی حدیث کی تعلیم دی اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تکمیل میں بھی خاص طور پر حصہ لیا۔ حاجی محمد سعید بریلوی کو حافظ الملک حافظ رحمت خاں نے اپنے صاحبزادے کی تعلیم کے لئے بریلی بلا لیا تھا۔ یہ مولانا نجم الغنی راہپوری (مؤلف اخبار الصنادید و تاریخ اودھ وغیرہ) کے دادا تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات کے وقت جو شاہ عالم ثانی کے ابتدائی عہد سلطنت میں ہوئی، آپ کے پانچ صاحبزادے موجود تھے۔ ان میں سب سے بڑے شیخ محمد تھے۔ جو شاہ صاحب کی پہلی بیوی کے سکن سے تھے اور بڈھانہ ضلع مظفر نگر میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ شاہ صاحب کی دوسری بیوی سے چار فرزند تھے جن میں سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز تھے۔ جو آپ کی وفات کے وقت ۱۶۔۱۷ سال کے تھے۔ ان سے چھوٹے شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی تھے۔ شاہ ولی اللہ کے وصال کے بعد تعلیم حدیث کا نظام شاہ عبدالعزیز نے سنبھالا اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنی نگرانی میں

تفسیر، حدیث، فقہ نیز جملہ علوم محقولات و منقولات سے واقف کرایا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ میں حدیث و فقہ پڑھنے والے طلبہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے کھینچ کر آئے۔ جب تک شاہ عبدالعزیز صاحب کی بینائی برقرار رہی، خود درس دیا اور وفات سے تقریباً ۲۵-۳۰ سال پہلے آپ نے اپنی بینائی جاتی رہنے کی وجہ سے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر گودرس حدیث کا کام سپرد کر دیا تھا۔ آپ کی تدریس کے ابتدائی دور میں آپ کے فیض تعلیم سے بڑے بڑے جید علماء، فقہاء اور محدثین نمودار ہوئے۔ جن میں حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی بھی ہیں۔

مفتی الہی بخش کاندھلوی گونا گوں صفات کے حامل تھے۔ وہ ایک بے نظیر محدث بھی تھے۔ با کمال فقیہ بھی، طبیب روحانی بھی تھے اور طبیب جسمانی بھی۔ وہ ایک مدرس بھی تھے اور مصنف بھی، شاعر و ادیب بھی تھے اور افتاء نویسی کے ساتھ بہترین انشاء پرداز اور نثر نگار بھی۔

شاہ عبدالعزیز کے تینوں بھائی ان کے سامنے ہی وفات پا گئے تھے۔ اس لئے ان کے بعد ان کے نواسے اور جانشین شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی نے مسند درس کو آباد کیا اور ۱۹-۲۰ سال تک اپنے نانا کی مسند پر بیٹھ کر درس حدیث دیا۔ اس کے بعد وہ اور ان کے بھائی شاہ محمد یعقوب مکہ کو ہجرت کر گئے۔ نواب صدیق حسن خاں قنوجی ثم بھوپائی نے شاہ محمد یعقوب کے حلقہ درس میں حدیث پڑھی تھی۔ شاہ محمد اسحاق کی ہجرت کے بعد شاہ مخصوص اللہ ابن شاہ رفیع الدین نے مدرسہ رحیمیہ کی تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ اس کے اہتمام کا بار بھی اپنے بھائی شاہ محمد موسیٰ کے ساتھ اٹھایا۔ شاہ عبداللہی نبیرہ شاہ نور اللہ اور شاہ محمد اسماعیل نبیرہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی تقریر و تحریر کے ذریعہ علم حدیث کی اشاعت کی۔ شاہ مخصوص اللہ سرسید احمد خاں کے ساتھ میں سے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے چھوٹے بھائی شاہ اہل اللہ نے جو شاہ صاحب کے شاگرد بھی تھے، مشغلہ طب کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام بھی جاری رکھا تھا۔ ان کی تصنیفات میں من جملہ ان کے ”تخریج احادیث ہدایہ“ بھی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے شاگردوں میں ایک ممتاز شاگرد شاہ محمد عاشق بھٹسی ہیں۔ جنہوں نے شاہ صاحب سے سند حدیث پانے کے ساتھ ساتھ مسند خلافت بھی حاصل کی تھی۔ ان کو بہت سی خصوصیات حاصل تھیں اور وہ حجاز کے سفر میں بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اساتذہ حریمین سے حضرت شاہ صاحب نے جو کچھ درسی فائدہ حاصل کیا اس میں شاہ محمد عاشق بھی شریک تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی تقریباً تمام تصانیف کو شاہ محمد عاشق ہی نے تسوید سے تمییز کی شکل میں تبدیل کیا ہے۔ خصوصاً مصنفی شرح مؤطا کی تمییز میں شاہ محمد عاشق کی محنت کو بہت کچھ دخل ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ علاوہ دہلی کے مرکزی مدرسے کے شاہ محمد عاشق کی خانقاہ بھٹسلی ضلع مظفر نگر میں جہاں بہت سے تشنگان معرفت آتے اور بیعت ہوتے تھے۔ تشنگان علم حدیث بھی جوق در جوق آتے اور فیض یاب ہوتے ہوں گے۔ شاہ محمد عاشق نے اپنے صاحبزادوں شاہ عبدالرحمن اور شاہ محمد فائق کو خود پڑھایا تھا۔ مکاتیب شاہ ولی اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ محمد عاشق کو تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ تعلیم و تبلیغ سے بھی بہت کچھ تعلق تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے شاگردوں میں قاضی ثناء اللہ پانی پٹی بھی ہیں جو ”بہت ہی وقت“ کہلاتے تھے۔ اس لقب سے علم حدیث میں ان کی امتیازی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی نے پانی پت کے اندر تدریس و تصنیف کا کام جاری رکھا۔ آپ کی علم حدیث میں ایک مبسوط کتاب ہے جو دو جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر و فقہ میں بھی آپ کی کئی تصانیف ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے شاگردوں میں علامہ سید مرتضیٰ ابن محمد بلکرای ثم زبیدی بھی ہوئے ہیں۔ جنہوں نے حضرت شاہ صاحب سے اجازت حدیث حاصل کرنے کے بعد مولانا خیر الدین سورجی اور حجاز میں، مصر، شام وغیرہ کے متعدد علماء سے اجازت حاصل کی تھی اور بعد میں مصر وغیرہ میں درس بھی دیا تھا۔ علماء جامعا زہر نے بھی آپ سے سند حدیث حاصل کی تھی۔ آپ نے ۱۴ سال تک مسلسل محنت کر کے ”تاج العروس شرح قاموس“ دس جلدوں میں لکھی اور احیاء العلوم کی شرح میں جلدوں میں کی۔ آپ کی سو سے زیادہ تصنیفات و تالیفات ہیں جن میں سے چند فن احادیث میں بھی ہیں۔ مصر میں آپ کا

انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں میں قاری امام الدین نخعی امروہی بھی ہیں جو حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے خلیفہ مجاز تھے اور علم تجوید میں مولانا قاری کرم اللہ محدث کے شاگرد تھے۔ قاری امام الدین امروہی علم تجوید و قرأت کے درس کے ساتھ ساتھ حدیث کا درس بھی دیتے تھے۔ ہندوستان کے مشہور محدث قاری عبدالرحمن پانی پٹی نے علم قرأت امروہیہ آکر قاری امام الدین نخعی سے پڑھا تھا اور بخاری شریف کے چند پارے بھی یہاں پڑھے تھے۔

بعدہ دہلی جا کر شاہ محمد اسحاق صاحب سے علوم حدیث کی تکمیل کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث اور ان کے دونوں بھائیوں کے شاگرد قاری کرم اللہ محدث دہلوی فن قرأت، تجوید اور تمام علوم عقلیہ و نقلیہ میں عموماً اور علم حدیث میں خصوصاً مہارت تامہ رکھتے تھے۔ نواب ندمسطفی خاں شیفتہ آپ کے شاگرد تھے۔ انھوں نے اپنے سفر نامہ تجاز "ترغیب السالک الی احسن المسالک" میں آپ کا تذکرہ بہت وقیع الفاظ میں کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"ان کے (مولانا کرم اللہ محدث) فضائل کیا بیان کروں۔ دن راتوں میں نہیں ماسکتے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت والا جامع علوم ظاہر و باطن تھے۔ فن حدیث میں ان کو جو مہارت حاصل تھی وہ کسی میں کم ہوتی ہے۔ حقائق و معارف کے لحاظ سے ان کا جو مرتبہ تھا وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے فن قرأت و تجوید میں وہ اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔"

مولانا کرم اللہ محدث دہلوی حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے خلیفہ تھے۔ سورت میں آپ کا مزار ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث اور ان کے بھائیوں کے تلامذہ میں مرزا حسن علی لکھنوی کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ جو فن حدیث میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کے اجازت یافتہ شاگردوں میں حضرت شاہ فضل الرحمن گنج

اس سفر نامہ کا تھمیں وترجمہ مولانا فریدی نے کیا ہے جو ماہنامہ القرآن لکھنؤ میں شائع ہو چکا ہے۔ (محب الحق)

مراوا بادی کا نام بھی نمایاں ہے۔ انھوں نے طویل عمر پائی۔ ان کو اذکار و اوراد اور مریدین کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ درس حدیث کا بھی بہت موقع ملا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے محدثین اور صاحبان علم و فضل نے آپ سے سند حدیث اور اجازت حدیث حاصل کی ہے۔ چونکہ آپ کی سند اونچی تھی اس لئے آپ کی خدمت میں دور دور سے شائقین علم حدیث آتے تھے اور تلمذ کا فخر حاصل کرتے تھے۔

سلطنت مغلیہ کے آخر دور خصوصاً عہد بہادر شاہ ظفر میں ہندوستان کے اندر ایٹ انڈیا کمپنی اور اس کے ارباب حل و عقد کے نظریات سیاست کا غلبہ ہو چکا تھا۔ انگریز ہندوستان کے باشندوں کو رنگ و روپ کے لحاظ سے ہندوستانی اور داغ و خیالات کے اعتبار سے یورپین بنانا چاہتے تھے۔ اس بات کو ہندوستان کے مختلف مذاہب کے افراد نے عموماً اور مسلمانوں نے خصوصاً محسوس کیا۔ بالآخر ۱۸۵۷ء میں تقریباً پورے ہندوستان کے اندر آزادی حاصل کرنے کی تحریک بڑے پیمانے پر شروع ہوئی۔ جس میں مسلمانوں کا نمایاں حصہ تھا اور وہ انگریزوں کے مقابلے میں استخلاص و نسیں ہی کے خواہاں نہ تھے بلکہ مذہب اسلام کے تحفظ کے لئے بھی میدان میں آئے تھے۔ یہ تحریک پورے جوش و خروش کے ساتھ چل کر بالآخر ناکام ہوئی۔ انگریز پوری قوت کے ساتھ جذبہ انتقام کے تقاضوں کو پورا کرنے لگا اور اس انتقام کا رخ براہ راست مسلمانوں کی طرف زیادہ تھا۔ بڑے بڑے علماء کو اس نے پھانسی پر لٹکایا، کالے پانی بھجوایا اور ان کے مکانات تک کھدوا کر پھینک دئے۔ جو علماء اور مشائخ انگریز کے بچنے انتقام سے بچ گئے تھے ان میں سے کچھ نے ہجرت کی راہ اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی جنھوں نے ”آگرہ“ میں پادری فنڈر کو شکست دی تھی ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے فرو ہونے پر مکہ معظمہ ہجرت کر گئے تھے اور وہاں پر انھوں نے مدرسہ صولتیہ قائم کر لیا تھا۔ اس وقت شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے بھی مکہ معظمہ ہجرت کی۔ حافظ ضامن شہید اور بہت سے جانبازان حریت میدان ”شاملی“ میں شہید ہو گئے تھے۔ میدان شاملی میں انگریزوں کی فوج سے نبرد آزما ہونے والوں میں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی بھی تھے۔ اول الذکر نے مصلحتیہ طے کیا کہ اپنے آپ کو انگریز کے انتقام سے محفوظ

رکھنے کی کوشش کی جائے اور وہ روپوش ہو گئے۔ بالآخر ملکہ و کنوریہ کے اعلان معافی کے بعد وہ اپنے دینی و ملی، تعلیمی و تبلیغی کام میں مصروف ہو گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی گرفتار کر لئے گئے اور چھ ماہ تک مظفرنگر جیل میں رہے۔ جیل سے چھوٹ کر انھوں نے اپنے وطن گنگوہ کے اندر مدرسہ و خانقاہ سے اپنا تعلق رکھا اور پوری عمر اسی میں گزار دی۔

۱۵۸۷ء کے بعد بھی عیسائی مشنریوں نے اپنا کام تیزی سے جاری رکھا اور ان مشنریوں کا سب بڑا حریف مذہب اسلام تھا۔ اس لئے سلسلہ ولی اللہی کے اُس وقت کے نمائندوں نے بڑی جدوجہد اور محنت و جانفشانی سے تعلیمی ادارے قائم کئے اور اپنی تحریروں و تقریروں، تصانیفات و تالیفات، مناظروں اور مباحثوں کے ذریعہ اپنے مذہبی امتیاز و انفرادیت کو برقرار رکھنے کی عظیم کوشش کی۔

ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے تقریباً دس سال بعد دیوبند اور سہارنپور میں دو عظیم تعلیمی درس گاہوں کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی اُس وقت میرٹھ کے مطبع میں تصحیح کا کام کرتے تھے اور طلبہ کو دینی علوم، تفسیر و حدیث وغیرہ کا درس بھی دیتے تھے۔ وہ مدرسہ دیوبند کے خصوصی ممبر اور رکن اعظم بھی تھے۔ سہارنپور میں مولانا سعادت علیؒ نے جو حضرت سید احمد شہیدؒ کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ مدرسہ مظاہر علوم میں قرآن و حدیث کا سلسلہ درس قائم کیا۔ اس مدرسہ میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوریؒ اور مولانا ظلیل احمد محدث سہارنپوریؒ نے اپنے وقت میں درس حدیث دیا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا جو اس وقت بفضل الہی حیات پلج حضرت مولانا ظلیل احمد محدث سہارنپوریؒ کے خلیفہ اور شاگرد رشید ہیں۔ ”بذل الجہود“، شرح ابی داؤد مولانا ظلیل احمد محدثؒ کی معرکہ الآراء شرح ہے جس کی تسوید و ترتیب میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا بھی شریک رہے ہیں۔ مؤخر الذکر نے ”اوجز المسائل شرح مؤطا امام مالک“ کئی جلدوں میں لکھ کر عالم اسلامی میں شہرت دوام حاصل کی ہے۔

آگے چل کر دیوبند کا مدرسہ دارالعلوم کی شکل میں نمودار ہوا۔ ہم دارالعلوم کی برطانوی عہد میں

۱۷ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں یکم شعبان ۱۳۰۲ھ مطابق ۲۳ دسمبر ۱۹۸۲ء میں ہوا۔ جنت البقیع ابدی آرام گاہ بنی۔ (محبت الحق)

درس حدیث کی سرگرمیوں کا ذکر کرنے سے پہلے مناسب سمجھتے ہیں کہ ان چند شخصیتوں کا اجمالی تذکرہ کریں جنہوں نے ۱۸۵۷ء کے بعد فن حدیث کی ترویج و اشاعت اور تعلیم حدیث کی گرم رفتاری میں نمایاں حصہ لیا۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے خانقاہ قدوسیہ (گنگوہ) میں رہ کر درس حدیث کا ایک مکمل نظام قائم کیا اور عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ملک کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے باکمال اور ذی استعداد طلبہ کھینچ کھینچ کر گنگوہ کی خانقاہ میں آتے رہے اور حدیث کا درس لیتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی تزکیہ نفس کا بھی انتظام تھا۔ آپ کی تقاریر حدیث قلمبند ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔

مولانا عالم علی محدث گینویؒ ثم مراد آبادیؒ نے مراد آباد میں اور ان کے شاگرد مولانا حسن شاہ محدثؒ نے رام پور میں علم حدیث کے درس کا سلسلہ جاری رکھا۔ مولانا حسن شاہ کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا محمد شاہ محدث رام پوریؒ نے مدرسہ عالیہ رام پور میں کچھ عرصہ اور زیادہ تر اپنے مکان اور مسجد میں درس حدیث دیا۔ ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے طالبان علم حدیث ان کے درس میں شریک ہونے آتے تھے۔ مولانا محمد شاہ محدثؒ کے شاگرد مولانا محمد منور علی رام پوریؒ نے ڈھاکہ میں درس حدیث کا نظام قائم کیا۔

لکھنؤ میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی مہلتیؒ نے درس و تدریس اور تحریر و تصنیف کے ذریعہ علم حدیث کو اور فن رجال حدیث کو بہت ترقی دی۔ علامہ ظہیر احسن شوق نیویؒ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی مہلتیؒ کے ایک ایسے باکمال شاگرد ہیں جنہوں نے علم حدیث میں درجہ کمال حاصل کیا تھا اور جن کی قابلیت شہرہ عالم اسلام تک پہنچا ہے۔

مدرسہ جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ میں مولانا نانوتویؒ کے شاگرد رشید حضرت مولانا احمد حسن محدث امروہیؒ نے ۲۵-۲۶ سال مسلسل تمام علوم دینیہ کا بالعموم اور علم حدیث کا بالخصوص درس دیا۔ اپنے وطن میں درس دینے سے پہلے وہ خوجہ، سنہیل، دہلی اور مراد آباد میں بھی مدرس رہے تھے۔ آپ

کے شاگرد رشید مولانا حافظ عبدالرحمن مفسر صدیقی امر وہی نے بھی آپ کے بعد تقریباً تیس سال تک اپنے استاد کے مدرسہ میں تفسیر وحدیث کے اسباق پڑھائے اور اطراف و اکناف ہند بلکہ بیرون ہند کے طلباء بھی اسی طرح جوق در جوق اور قطار اندر قطار آتے رہے جس طرح ان کے استاد مکرم کے زمانے میں آتے تھے۔ مولانا عبدالرحمن مفسر امر وہی نے چند سال مدرسہ ڈابھیل (ضلع سورت) میں بھی درس حدیث دیا تھا۔ دہلی میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے جن کی عمر خاصی طویل ہوئی، شاہ محمد اسحاق دہلوی کے اجازت یافتہ شاگرد ہونے کی حیثیت سے بہت شہرت حاصل کی اور درس حدیث کا سلسلہ دیر تک قائم رکھا۔ مولانا عبدالعلی فریدی قاسمی جو حضرت نانوتوی کے شاگرد تھے اور مولانا محمد شفیع دیوبندی اور مولانا محبوب الہی دیوبندی نے جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ مدرسہ عبدالرب دہلی میں دیگر علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ حدیث کا درس بھی مدتوں دیا ہے۔

مدرسہ امینہ دہلی میں حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی نے جمعیۃ علماء ہند کی سرگرمیوں اور آزادی وطن کی پیہم کوششوں کے ساتھ ساتھ درس و افتاء کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ ان کے درس حدیث سے بہت سے علماء نے بھی فائدہ اٹھایا۔ بھوپال میں نواب صدیق حسن خاں نے فن حدیث میں بہت سی کتابیں لکھیں نیز مولانا عبدالقیوم بڑھانوی ابن مولانا عبدالحی بڑھانوی نے بھی بھوپال کے علمی ماحول میں درس حدیث کا افادہ عام کیا۔ ان سے بہتوں کو اجازت حدیث حاصل ہوئی۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مولانا حیدر حسن خاں ٹوکی اور مولانا شاہ حلیم عطا سلوٹی نے درس حدیث کے ذریعہ اشاعت فن حدیث کا کام انجام دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے کتاب سیرۃ النبی کی تکمیل کر کے اردو داں طبقے کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باحسن وجوہ روشناس کرایا۔

پانی پت میں قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی آخر دم تک درس حدیث میں مشغول رہے۔ اسی

طرح ملک کے ہر صوبے اور ہر بڑے شہر میں انفرادی یا اجتماعی حیثیت سے درس حدیث کا سلسلہ برطانوی دور سے پہلے مدرسہ شائستہ مراد آباد میں درس دیا اور درمیان میں ریاست مینڈھوا اور دارالعلوم دیوبند میں بھی۔ (محب الحق)

استعمار کے عہد میں بھی جاری رہا اور متعدد دانشدار اور محرکتہ الآرا کتابیں فن حدیث میں شائع ہوئیں۔ دکن میں مولانا عبداللہ نقشبندی اور مولانا سید مناظر احسن گیلانی تحریر و تقریر کے ذریعہ علم حدیث کی خدمت انجام دیتے رہے۔

اب ہم تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس عظیم درس گاہ کے سب سے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نانوتوی تھے جو مولانا مملوک علی صدیقی نانوتوی استاد علمائے دہلی کے صاحبزادے تھے۔ انھوں نے تفسیر وفقہ کے ساتھ حدیث کا درس بھی بڑی محنت اور جانفشانی سے دیا اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسے باکمال شاگردان کے حلقہ درس سے نکلے۔

مولانا محمد یعقوب کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن محدث دیوبندی منسب صدارت پر فائز ہوئے اور مدتوں دارالعلوم دیوبند کی بزم حدیث آپ کے انفاص قدسیہ اور آپ کی مد مغز تقاریر سے شاد کام رہی۔ تا آنکہ حصول آزادی کی جدوجہد کے نتیجے میں آپ فرنگی جو رو استبداد کا نشانہ بنے اور ”جزیرہ مالٹا“ میں اسیر ہوئے لیکن وہاں بھی قرآن و حدیث کے درس کا کام جاری رکھا۔ وہاں سے رہا ہو کر ہندوستان آئے۔ مالٹا کی اسارت سے پہلے ”مکہ معظمہ“ میں آپ کا کچھ عرصہ تک قیام رہا اور وہاں بھی آپ نے بخاری شریف کا درس دیا۔

شیخ الہند کا یہ آخری سفر حج ریشمی خطوط کی تحریک کے سلسلے میں تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی اس تحریک میں خاص مشیر تھے اور حضرت شیخ الہند کے دست راست تھے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے بے دخل کرنے کے لئے شیخ الہند اور ان کے رفقاء نے جو پروگرام بنایا تھا اس کی رو سے مولانا سندھی کو افغانستان میں کام کرنا تھا لیکن ریشمی خطوط کا راز فاش ہونے پر شیخ الہند مالٹا میں قید کر دئے گئے اور مولانا عبید اللہ سندھی طویل عرصے تک جلا وطنی کے عالم میں ہندوستان کے باہر رہے۔ مکہ معظمہ میں بھی آپ نے سکونت اختیار کی تھی اور وہاں درس قرآن و حدیث کا مشغلہ جاری رکھا تھا۔ کتب و علوم ولی النبی سے ان کو خاص مناسبت تھی۔ حجۃ اللہ البالغہ مولفہ شاہ ولی اللہ دہلوی جو اسرار حدیث میں بے نظیر کتاب ہے مولانا سندھی

نے اس کو خاص طور پر اپنا مشغلہ راہ بنایا تھا۔ ہندوستان سے باہر وہ زیادہ تر اسی کتاب کے درس و مذاکرہ میں مشغول رہے۔

حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد مولانا انور شاہ محدث کشمیری نے صدارت دارالعلوم کا عہدہ سنبھالا اور بہت کامیابی کے ساتھ حدیث کا درس دیا۔ انھوں نے متعدد کتابیں بھی تصنیف کیں۔ ان کے درس بخاری کو بعض باکمال شاگردوں نے لکھ لیا تھا اور عربی زبان میں منتقل کر کے اسے ”فیض الباری“ کے نام سے چھپوا دیا ہے۔ کچھ عرصہ تک آپ نے اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے ڈابھیل ضلع سورت میں بھی حدیث کا درس دیا اور دور دور سے طلباء علم حدیث وہاں پہنچ کر حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے حدیث کی مشہور کتاب مسلم کی شرح بھی لکھی تھی جس کا نام ”فتح الملبم“ ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا انور شاہ محدث کشمیری کے ڈابھیل چلے جانے کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی (جانشین شیخ الہند مولانا محمود حسن) دارالعلوم کی مسند صدارت پر بصد وقار و حکمین رونق افروز ہوئے۔ آپ کے زمانے میں دورہ حدیث کے طلبہ کی تعداد پچھلے دور کے مقابلے میں بہت بڑھ گئی تھی۔ آپ نے ”مسجد نبویٰ مدینہ منورہ“ میں بھی برسوں تک درس حدیث دیا تھا اور دارالعلوم میں بھی آپ کے درس کی مدت خاصی طویل رہی۔ تقریباً تیس سال تک دارالعلوم کے بام دور آپ کی شاندار اور بے شکوہ تقاریر حدیث سے گونجتے رہے۔ آپ کی تقریر حدیث کو ہر سال بہت سے ذی استعداد طلبہ اردو میں قلمبند کر لیا کرتے تھے اور مولانا علی احمد خلیلی چانگائی نے ”ہدیہ اچھتی“ کے نام سے اسے عربی زبان میں منتقل کیا ہے جس کا کچھ حصہ شائع بھی ہو چکا ہے۔

حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگردوں کی تعداد ہندوستان میں اور بیرون ہند میں بھی ہزاروں سے متجاوز ہے۔ آپ کے وصال کے بعد مولانا سید فخر الدین محدث نے جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد رشید تھے اس اہم کام کو انجام دیا۔ وہ دارالعلوم دیوبند سے پہلے مراد آباد کے مدرسہ شامی میں شیخ دارالعلوم دیوبند سے پہلے جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امر وہ اور مدرسہ اسلامیہ عربیہ سہلٹ میں بھی حضرت مدنی نے درس حدیث دیا۔ (محب الحق)

الحدیث تھے۔ دارالعلوم میں آپ کے زمانے میں طلبہ کی آمد ملک کے ہر گوشے سے غالباً پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی رہی، کم نہیں ہوئی۔ آپ کی ذہانت و فطانت اور فصاحت و بلاغت مسئلہ تھی اور حدیث کی شرح و تفسیر اپنی دلنشین تقریر میں اس انداز سے کرتے تھے کہ تمام شرکائے حلقہ درس کو اطمینان حاصل ہو جاتا تھا۔ آپ کی تقاریر کو بھی قلمبند کر لیا گیا تھا اور اس کی چند جلدیں ”ایضاح البخاری“ کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔

ساقی خم خانہ توحید و معرفت جانناز معرکہ جہاد شامی

شہید راہ حق حضرت حافظ محمد ضامن فاروقی چشتی تھانوی

بنا کردند خوش رے بخون و خاک غلطیدن ☆ خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

(مرزا مظہر جانجاناں)

بجاء اللہ اسٹال حج و زیارت کی سعادت سے بہرہ یاب ہوا اس سفر مقدس کے برکات میں سے

یہ بھی ہے کہ مکہ معظمہ میں دوبارہ مدرسہ صولتیہ کا عظیم الشان کتب خانہ دیکھنے کا موقع ملا۔

مجھے عالی جناب شیخ سلیم مدظلہ، ناظم مدرسہ صولتیہ سے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ شیخ الشارح

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نور اللہ مرقدہ کا کتب خانہ بھی اسی کتب خانے میں شامل ہو گیا ہے۔ اسی

لئے دوبارہ بعد ایام حج مدرسہ صولتیہ کے کتب خانے کو دیکھا تا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی

زیارت سے مشرف ہو سکوں چونکہ حضرت حاجی صاحب کی تمام کتابیں یکجا تھیں اس لئے سب نہ دیکھ سکا

انھیں کتابوں میں ایک کتاب ملی جو تصوف کے فن میں مطبوعہ تھی اور اس کے آخر میں ایک قلمی رسالہ تھا

اور ایک مقام پر اس کتاب میں حضرت حاجی صاحب کی مہربانی لکھی ہوئی تھی

اس قلمی رسالہ کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت حافظ محمد ضامن شہید کے حالات میں ہے اس

حضرت مولانا فریدی امر دینی نے ۱۹۶۱ء میں جمع کیا تھا جو اس سال شکی حساب سے منی میں ہوا تھا اور یہ مضمون ماہنامہ تذکرہ مدح بند

کے نومبر ۱۹۶۱ء میں شائع ہوا۔ جب یہ مقالہ لکھا گیا تھا تو مولانا محمد سلیم صاحب بقید حیات تھے۔ ۲۴ شعبان ۱۳۹۹ھ مطابق

۱۸ جولائی ۱۹۷۷ء میں ۱۱ سال ہوئے اور جنت البقیع ابدی آرام گاہ میں۔ (محب الحق)

میں مؤلف کا نام محمد ضیاء الدین بن غلام محی الدین بن غلام مصطفیٰ انصاری راجپوری درج ہے یہ رام پور 'منہیاراں' ضلع سہارن پور کے مشہور بزرگ حضرت حکیم محمد ضیاء الدین صاحبؒ ہیں جو حضرت حافظ محمد ضامن شہیدؒ کے مخلص و جاں نثار مرید و معتقد تھے اس رسالے کا نام "مولانا مہجوراں" ہے۔

۱۸۵۷ء کے معرکہ جہاد میں جب مرشد کامل حضرت حافظ صاحب تھانویؒ شہید ہو گئے تو راہ سلوک طے کرنے والے مرید مہجور کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی عجیب سرا سیمگی قلق اور اضطراب کا عالم تھا۔ ان کے قلب و جگر کی کائنات پر فرقت حبیب کا صدمہ جانکا چھایا ہوا تھا اسی عالم یاس و حرماں اور کیفیت رنج و غم میں اپنے پیرو مرشد کے مختصر حالات لکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ داستان الم بھی ہے جس کو سن کر پتھر کا جگر پانی ہوتا ہے مؤلف نے غالباً اصل مسودہ ہی حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں مکہ معظمہ بھیج دیا۔

اس رسالے میں اگرچہ سوانح حیات کم ہیں مگر اتنے حالات بھی کسی دوسری جگہ ملنا مشکل ہیں۔ اس کے لفظ لفظ سے سوز دل آشکارا ہے جگہ جگہ غم انگیز فرائیغیہ اشعار ہیں۔ کرامات پیر و مرشد کا بھی ایک باب ہے تاریخ ہائے شہادت بھی درج ہیں۔ قاسم العلوم و المعارف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا لکھا ہوا مرثیہ بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ کا لکھا ہوا سراپائے حافظ صاحب بھی ہے۔ یہ سب قیمتی اور نادر سرمایہ ہے مگر حافظ صاحب شہیدؒ کا سن پیدائش، آپ کے ابتدائی حالات، تعلیمی کیفیات اولاد جی کہ عمر کی مقدار تک اس میں موجود نہیں ہے دراصل حکیم صاحب کے پیش نظر اپنے مرشد کامل کی مفصل سوانح عمری لکھنا ہے بھی نہیں یوں سمجھیے کہ جو کچھ حالات آگئے ہیں وہ ضمنی حیثیت سے ہیں، ان کا مقصد تو یاد مرشد میں اپنے نالہ ہائے دل کو پیر و قلم کرنا تھا اور بس۔

ہاں اہل حشر ہے کوئی نقاد سوز دل ☆ لایا ہوں دل کے داغ نمایاں کئے ہوئے (غانی)

میں نے مناسب سمجھا کہ اس رسالے کو خاص ترتیب کے ساتھ ایک مضمون کی صورت میں مرتب کروں چنانچہ میں نے جلدی جلدی اس کتاب کے اہم مقامات کی نقل کی اور اس کے اکثر و بیشتر

حصے کو اپنے قلم کی گرفت میں لے آیا اور آج تا ظہرین تذکرہ کی خدمت میں یہ مبارک ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ میں اس سلسلے میں محترم القام شیخ سلیم مدظلہ ناظم مدرسہ صولتیہ، ان کے صاحبزادے شیخ شمیم سلمہ مولانا افتخار فریدی مراد آبادی اور حکیم محمد یامین صاحب ناظم کتب خانہ زید مجدہما کا شکر یہ ادا کئے بغیر نہیں رہ سکتا ان حضرات نے اس کتاب کی نقل میں میری مدد فرمائی اور میرے لئے اتنی سہولتیں بہم پہنچادیں کہ میں نے اطمینان کے ساتھ مسجد الحرام کے احاطے میں دفتر صولتیہ کے اندر بیٹھ کر حسب دلخواہ اس کی نقل کر لی۔

اس رسالے کے مندرجہ حالات کے علاوہ حضرت حافظ صاحب شہیدؒ کے کچھ تھوڑے بہت حالات ملتے ہیں تو وہ حضرت حاجی صاحبؒ کے حالات کے ضمن میں یا امیر الروایات یا حضرت مولانا شرف علی تھانویؒ کے ملفوظات میں مل جاتے ہیں مثلاً یہ کہ وہ شیخ طریقت میاں جی نور محمد جمجمہ تھانویؒ کے ارشد خلفاء میں سے تھے۔

۱۸۵۷ء میں شہید ہوئے مزاج میں اخفاء حال اور ظرافت کا مادہ تھا۔

خانقاہ تھانہ بھون جو مسجد پیر محمدؒ میں واقع ہے اور ایک وقت میں وہ ”دوکان معرفت“ کہلاتی تھی وہاں حضرت حاجی صاحبؒ حضرت حافظ صاحبؒ اور حضرت مولانا شیخ محمد تھانویؒ تین بزرگ ایک وقت میں جمع رہے تھے۔ حافظ صاحب شہیدؒ گوٹھ نوشی کا شوق تھا۔ خانقاہ کے باہر کھی حقہ نوش فرماتے ہوتے اور کوئی نو وارد ملاقات کے لئے آتا تو ظرافت طبع کی رو سے فرمایا کرتے تھے۔ بھائی اگر بیعت ہوتا ہے تو حاجی صاحب کے پاس جاؤ و اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو مولانا محمد سے پوچھو اور نہ پتا ہے تو یاروں کے پاس بیٹھ جاؤ۔

سوانح قاسمی اور سوانح رشیدی میں معرکہ شاملی ۱۸۵۷ء کے سلسلے میں حضرت حافظ صاحبؒ کا

ذکر آتا ہے کہ وہ اس معرکہ میں شہید ہوئے لیکن ان کی کتنی عظیم شخصیت تھی۔ علم باطن میں وہ کس درجہ ممتاز
 مولانا شمیم صاحبؒ ۲۴ شعبان ۱۳۱۶ھ الموافق یکم مارچ ۱۹۹۲ء میں وصال ہوا۔ مشہور مجاہد آزادی تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن اور
 اکابر و اسلاف کے شدائی کا ۳۲ برس ۱۳۱۹ھ الموافق ۲۵ اکتوبر ۱۹۹۸ء کو وصال ہوا۔ (محبت الحق)

تھے ان کی بدولت بزم طریقت کی رونق کس قدر بڑھ گئی تھی اس کا اندازہ اسی رسالے سے ہوا۔

۱۸۵۷ء کے معرکہ جہاد کا حال اور پیر و مرشد کا واقعہ شہادت حکیم محمد ضیاء الدین نے بھی مصلحت بہت ہی مجمل طور پر اور مختصر لکھا ہے اور مصلحت ہی غالباً اس کی محرک ہوئی کہ انگریز کے باغی ایک درویش صفت مرد مجاہد کے حالات کو قلمبند کر کے حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں مکہ معظمہ کسی نہ کسی طرح بھجوادیا اور اس طرح یہ رسالہ محفوظ و مصون رہا ورنہ انگریز نے تو مظلوم شہیدوں کے کارناموں کو مٹانے، بھلانے میں کوئی بھی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا تھا۔ میرا غالب خیال یہ ہے کہ اس رسالے کے طبع ہونے کی نوبت نہیں آئی ہے۔

جی چاہتا تھا کہ حکیم صاحب ۱۸۵۷ء کے معرکہ کو ذرا تفصیل سے لکھتے مگر اس زمانے کی مجبوری کا آج کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

۱۸۵۷ء میں اور اس کے بعد بہت سے علماء و صلحا شہید ہوئے بہت سے پھانسی کے تختے پر لٹکائے گئے، کچھ جلاوطن کر کے کالا پانی بھیجے گئے، کچھ ہجرت کر کے حرمین شریفین چلے گئے، انگریز کی دارو گیر نے ایک ہنگامہ قیامت برپا کر رکھا تھا۔ اسی زمانے میں شیخ المشائخ حضرت حاجی صاحبؒ براہ کراچی مکہ معظمہ پہنچے ہیں مشہور مناظر اور مجاہد اسلام حضرت مولانا شیخ رحمۃ اللہ کیرانویؒ "سورت کے راستے سے" "بلد امین" کو روانہ ہوئے ہیں۔ شاہ احمد سعید مجددی دہلویؒ اور ان کے بھائی شاہ عبدالغنی مجددیؒ مع افراد خاندان کے دہلی کی خانقاہ حضرت شاہ غلام علیؒ سے جدا ہو کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں شہداء اور مجاہدین کی یاد میں خون کے آنسو بہانے اور مسلمانان ہند کی حالت زار پر پھوٹ پھوٹ کر رونے اور ملت بیضا کے فروغ رفتہ رفتہ کا تذکرہ اور تعمیر نو کی فکر کرنے والے چند اہل دل علماء باقی رہ گئے ہیں جن میں نمایاں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت مولانا محمد یعقوبؒ ہیں۔

میدان شاملی میں بنانا یا کھیل بگڑ جانے اور بہت سے مجاہدین خصوصاً حضرت حافظ صاحبؒ کی

شہادت کے حادثہ جانکاہ سے اکابر ملت کے دلوں میں اضطراب و بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسی حالت میں کس میں ہمت تھی کہ رو داؤم تفصیل سے سنائے۔

اب میں حکیم محمد ضیاء الدین کے بیانات اور ان اکابر کے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ حافظ صاحب کے احباب مریدین اور معتقدین کو ان کی جدائی کا کس قدر صدمہ تھا۔

حضرت حافظ صاحب شہیدؒ مرید بہت کم فرمایا کرتے تھے۔ حکیم محمد ضیاء الدین صاحب راپوریؒ بہ سفارش حضرت حاجی صاحب شرف بیعت سے مشرف ہوئے تھے اور بیعت ہونے کے بعد وادی سلوک میں ابھی گا مزن ہی تھے کہ ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ برپا ہو گیا چنانچہ خود تحریر فرماتے ہیں۔

”اسی تمنا اور تجسس میں رہتا کہ حق تعالیٰ کسی طرح مجھ کو بھی اس طریق سے کچھ حصہ نصیب فرمادے اور کبھی یہ خیال آتا تھا کہ کیا بعید ہے کہ حضرت پیر و مرشد کے تصدق سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اخلاص بھی عطا فرمائے۔“

یہ خبر نہ تھی کہ پردہ غیب سے کچھ اور ظاہر ہوا چاہتا ہے اسی توقع اور کشاکش میں تھا کہ ناگاہ گردش ایام اور شامت افعال اس شکستہ حال سے یہ صورت پیش آئی کہ دفعۃً جہان میں ایک شور و شور پیدا ہوا۔ ہنگامہ قتل اور غارت کا چاروں طرف سے ایسا گرم ہوا کہ کہ شاید کبھی نہ ہوا ہوگا اور جو لوگ دیندار اور جری تھے غیرت اسلام سے اکثر شہید ہو کر سوئے دار البقاء فرما ہوئے یا خانہ ویراں ہو کر لور ”بدر اہی“ اس ملک کی دیکھ کر بیت اللہ شریف یا کسی اور دار اسلام کو شریف لے گئے اب ہندوستان میں گویا دنیا پلٹ گئی۔

اسلام پست ہو گیا دین و دنیا کی اچھی بات گم ہو گئی کیا کروں یہ فسانہ غیر مقصود ہے اپنا در دوئم اور قصہ حسرت و الم کچھ اور ہے ہر کوئی اپنی باا میں مبتلا ہے۔ آتش مفارقت جی جلائے دیتی ہے، دل مجبور گھبراتا ہے سوزش درونی کو بیان کیا چاہتا ہے اور کوئی ذکر خوش نہیں آتا۔ حاصل کلام اس ہنگامے میں جلال کبریائی کو جوش و خروش تھا اور وہ ہوشان شیون الہی کو بھی ایک دلولہ اور ذوق و شوق تھا۔

چنانچہ حضرت مرشدؒ نے بھی ضرور دنیائے دنیہ کا کچھ خیال نہ فرمایا کہ ہمت چست باندھ کر امر حق پر جان و مال کو قربان کیا اور ذوق و شوق و دیدار الہی میں ایسے مست ہوئے کہ کسی طرح کا تردد نہ ہوا۔ اور تمنائے شربت شہادت و جام کوثر میں ہماری بیکی کا بھی کچھ خیال نہ فرمایا۔ سبحان اللہ کیا ہمت مرداں، مدد خدا کا تماشا دکھلا کر مردانہ اور مشتاقانہ ۲۴ محرم الحرام ۱۲۷۴ھ (کو) برسرِ معرکہ ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ واہ کیا خوب داد ہمت، لے گئے اور داغِ حسرت دے گئے۔

(دوہرہ)

ساجن دکھیا کر گئے اور سکھ کو لے گئے ساتھ ☆ جنم بچھو ہا دے گئے اور پھر نہ پوچھی بات

(بچینی)

رفیق و مراخبر نہ کردی ☆ بریکسیم نظر نہ کردی

دفعۂ حشر برپا ہوا جہاں نہ وبالا ہو گیا۔

چلی سمتِ غیب سے اک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا ☆ مگر ایک شاخ نہالِ غم جسے دل کہیں سو رہی ہری ادھر رفعت اور شان دو بالا ہوئی ادھر جہاں تیرہ و تار یک نظر آیا یہ جان تا تو اس سخت گھبراتی تھی سینہ پھٹا جاتا تھا، منتقل حیران ہوئی۔

یہ نہ تھی امید ہم کو ساقیِ کلفام سے ☆ دور سا غم میں ہمیں محروم رکھا جام سے

ناگاہ جناب حاجی صاحب قبلہ سلمہ اللہ تعالیٰ کو جناب باری سے الہام ہوا کہ بیت اللہ کو آؤ چنانچہ وہ بھی بالہام حق، بیت اللہ شریف کو تشریف لے گئے، وائے محرومی کے بجائے حضرت پیر و مرشد جو باقی تھے ان سے یوں اپنی مفارقت ہوئی۔

نہ قاصدے نہ صباے نہ مرغ نامہ برے ☆ کے یہ بیکی من نمی بردخبرے

ہائے بیدادی کیسے کیسے مر بی جدا ہوئے اس پر بھی ہم سر پہرے جیتے رہے... یہ نظم حسب حال

ہج

چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجھل تھا ☆ ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا
 خزاں کے دن جو دیکھا کچھ نہ تھا جز خاک گلشن میں ☆ بتاتا باغباں رورو یہاں غنچہ یہاں گل تھا
 آہ جس وقت وہ محبت یاد آتی ہے اور وہ صورت شریف رحمتہ اللہ علیہ نظر میں پھر جاتی ہے اس
 دل ناشاد پر جو کچھ گزرتا ہے بیان نہیں ہو سکتا ہر چند تڑپ تڑپ کرتی چاہتا ہے کہ مر جاؤں، اس ہر دم کی
 جاں کنی سے چھوٹ جاؤں مگر کچھ بس نہیں چلتا اور از خود مر نہیں جاتا، لاچار کلیجہ پکڑے اختیار اپنی زندگی پر
 رو دیتا ہوں، جب کہیں صورت مراد کی نہ بندھی اور کچھ بس نہ چلا بجز عرض حاجت کوئی چارہ نہ دیکھا اب
 اکثر یہ دعا روز بیاں اور نمونس جاں ہے۔

یہ غلام آپ کا اے شاہ محمد ضامن ☆ کب تلک حسرت دیدار میں کاٹے گا دن

خانقاہ تھانہ بھون کا ایک منظر:

حکیم صاحب خانقاہ تھانہ بھون کی اس طرح منظر کشی کر کے دور ماضی کی یاد تازہ فرماتے ہیں اور
 جب کبھی وہ چنستان اسرار الہی آباد تھا اور وہ محل مراد پے باز اوصاف نامتناہی موجود تھے، عجب رنگ و روپ
 رہتا تھا۔ کہیں درس علم اور کہیں تعلیم عمل اور کبھی وعظ و پند کبھی زبان بند، مشغول با خداوند، کہیں حلقہ توجہ کا،
 کہیں جلوہ ذکر جبر کا، کسی کو حالت گرہ کی کو تہقہ، کوئی مست و بیہوش، کوئی محو و مستغرق، دل دنیا سے فارغ،
 اللہ کا طالب ہر ایک اپنے حال میں مست رہتا تھا گویا ایک چمن رحمت حق تھا کہ ناگاہ برباد ہوا، یار و جب
 کبھی کسی جگہ اس مجمع خیر کا ذکر خیر گوش زد ہوتا ہے سینے میں تار سا نکل جاتا ہے اور دل مضطر بے اختیار تڑپ
 اٹھتا ہے ہر چند چاہتا ہوں کہ روکوں مگر دل مضطر پر کچھ بھی بس نہیں چلتا

ضبط فریاد کروں گریہ کو روکوں لیکن ☆ دل بیتاب کو روکوں یہ نہیں ہو سکتا

عیش دنیا کیا خوش آئے ☆ دل مجبور کس توقع پر قرار پائے

جب جدا تم سایا ر جانی ہو ☆ کس روش اپنی زندگانی ہو

کسی نے کیا خوب کہا ہے

یار بن نغمہ بلبل کے خوش آتا ہے ☆ کہت گل سے دماغ اپنا ازا جاتا ہے
حافظ صاحب شہید کا حلیہ مبارک:

دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے آپ کا سراپا لکھا ہے اس سراپا میں سو سے زائد اشعار ہیں میں نے ان میں سے نصف سے کم اشعار منتخب کر لئے ہیں، ان اشعار کو پیش کرنے سے پہلے میں اس سراپا سے اخذ کی ہوئی چند خاص باتیں صحت ذیل کرتا ہوں۔

(۱) حضرت حافظ صاحب بوقت شہادت جو ان تھے، داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ (۲) آپ خوش رو و بارعب اور گورے چٹے تھے۔ (۳) چچک کے کچھ کچھ داغ آپ کے چہرے پر تھے جو بہت خوشنما معلوم ہوتے تھے۔ (۴) آپ کی آنکھیں بادہ معرفت کے نشے سے مخمور اور سرخ رہتی تھیں۔ (۵) آپ سر کو منڈواتے تھے اور اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سنت پر عمل پیرا تھے۔ (۶) گردن بلند تھی۔ (۷) سینے پر سیاہ بال تھے۔ (۸) بھویریں آپس میں پیوستہ نہ تھیں بلکہ کشادہ تھیں۔ (۹) قد و قامت متوسط اور نہایت موزوں تھا۔ (۱۰) چہرے پر تسم کی کیفیت نمایاں رہتی تھی۔

اب میں سراپا کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ درحقیقت یہ اشعار حافظ صاحب شہید کی شکل و صورت

کی تصویر کھینچنے میں کامیاب ترین اشعار ہیں۔

ہیں یہ قدرت کے جو نادر رقم
حضرت فاروق کی بلبل شیبہ
اس کی صفت ہو مٹی لکھنی مجال
جس کے ہوئے سر پہ مہ و مہر و خم
سانے جس کے کرے طوبی نیاز
چاہئے یاں دیدہ حق میں کو غور
سانے کیا برق ہو شرمائے ہے
نور جلی کی ہو جیسے چمک
چشم کہاں زگس جادو کہاں

حلیہ پاک ان کا لکھے ہے قلم
صورت و سیرت میں وہ سب سے نبیہ
قامت موزوں ہے جو طوبی مثال
قد ہے وہ اسلام کا قائم علم
قد متوسط ہے نہ کوتہ دراز
چہرہ پر نور کا عالم ہے اور
نور خدا اس میں نظر آئے ہے
چہرہ پر نور میں یوں ہے دمک
جانہ کہاں چہرہ نیکو کہاں

صلی علیٰ کیا عجب ایجاد ہے
 صاد ہے یا صلی علیٰ کا نشان
 آنکھوں سے یاں خون ہی بہہ جائے ہے
 اس میں ہے اک اور ہی دل بستگی
 شعلہ کی جوں ذودیسہ میں بہار
 گوہر و مرجان کو بے دم کیا
 حلقہ گبوش اس کا ہے یا قوت نام
 بات ہے یا مطلع انوار ہے
 جیسے مرصع ہو کوئی سلک ذر
 قطرہ شبنم گل تر پر عیاں
 زلف کی پہنچے نہ جہاں تک کند
 سر کو عجب طرح کی گرمی چڑھی
 دیتے تھے سر پر سے بلا اپنی ٹال
 کرتے ادا سنت شیر خدا
 آتش عشق اس میں سدا مشتعل
 ہیں یہ اسی آتش سوزاں کے ذود
 جس کے رہے زیر قدم آسماں
 تکیہ جز اللہ کسی پر نہیں

چشم نہیں تنخ کا یہ صاد ہے
 بندۂ بے دام ہے بادام واں
 سرخی چشم اس کی جو یاد آئے ہے
 ابروؤں میں جو نہیں پیوستگی
 ان کے محاسن میں وہ چمکے عذار
 موج تبسم نے یہ عالم کیا
 لطف تبسم کا ہے لولو غلام
 بات ہے کیا بات پر اسرار ہے
 رمزد کنایہ سے لطیفوں سے پر
 چہرے پر چمک کے جو دیکھو نشان
 کیا کہوں ایسی ہے وہ گردن بلند
 عشق الہی میں جو ہمت بڑھی
 تاب نہ تھی سر پہ ذرا رکھیں بال
 رکھتے جو تھے ہمت شیر خدا
 نعمت باطن کا خزانہ وہ دل
 سینے پر کچھ بال سیہ ہیں نمود
 ہمت عالی کا کردوں کیا میاں
 پشت کی توصیف سنی ہر کہیں

میاں جی نور محمد جھنجھانویؒ کی خدمت میں حاضری اور ابتدائے سلوک کے کچھ واقعات
 حکیم صاحبؒ اپنے پیرومرشد کے ابتدائے سلوک کے واقعات اس طرح بیان فرماتے ہیں

وقت عصر حضرت میاں جی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ تم آئیے کریمہ ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ ختم کر لو۔ حضرت حافظ صاحب نے بعد عصر آئیے کریمہ شروع فرمائی اور اگلی عصر تک ختم فرما کر اسی جگہ سے اٹھے اور اس ایک رات دن میں بجز حاجت بشری یا نماز وغیرہ ضروریات کے کوئی بات نہ کی۔ جب میاں جی نے ذکر و اشغال تلقین فرمائے اسی ہمت اور استقامت کے ساتھ انجام کو پہنچائے، سوائے اور اشغال کے چند روز میں جس دم کی یہ مشق حاصل فرمائی تھی کہ ایک دم میں ذکر نفی و اثبات بعد شرائط پانسومرتبہ تک پہنچا کر چھوڑ دیا زیادہ حاجت نہ ہوئی ورنہ خدا جانے کہاں تک کثرت فرماتے اور کئی سال تک فقط آدھ پاؤ کے بقدر کھانا نوش جان فرمایا کرتے تھے اور ربط قلب شیخ کے ساتھ اس قدر پیدا کیا تھا کہ بالکل مجاور فنا فی الشیخ ہو گئے تھے۔ ۱۵ اشعبان (شب برات) سے آخر رمضان شریف تک ڈیڑھ مہینے تمام شب مشغول رہتے تھے، شب کو لیٹنا سونا بالکل موقوف کر دیتے تھے۔ چند روز میں کمال جذب کے ساتھ سلوک طے فرمایا اور اس قدر کمال توحید اور وسعت حال حاصل ہوئی کہ خارن از بیان ہے۔ اس وقت میں تمام درویش اہل حال فن تصوف میں پیشوا سمجھتے اور خاص و عام دریافت حال و مقام میں حیراں تھا۔

عادات و خصائل:

حکیم صاحب نے اپنے مرشد کامل کے خصائل کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اس ذات عالی کو کیا بے نظیر پیدا کیا تھا کہ کچھ کہا نہیں جاتا اور بایں صورت و شان باکمال۔۔۔ ایسے بے ساختہ اور بلا تکلف تھے کہ تصنع کا گمان بھی نہ آتا تھا اور ظاہر و باطن وہ صاف معاملہ تھا کہ ریا کی بوباس نہ تھی اور ہر ایک یہ جانتا تھا کہ مجھ سے نہایت محبت رکھتے ہیں ہیبت حق چہرے پر نور سے ایسی عیاں تھی کہ ہر ایک دفعہ آنکھ نہ ملا سکتا تھا اور مردم شناسی کا یہ ملکہ تھا کہ کبھی خطانہ ہوتی تھی اور جیسا جس کو دیکھتے ویسے اس سے کلام فرمایا کرتے تھے غرض کسی حال میں افراط و تفریط نہ تھی اور باوصف خانہ داری اور اہل و عیال کے نہایت آزاد اور مستغنی رہتے تھے گویا فکر دنیا پاس بھی نہ آیا تھا۔

دانائے عصر اور علماء زمانہ ہر ایک مخلص و منقاد تھا۔ نادان و منافق سے کچھ باک نہ تھا۔ ہر وقت

عشق الہی میں مست و سرشار رہتے تھے دل کی کیفیت چہرے مبارک پر معلوم ہوا کرتی تھی، آنکھیں ہر وقت مخمور رہتی تھیں، محبت الہی کا صورت شریف پر ہر آن ظہور تھا۔“

اتباع شریعت:

حکیم صاحب مؤلف مونس مجھوں اس بارے میں یوں رقمطراز ہیں۔

”اور اتباع شریعت یہ کچھ تھا کہ ادنیٰ بدعت بھی جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے اور خود مسئلہ مختلف فیہا میں احتیاط پر عمل فرمایا کرتے تھے اور اوامر و نواہی میں شان فاروقیت کا عروج ہوتا تھا، زہد و تقویٰ پر ایسی کمر چست باندھی تھی کہ جان تک سے دریغ نہ فرمایا۔

اللہ اللہ کیا اوصاف بیان کروں مختصر یہ ہے کہ ایک دریائے نور تھا نور محمدی کا ظہور تھا۔“

فیض صحبت:

اور فیض صحبت ایسا بے نہایت تھا کہ جب لوگ سامنے بیٹھتے تھے تو خیال دنیا نہ آتا تھا عبادت کی طرف رغبت ہوتی تھی۔

مجمع اصحاب و خیر و برکت:

اپنے مرشد کے فیوض و برکات بیان کرتے کرتے حکیم صاحب کو دیگر ان اکابر ملت و طریقت کی مجلس اور صحبتیں بھی یاد آتی ہیں جو مسجد پیر محمد میں جمع تھے چنانچہ فرماتے ہیں:

”غرض اس طور طریق خیر و برکت کا یہ مجمع قصبہ تھا نہ بھون مسجد پیر محمد مرحوم میں جمع ہوا تھا کہ کچھ بیان کیا نہیں جاتا اس آخری وقت میں یہ حضرات نمونہ متقہ مین کے پیدا ہوئے تھے اور تھوڑے عرصہ میں اس قدر تعلیم و تلقین راہ خدا جاری ہوئی کہ عالم میں شہرہ ہو گیا ہر طرف سے طالب خدا اور درویش وقت رجوع ہونے لگے اور سب اپنے اپنے حوصلے کے موافق فیض یاب ہوتے تھے۔ عجب وہ زمانہ تھا اور عجیب کیفیت وہاں رہتی تھی کہ نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور ہر چند غور کیا مگر بہر حال اس مجمع کو

رنج و راحت دنیا سے بے فکر پایا بجز یاد خدا کسی شے کا فکر و اہتمام کرتے نہ دیکھا۔ سبحان اللہ کیا وقت سرور و حضور تھا اور وہ کیسی برکات عام تھیں جو اخلاص سے چند روز بھی اس صحبت میں رہ گیا ایک حال پیدا کر لے گیا یہ بات اس زمانے میں کہیں نہ تھی سالہا سال کے عابد و زاہد دیکھے جو کچھ ان کے قلب میں اثر ڈکرایا ان حضرات موصوفین ادا م اللہ فیضہم کی خدمت میں چند روز کے طالبوں کو اس سے بہتر پایا غرض کہ وہاں اول ہی ایک نسبت کا اثر ہو جاتا تھا اور جس کسی طالب نے وسوسہ نفس و شیطانی کو دفع کیا اور حسن عقیدت سے وہاں حاضر ہو کر ہمت کر کے زہد و تقویٰ میں قدم چست رکھا اور جی لگا کر ان بزرگوں کی خدمت میں کچھ تربیت پائی مقام عالی پایا چنانچہ ایسے کتنے خادم ان حضرات کے موجود ہیں کہ ہر طرح کی نعمت دینی سے مالا مال ہیں روز و شب اسی کی تلاش میں رہتے ہیں۔

اخفاء حال:

حضرت حافظ صاحب شہید اپنے حال کو بہت چھپاتے تھے مرید با اخلاص نے اس صفت کا ذکر یوں

کیا ہے:

”پیر و مرشد کو باوصف اس جاہ و جلال کے ستر حال کا بہت خیال تھا، آزادانہ وضع رکھتے تھے اور

بہت کم مرید فرمایا کرتے تھے، بوسیلہ سفارش حضرت حاجی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ میں مشرف بہ بیعت ہوا۔“

شوق شہادت:

مرشد کے شوق شہادت کا ذکر حکیم صاحب ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”جس سال (۱۸۵۷ء میں) حضرت پیر و مرشد شہید ہوئے یوں فرمایا کرتے تھے“

”کہ دیکھو جو میں پیالہ لئے ہوئے مکانوں کی منڈیوں پر کھڑی ہیں جس کا جی چاہے لے

لیوے“ ان ایام میں حضرت پیر و مرشد و لولہ محبت الہی میں ایسے مست و مخمور ہوئے تھے کہ اکثر ذکر شہادت بر

زباں آتا اور بہت باتیں اسرار کی کہہ اٹھتے تھے ستر حال کا چنداں لحاظ نہ رہا تھا اور جو کوئی مستعدی بیعت

ہوتا تھا برخلاف عادت فوراً بیعت کر لیتے تھے۔

ساقی بزم توحید معرفت و شیر بیشہ حریت بصدشان رعنائی و مشتاقی شاملی کے میدان جہاد میں:

حوروں کی آنکھیں جس مشتاق شہادت پر پڑ رہی تھیں ذرا اس کا معرکہ جہاد میں مشتاقانہ اور دلربانہ انداز تو ملاحظہ فرمائیے، حکیم صاحب نے وجد انگیز الفاظ میں اس منظر کو دکھایا ہے۔ تاریخ حریت اور کتاب حمتی ملی کا یہ وہ ورق ہے جس کو خون دل سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ سچے حکیم صاحب فرماتے ہیں:

جس وقت ارادہ معرکہ کا کیا، غسل فرما کر سب لباس نیازیب بدن شریف فرمایا اور یہ لباس بہت روز چستر سے رکھ چھوڑا تھا حالانکہ ان کے بعد کے کپڑے بنائے ہوئے استعمال فرمائے اور وہ لباس اس دن کام آیا۔ نعلین شریفین کچھ بوسیدہ نہ تھیں مگر وہ بھی نئی رنگا کر زیب پائیں (پہنیں) اور یہاں تک سامان لباس وغیرہ کا اہتمام کیا تھا کہ خوشبو ملی اور سر نہ لگایا، دستار چچدار، سپاہیانہ وضع، شیشیر لے کر شربت دیدار کی تمنا میں علم جو انمردی اٹھا کر مردانہ اور مشتاقانہ برسر معرکہ جان بحق تسلیم فرمائی جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

در کوئے تو عاشقاں چناں جاں بدہند ☆ کانبجا ملک الموت گنجد ہرگز

نغش مبارک سے عطر خس اور گلاب کی خوشبو:

مؤلف مولف مجبوراً جیسے نقد راوی کا یہ بیان بھی ہے "جس وقت نغش مبارک لینے آئے تھے جسم شریف سے عطر خس اور گلاب کی خوشبو آتی تھی اس نالائق (مؤلف) کا دماغ اس خوشبو سے مشرف و معطر ہوا اور جناب حاجی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت تصدیق فرمائی۔"

مؤلف کے نام شہادت سے ہفتہ عشرہ پہلے ایک مکتوب گرامی:

حضرت پیر و مرشد نے ہفتہ عشرہ پہلے شہید ہونے سے اس نالائق کو ایک عنایت نامہ ارسال فرمایا تھا (وہ گرامی نامہ فارسی زبان میں تھا) عیبہ ترجمہ اس کا درج کرتا ہوں۔

”برادر دینی حکیم محمد ضیاء الدین سلمہ اللہ تعالیٰ بعد سلام واضح رائے ہو کہ تمہاری تحریر کے موافق دل میرا متمنی ملاقات ہے لازم کہ بغور (جلد) (بعد) مطالعہ اس خط کے اپنے تئیں یہاں پہنچ آؤ ایسا نہ ہو کہ توقف میں حسرت ملاقات کی دل میں رہ جائے عاقل کو اشارہ کافی ہے، باقی حال بروقت ملاقات بیان کیا جائے گا۔ فقط والسلام“۔

تاریخ شہادت:

آپ نے ۲۴ محرم الحرام ۱۲۷۴ھ کو پیر کے دن ظہر کے وقت شربت شہادت نوش جان فرمایا آپ کی وفات و شہادت پر جو تاریخیں کہی گئیں وہ یہ ہیں:

(۱) مؤلف رسالہ کے بھائی محمد علاء الدین صاحب رامپوری نے ”شہادت مرشد ہادی“ تاریخ شہادت نکالی

۱۲۷۴ھ

(۲) مرزا غالب کے شاگرد مولوی عبدالسیح صاحب بیدل رامپوری نے یہ قطعہ لکھا، جس سے معرکہ جہاد پر بھی تھوڑی سی روشنی پڑتی ہے

<p>شہید ہو گئے ضامن علی پاک نہاد ہوئے شہید مگر اک تماشہ دکھلا کر نہ چھوڑی نام کو گردن کہیں نصاریٰ کی جو مارے تیر تو لگتے ہی جالیا گوشہ خدا کو پیارے ہوئے آخرش شہید ہوئے جو پوچھی سن شہادت کہا فلک نے کہ ہائے دوسری تاریخ بیدل صاحب نے یوں نکالی:</p>	<p>جواب جن کا نہ تھا کوئی نسل آدم میں لہو لہان کیا دشمنوں کو اک دم میں گلو بریدہ ہے سکہ بھی ان کا درہم میں ہزاروں کافر بد کیش نے جہنم میں نہ دل میں تاب ہے باقی نہ کچھ تو ان ہم میں ہوئے شہید وہ شاہ جری محرم میں</p>
--	---

بیدل آں وقت کہ حافظ ضامن☆ رفت و آراست بخت مند
 شاہ رضاواں شد و گفت این تاریخ☆ حافظ مصحف ایزد آمد
 (۳) میاں جی عبدالغفور کوئی... وقت ہوں گے انھوں نے یہ تاریخ نکالی:
 حوریں سب مل کرے بیس واہ وا☆ پیر کے دن خلد میں پیر آگئے
 (۴) ملازمین العابدین پشاور کی کوئی بزرگ تھے انھوں نے دو تاریخیں کہیں ان میں سے ایک یہ ہے:

شہ بہشت بریں بود نیز از پنے سال ☆ بقال طرفہ بر آمد شہ بہشت بریں
 ۱۲۷۴ھ
 تھانہ بھون کا ایک منظر:

حافظ صاحب کی شہادت کے بعد تھانہ بھون پر بالعموم اور مکان حافظ صاحب پر بالخصوص کیا
 گذری اس کی تفصیل مؤلف رسالہ نے پیش نہیں فرمائی رسالے کے بعض مقامات پر اس کے متعلق کچھ
 اشارات ملتے ہیں۔ حافظ صاحب کا مکان ویران اور خستہ حال ہو گیا تھا کس طرح ہوا؟ یہ داستان حکیم
 صاحب کے موضوع سے باہر ہے، کچھ مصلحت کے بھی خلاف ہے اور ان کے دکھی دل کو اس کی تاب بھی
 نہیں ہے کہ ان حوادث کو وہ مفصل بیان کر سکیں۔

ایک آہ ہے جو ان کے سینہ سوزاں سے نکل رہی ہے ایک حسرت ہے جو نوحد کنناں ہے ایک
 ایک بات پیر و مرشد کی یاد آ رہی ہے، پیر و مرشد کا مکان بھی یاد آ رہا ہے سچے کیا فرماتے ہیں:

”وا حسرتا کد ہر گیا اور کیا ہوا وہ مجمع خیر اور جماعت محبت آمیز اور وہ محبت عشق انگیز اور وہ مکان
 دل آویز یعنی مسکن حضرت اقدس کہ اب ویران ہے باوصف اس خستہ حالی کہ دیکھو وہاں کیا جلوہ حق ہے
 اور اس اجڑے مکان میں کیا دل کشادگی ہے، خس و خاشاک سے بوئے گل اور نغمہ بلبل کی کیفیت پائی جاتی
 ہے اکثر اہل دل وہاں جا کر مسرور ہوتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں کسی نے سچ کہا ہے

بزمینکہ نشان کف پائے تو بود سالہا سجدہ صاحب نظران خوابد بود

مرشد کی شہادت کے بعد مؤلف کا ایک خواب:

ایک صحرائے وسیع، ہموار سبزہ زار ہے اس کی وسعت اور فرحت و فضا کا کچھ بیان نہیں ہو سکتا اس میدان میں ایک درخت اس قدر بلند ہے کہ سر اس کا آسمان کے قریب ملا ہوا ہے اور بہت خوبصورت ہے چند شاخیں اس کی سر جھکائے جھوم رہی ہیں اور ان میں کھجور کے سے خوشے نہایت خوش وضع کے ساتھ لٹکتے ہیں اور بیچ ان شاخوں کے ایک تخت نفیس و خوبصورت قائم ہے اس پر حضرت پیر و مرشد جلوہ فرما ہیں اور وہ شاخیں ہر چہار سو پر سایہ لگن ہیں عجب آن بان، شوکت و شان اس حال با کمال میں نکلتی تھی یہ معاملہ دیکھ کر اس قدر فرحت و اطمینان اور جمعیت خاطر حاصل ہوئی کہ بالکل محمود مستغرق اس حال میں ہو گیا جب بایں ہیئت دیکھا تو اس نالائق کے دل میں خیال آیا۔ اگر حضرت کچھ حال اپنی شہادت کا ارشاد فرمائیں تو بہتر ہے۔

اس بات کے دل میں وارد ہوتے ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے اس نے مجھ کو شہدا میں بڑا مرتبہ عنایت فرمایا اور بڑی نعمتیں عطا ہوئیں۔ ”مگر حقے کا ذکر آیا تھا“ اس نالائق کے جی میں خطرہ گذر گیا کہ آپ سے گرفت ہوئی ہوگی (اس وقت حافظ صاحب شہید نے) فرمایا ”نہیں“ فقط ذکر آیا تھا۔ یہ فرما کر اور اس ہیئت کو چھوڑ کر ایک مسجد میں تشریف لائے اور دہن شریف کھول کر دکھلایا، کیا دیکھتا ہوں کہ درج دہان مبارک میں شکر بھری ہوئی تھی۔

حافظ صاحب کے دہن سے حقے کی بونہ آتی تھی:

مؤلف نے اس خواب کو نقل کرنے کے بعد حضرت حافظ صاحب کے بارے میں حضرت قاسم العلوم مولانا محمد قاسم نانوتوی کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے میں نے بغور خیال کر کے دیکھا تھا کہ حضرت حافظ صاحب کے دہن شریف سے حقے کی بونہ آتی تھی۔

قمریوں سے شوق اور حافظ صاحب کے انخفا حال کا ایک عجیب واقعہ:

مؤلف مونس مجوراں رقمطراز ہیں، ”ابتدائے حال میں حضرت حافظ صاحب کو قمریوں سے شوق تھا ایک روز بعد کھانا کھانے کے ایک روٹی قمریوں کے واسطے لائے جس وقت قریب پنجرے کے پہنچے ایک قمری نے صدائے حق سرہ سنائی اس صدا کو سنتے ہی، بیہوش ہو کر گر پڑے، ناگاہ ایک شخص

آ گیا (اس وقت ہوش آ گیا) گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور یوں فرمایا کہ ”دیکھو اکثر آدمی راہ میں پانی گرا دیتے ہیں لوگ روپٹ کر گر جاتے ہیں“ سبحان اللہ کتنا اخفاء حال تھا کہ حتی المقدور اپنے حال کو باتوں سے چھپا دیا اسی وجہ سے آپ کے اکثر حال اور خرق عادات ظاہر نہ ہوئے۔“

حافظ صاحب شہیدؒ کا ایک ملفوظ:

حکیم صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت حافظ صاحبؒ تشریف لئے جاتے تھے راہ میں ایک جانور مردار (مردہ) پڑا تھا اور دو سگ بچے (کتے) گرد اس کے تھے ایک دوسرے کو کھانے نہیں دیتے تھے باہم غزار ہے تھے یہ دیکھتے ہی ایک آہ سرد بھر کر فرمایا کہ ”دیکھو اللہ تعالیٰ نے بعینہ مثال دنیا داروں کی ظاہر کر رکھی ہے کہ دنیا مردار پڑی ہے اور دنیا دار کتے لڑتے ہیں۔“

بعد شہادت خواب میں نصیحت:

حکیم صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے حالات قلبی میں کچھ فتور واقع ہوا تو خواب میں آ کر یوں فرمایا ”تھوڑا کھایا کرو اور لباس جیسا ملا ویسا پہر (پہن) لیا۔“

اشعار مرثیہ:

قاسم العلوم و المعارف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے حضرت حافظ صاحبؒ کا جو مرثیہ لکھا ہے وہ ایک زبردست غم انگیز ادبی شاہکار ہے اس کی تاثیر ناظرین کرام خود محسوس فرمائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوری جماعت حافظ صاحبؒ کی شہادت کے بعد مضطرب و بے چین ہو گئی تھی۔ حضرت نانوتویؒ کے یہ اشعار اپنی معنوی وسعت میں رنج و غم کا ایک طوفان لئے ہوئے ہیں۔ ان کو پڑھ کر دل بل جاتا ہے اور بے اختیار رقت طاری ہوتی ہے۔ یہ اشعار تعداد میں ۶۵ تھے میں نے ۱۳۵ اشعار کا انتخاب کیا ہے۔

یہ بھی ظاہر کر دوں کہ حضرت قاسم العلومؒ نے اس مرثیہ کے آخر میں اپنے نام کے بجائے حکیم محمد ضیاء الدین صاحبؒ کا نام درج کیا ہے اگر حکیم صاحبؒ خود نہ فرماتے کہ یہ اشعار حضرت قاسم العلومؒ کے

ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا، اب یہ اشعار مرثیہ سنیے

ہمیں پالا پڑا ہے اب کے غم ہاے فراواں سے
 کہ اٹھنے کا نہیں بار غم اس قلب پریشان سے
 میرے سینے کو بھر دو چیر کر ریگ بیاباں سے
 کوئی مشفق مرآت چھان دے تیروں کے پیکاں سے
 طلب کر اب کی نوبت چشم خوں بار ابر باروں سے
 تقاضا ماتم غم کا کرے ہے جن و انساں سے
 کہ جس کا خال پا بہتر تھا اس مہر درخشاں سے
 بنایا تھا جسے حق نے ملا کر عشق و عرفاں سے
 لٹائے خاک میں ان کو عجب ہے چرخ گرداں سے
 بہاتا اشک کی جالحت دل اس چشم گریاں سے
 کہ اب کے برسر پر خاش، غم آیا ہے سماں سے
 نظر آتا ہے غم میں ہاتھ دھو بیٹھیں گے ہم جاں سے
 رہے ہم سر پچکتے ہجر میں ان کے، کہستاں سے
 اجل سے اٹھ سکے شاید نہ ہم بار گناہاں سے
 وہ آئیں اپنے ویرانے میں یہ باہر ہے امکاں سے
 تو پھر بیتاب کیوں ہوتا ہے اے دل شوق پنہاں سے
 صدائے نالہ شوق آئے گی گور غریباں سے
 کہ حسرت کے سوا کچھ ہاتھ آئے گا نہ ارماں سے
 نہ چپکے ہی بنے ہے اور نہ کچھ ہوتا ہے افغاں سے
 کہ یہ جاں حزیں ہم بزم ہو اس جان جاناں سے

نہ پوچھو ہو رہے ہیں کیوں خفا ہم اس قدر جاں سے
 کہیں سے مول لادے دل مجھے کچھ اور اے ہدم
 غبار دل کی حاجت ہے غم سالار خوباں میں
 رہ دو چشم موج خون کو کافی نہیں ہوگی
 غم جاناں میں ہم کو ان دنوں رونا ضروری ہے
 ہجوم صدمہ جانکاہ ہر صبح و مسا اب کے
 چھپا آنکھوں سے وہ نور مجسم خاک میں جا کر
 شہید راہ حق حافظ محمد ضامن چشتی
 بچاتے تھے ملائک بال و پر پاؤں تلے جن کے
 پریشاں ہو گیا دل صدمہ اول میں کیا کیجئے
 فراق یار میں کر فکر جاں کچھ اے دل ناداں
 مدد کر صبر کچھ اب کے دل مضطر کے ہاتھوں سے
 کشش نے عشق حق کی ان کو علیین میں کھینچا
 فراق یار میں جینا تعجب ہے ولے ہدم
 نہیں معلوم کیوں ہے اس قدر شوقوں کی بیتابی
 وصال یار ممکن ہی نہیں نادان جیتے جی
 قریب یار ہم کو دفن کرتا روز محشر تک
 کروں ہوں یاد ایام گذشتہ اور نہیں کرتا
 دل بیتاب کے ہاتھوں سے تنگ آیا ہوں ہجر میں
 کرے ہے تنگ شوق یار کیا صورت کروں یارب

سنیں گے پھر بھی وہ آواز ان لبہائے خنداں سے
تھے گا بھی کبھی لوبو کا ٹپکا اپنی مڑگاں سے
بہت سے رو پکے ہم حسرت و افسوس و حرماں سے
تو یارب آشتی ہو جا اجل کی آب حیاں سے
کوئی جا کر کے نک پوچھے ضیاء الدین نالاں سے
کوئی پوچھے سبب رحلت کا اس سالارِ خوباں سے
تو ہم کو بخشوا لیتا تھا کچھ کہہ سن کے رحماں سے
تو تنہا اس طرح جانا بھی نازیا ہے سلطان سے
تو کہلا کر کے بیجوں یوں میں اس سالارِ نیکاں سے
ہمیں یوں چھوڑ کر تنہا تمہیں جانا نہ تھا یاں سے
تمہیں فرصت نہیں داں لذت دیدارِ یزاں سے
نہ تھی پر یہ خبر ہو سکتے آگ بھی تیرے داماں سے
دل حسرت زدہ گھبرائے ہے سیر گلستاں سے
مگر ہاں سر نکالو تم اگر صمغ شہیداں سے
تو اک شعلہ سا اٹھے ہے ہمارے قلب سوزاں سے

نظر آئے گی یارب بھر بھی وہ صورت کبھی ہم کو
ملیں گے پھر بھی یارب ہم یہ آنکھیں ان کے لکڑوں سے
تو اے یاد عنایت ہائے دلبر اب تو لے بس کر
اگر ہو وصل مرکر اور علاجوں سے رہوں زندہ
کسی کا کیا گیا پر رنجِ فرقت کی مصیبت کو
ہوئی ہم سے خطا یا تھی کششِ حُبِ الہی کی
گناہوں کے سبب گر ہم نہیں تھے لائقِ صحبت
اگر ممنوع تھا ہم سے گنہگاروں کا لے چلنا
اگر قاصد مجھے کوئی وہاں تک کا بہم پہنچے
مبارک ہو تمہیں وصلِ خدا غلہ بریں میں پر
غمِ فرقت میں یاں گذرے ہے پر کچھ بن نہیں پڑتی
بنے تھے یوں تو ہم روزِ ازل سے غمِ انسانے کو
تمہارے ہجر میں جانِ جہاں کچھ بن نہیں آتا
دل مایوس کی کوئی نہیں صورتِ تسلی کی
تمہاری بزم پر انوار جب یاد آئے ہے ہم کو

آفتاب علم و عرفان

حضرت مولانا شیخ محمد محدث فاروقی چشتی تھانوی

حضرت مولانا شیخ محمد محدث تھانوی کی شخصیت کیا باعتبار علم و فضل اور کیا باعتبار عرفان و سلوک

ایک ممتاز شخصیت تھی۔ وہ ایک طرف حضرت شاہ محمد اہلق محدث دہلوی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے

دوسری طرف حضرت میاں جی نور محمد چھٹھانویؒ کے خلیفہ مجاز تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ وہ عالم طفولیت میں سید السادات حضرت سید احمد شہیدؒ سے جبکہ وہ دو آجے کے دورہ تبلیغ و ہدایت میں تھانہ بھون تشریف لائے تھے، بیعت کا شرف حاصل کر کے ان کے حلقہ توجہ دہی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ اپنے تبحر علمی اور اپنی تصانیف کے لحاظ سے بھی بلند پایہ مقام رکھتے تھے۔ مجھے ان کے حالات سے بہت معمولی واقفیت تھی۔ پچھلے دنوں بستی کرپور جانا ہوا وہاں عالیجناب حکیم عبدالواحد خاں صاحب مدظلہ اور ان کے برادر کلاں مولانا حکیم محمد الیاس خاں صاحب مدظلہ سے ملاقات ہوئی ان کے پاس حضرت مولانا محدث تھانویؒ کی چند تصانیف، مطبوعہ اور قلمی تھیں ان کے سرسری مطالعہ کا موقع ملا دوسری مرتبہ وہاں جانے پر ان کے پاس حالات محمدیہ مؤلفہ حکیم محمد عمر صاحب جرحہا دوائی دیکھی جو اگرچہ مطبوعہ ہے لیکن کیا بلکہ تقریباً نایاب ہے افسوس کہ یہ سوانح عمری بوسیدہ ہو گئی تھی اس کے درمیان کے بہت سے اوراق بھی موجود نہ تھے پھر بھی اس کتاب نے میری بڑی مدد کی اور میرے اس مقالے کا بڑا ماخذ بھی کتاب ہے۔

۴

حکیم صاحب کے والد بزرگوار حضرت حکیم محمد داد خاں صاحب مرحوم، حضرت قاضی سید محمد اسماعیل منگورویؒ کے راجح الاعتقاد مرید تھے۔ اسی نسبت سے انھوں نے اپنے دادا پیر کی زیادہ سے زیادہ تصنیفات اپنے کتب خانہ میں جمع کی تھیں اور ان کا مطالعہ ذوق و شوق سے کرتے رہتے تھے۔ حضرت محدث تھانویؒ کی کل تصانیف تو یہاں بھی نہیں ہیں مگر جتنی موجود ہیں اتنی بھی کسی ایک کتب خانہ میں مجھے یک جا نہ مل سکیں میں نے مناسب سمجھا کہ اس ذخیرے سے اخذ کر کے حضرت مولانا شیخ محمد محدث تھانویؒ کی ایک مختصر سوانح عمری ناظرین ”تذکرہ“ کی خدمت میں پیش کروں۔

تاریخ پیدائش اور نام و نسب:

مولانا شیخ محمدؒ ۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۲۳۰ھ کو پیر کے دن تھانہ بھون میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا اسم گرامی مولوی حمد اللہ تھا۔ جو کہ علم و فضل میں کامل اور عہدہ تحصیل داری پر فائز تھے۔ آپ کی پانچ برس کی

عمر تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا اور دس برس کی عمر تھی کہ سر سے سایہ پوری بھی اٹھ گیا۔ آپ حضرت عمر فاروق اعظمؓ کی اولاد میں تھے آپ کے اسم مبارک 'شیخ محمد' میں لفظ شیخ آپ کے نام کا جز تھا نسب کا اظہار کرنے کے لیے نہ تھا۔ بالکل اس طرح سے جیسے سید محمد یا خان محمد نام ہوا کرتے ہیں۔ اپنے بڑے صاحبزادے مولانا محمد محمود کے نام پر ابو محمود آپ کی کنیت تھی۔ اپنی مثنوی میں جس کا ذکر آگے آئے گا جگہ جگہ شیخ اور محمد تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔

قسط اس کے دیباچہ میں اپنا نام اور نسب اس طرح ذکر فرمایا ہے:

بعده کہتا ہے احقر عباد اللہ الصمد ابو محمود شیخ محمد ابن مولانا الملوی حمد اللہ العری الفاروقی محمد او
التھانوی میلاد او موطننا و اسحاقی تلمذ او تعلمنا عفی اللہ عنہ و عنہم اجمعین۔ آمین ثم آمین۔
"الہامات الموجود" کے دیباچہ میں اپنا نام یوں لکھا ہے۔

فقیر شیخ محمد بن مولوی حمد اللہ خان عمری فاروقی نساوتھانوی میلاد او وطننا صوفی صافی مشربا چشتی
صابری و نقشبندی مجددی سلسلۃ وسید احدی و یعقوبی و نوری شعبیہ و حنفی مذہبنا و اسحاقی تلمذ او۔

نواب فاروقی خان:

پانچ پشت او پر آپ کے جد امجد شیخ احمد تھے جو نواب فاروقی خان کہلاتے تھے۔ یہ بڑے رئیس اور جاگیردار تھے، تھانہ بھون کو آباد کرنے میں ان کو بھی بڑا دخل ہے انہوں نے بڑے بڑے عالی شان سرخ و سفید پتھر اور لکھوری اینٹ کے مکان بنوائے، باغ لگوائے، باوڑیاں کھدوائیں، مسجدیں بنوائیں، کنویں تعمیر کئے، سڑکیں نکالیں غرض کہ تھانہ بھون ان کے عہد میں ہمیشہ گلزار رہا۔ ۱۸۵۷ء میں انگریز نے مجاہدین سے انتقام لینے میں اس قصبے کی رونق کو برباد کیا۔

نواب فاروقی تک آپ کا شجرہ یہ ہے۔ حضرت مولانا شیخ محمد ابن مولوی حمد اللہ ابن حکیم محمد بخش ابن حکیم محمد ارحم ابن حافظ محمد اعظم ابن قاضی کرم خاں ابن شیخ احمد عرف نواب فاروقی خاں۔
حضرت سید احمد شہیدؒ سے بیعت:

بچپن میں آپ حضرت سید احمد شہیدؒ سے جب کہ وہ مع قافلہ تھانہ بھون تشریف لائے تھے مسجد پیر محمد مرحوم میں بیعت ہوئے اور ایک دوسرے تہان کے حلقہ توجہ دہی میں بھی حاضر ہوئے۔

ابتدائی تعلیم:

گیارہ برس کی عمر تک آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور فارسی پڑھی پھر مولانا عبدالرحیم تھانویؒ سے عربی صرف و نحو پڑھنی شروع کی، مولانا قلندر علی جلال آبادیؒ سے بھی پڑھا۔

انتہائی تعلیم:

پندرہ سال کی عمر میں دہلی پہنچ کر شہیر آفاق حضرت مولانا محمد اہلق محدث دہلویؒ کے حلقہ درس میں تعلیم حاصل کی، انیس سال کی عمر میں جملہ علوم میں دستگاہ کامل حاصل کی چنانچہ آپ کے سر پر دستار فضیلت بندھی اور علم حدیث و تفسیر، فقہ و اصول، عقائد و فرائض، تصوف و اخلاق، کلام، منطق، ریاضی اور حکمت کی سند ملی۔

۴

تھانہ بھون میں قیام:

شروع ۱۲۵۱ھ میں آپ دہلی سے اپنے وطن تھانہ بھون آئے اور یہاں وعظ و پند اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ آپ کا قدیم مکان حوض والی مسجد کے متصل تھا۔ دس گیارہ برس اسی مسجد

۱۔ حالات محمدیہ میں اور خود مولانا کی بعض تعینفات میں کئی جگہ ہے کہ آپ نے سات سال کی عمر میں حضرت سید احمد شہیدؒ سے بیعت کی، چنانچہ آپ رسالہ ”الہامات الوجود“ میں تصریح کے ساتھ یوں تحریر فرماتے ہیں: فقیر یاد وارد کہ عمر ہفت سال باشد (کہ) در مسجد پیر محمد والی واقع وطن فقیر قصبہ تھانہ بھون ضلع سہارنپور (از اضلاع میان دو آب) بشرف بیعت جناب سید صاحب قبلہ مدوح و قدس سرہ شرف شد اگرچہ در ایام ظہلی بود لہذا پرتو بزرگان کافی است۔ لیکن یہ امر مسلم ہے کہ حضرت سید صاحب نے ۱۲۳۳ھ میں دو آبے کا تبلیغی سفر فرمایا ہے اسکے بعد دو آبے تشریف نہیں لائے (دیکھئے سیرت سید احمد شہیدؒ مؤلفہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی) لہذا ایسا تو مولانا کی پیدائش ۱۲۳۳ھ سے تین سال پہلے ماننا پڑے گی ورنہ ان کی عمر اس وقت چار سال ہوگی غیر معمولی حافظے کی بنا پر انہیں سید صاحبؒ کی آمد یاد ہوگی۔ پور بزرگوں نے تبرکاً بیعت بھی کرا دیا ہوگا۔ حلقہ توجہ دہی میں بھی بزرگوں کے ساتھ ترکہ ہو گئی ہوگی۔ (فریدی)

میں نماز ادا کرتے رہے اور طلبا کو درس دیتے رہے کئی گاؤں تھے اس لیے کافی آمدنی تھی۔ آپ کے عزیزوں میں چند آدمی انگریزی علاقے میں اور اکثر ہندوستانی ریاستوں میں اچھے عہدوں پر ملازم تھے۔ دو چار جگہوں سے آپ کو بلاوا بھی آیا مگر آپ تھانہ بھون چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔

سلوک :

پہلے حضرت حافظ محمد ضامن فاروقی چشتی شہیدؒ سے جو رشتے کے ماموں ہوتے تھے روحانی فیض حاصل کیا بعدہ براہ راست حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانویؒ سے بیعت ہوئے جبکہ وہ حوض والی مسجد تھانہ بھون میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ بالآخر ان سے خلافت و اجازت حاصل کی۔ ۱۲۵۹ھ میں حضرت میاں جی کا عمر ۵۹ سال وصال ہو گیا اور ان کی جدائی کا آپ کو اور تمام خلفا کو سخت صدمہ ہوا۔

حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ سے آپ کا ارتباط :

۱۲۶۰ھ میں حضرت حاجی صاحبؒ پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف گئے تو آپ نے ان کے فراق میں چند اشعار کہے یہ اشعار آپ کی مثنوی میں موجود ہیں فرماتے ہیں۔

اے غذائے روح امداد لہ	آہ قدرے تو کسے شناخت آہ
حیف راہی حرم تنہا شدی	ناگہاں چوں جاں جدا از ماشدی
انچہ وصف تو مرا در باطن است	راز دارد گوش حافظ ضامن است
گو من و تو ہر دو اے ہم پیر من	خولجہ تا شانیم و ہم بزم سخن
لیک باشم چاکر تو مگر بجاں	موجب فخر است پیداؤ نہاں

زیارت حرمین کا شوق اور نواب وزیر الدولہ کی طلبی :

۱۲۶۲ھ میں آپ کے دل میں زیارت حرمین کا شوق غالب ہوا۔ نو تک میں نواب وزیر الدولہ مرحوم کو احادیث تہذیب اخلاق کی تالیف و تدوین کا شوق پیدا ہوا اور اس سلسلہ میں ایک کامل محدث کی

ضرورت محسوس ہوئی، غلام ریاست سے مشورہ بھی کیا چونکہ اس وقت سلسلہ عزیزیہ میں مولانا محدث تھا نوٹی ایک بلند پایہ محدث مانے جاتے تھے اس لئے نواب صاحب نے بھد تمنا آپ کو طلب کیا۔ آپ اس خیال سے کہ حج کا ارادہ ہے ہی راستہ میں یہ ریاست بھی پڑتی ہے۔ ۱۷ جمادی الثانی ۱۳۶۲ھ کو روانہ ہو کر ٹونک پہنچے اور بعد ملاقات نواب صاحب آپ تالیف کتاب میں مشغول ہو گئے۔

نواب صاحب کی آپ سے عقیدت:

نواب صاحب مرحوم حضرت سید احمد شہیدؒ سے بیعت تھے اور حضرت مولانا کو بھی حضرت سید صاحبؒ سے یک گوئہ نسبت باطنی حاصل تھی اس لئے نواب صاحب نے آپ کا بڑا اکرام کیا اور آپ کے حلقے میں بیٹھنے لگے۔

ٹونک کا نظام الاوقات:

صبح کے وقت مسودہ کتاب قلمبند فرماتے، سہ پہر کو تعلیم طلبا میں مشغول ہوتے، شام کے وقت نقشبندی طریقے پر حلقہ کرتے۔ جمعہ کے دن تالیف و تدریس کی تعطیل ہوتی کبھی کبھی بعد نماز جمعہ وعظ فرماتے تھے۔

لحٰن داؤدی:

اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو ظاہری و معنوی خوبیوں کے ساتھ نوازا تھا اور خوشنما و دیدہ زیب حسین شکل و صورت عطا فرمائی تھی وہاں خوش الحانی سے بھی حصہ وافر عطا فرمایا تھا حکیم محمد عمر چر تھا ولی مرحومؒ قیام ٹونک کے حالات لکھتے ہوئے حالات محمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”عشاء یا صبح کی نماز میں بحالت خشوع و خضوع کوئی سورہ یارکوع پڑھنا شروع فرماتے (تو) مقتدیان رقیق القلب ہی کونہ رلاتے (بلکہ) مصلیان سنگ دل کو بھی وجد میں لاتے۔ راستے بند ہو جاتے آتے جاتے سکتے میں آتے۔ طالب علمی کے زمانے میں دنی میں بھی آپ کے

حسن گلگو کی شہرت تھی۔ حفاظ و قزاق آپ کی قراءت کے گرویدہ تھے۔

عادات و خصائل:

حکیم محمد عمر صاحب چہ تھا ولی مرحوم اس سلسلہ میں رقم طراز ہیں۔ ”آپ ہمیشہ پاک و صاف نفیس و شفاف کپڑے پہنا کرتے تھے، لطیف و قلیل کھانا کھاتے، دوسرے تیسرے روز جاڑوں میں، اور گرمیوں میں اکثر روزانہ نہاتے باوجود موجود ہونے عظمت ہر قسم کی، کبھی خود ستائی کی گفتگو نہ کرتے اور کسی حالت میں کسی فرد بشر کی جرم بینی اور نکتہ چینی کی جستجو نہ کرتے کبھی کسی کو برانہ کہتے، کسی وقت بے وضو نہ رہتے آٹھ پہر میں کل چار گھنٹے آرام فرماتے ہر امر میں اتباع سنت اسلام فرماتے۔ بعضا سائل بڑا کندہ ناتراش ہوتا کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کے دریافت کرنے کے واسطے دو دو گھنٹے سمع خراش ہوتا مگر آپ جواب میں ذرا بھی سختی کو کام میں نہ لاتے نہایت نرمی سے مکرر کہہ کر سمجھاتے ہر طرح اطمینان فرماتے کبھی کسی سے ترش رویا خانہ ہوتے دوست ہوتا یا دشمن، ختم کدورت سینہ صفا گنجینہ میں نہ بوتے۔ بلا ضرورت شرعی کہیں نہ جاتے ہر وقت اپنے قیام کی جگہ بیٹھا رہنا پسند فرماتے اور مسکن و مجلس، روش ارباب داؤد و ہش رات دن کھلا رہتا، سفر میں باوصف موجود ہونے سواری کے کوسوں پیدل چلتے، صورت آپ کی بہت حسین تھی، حافظہ آپ کا بہت اچھا تھا جو کتاب ایک مرتبہ دیکھ لی آخر تک از بر تھی، تفسیریں سب یاد تھیں اصول فقہ تمام منضبط، صحاح ستہ بر زبان تھا۔“

سفر حج:

نواب صاحب کی منشا کے مطابق تھوڑے سے دنوں میں بہت سی حدیثیں جمع ہو گئیں اور ضروری ضروری باتیں سب مجتمع ہو گئیں تو بعد ان فراغ ترتیب کتاب، خشکی کا راستہ کچھ نیل گاڑی پر اور کچھ پیادہ طے کر کے بادی جہاز پر سوار ہوئے اور مع الخیر مکہ معظمہ پہنچ کر ۱۲۶۳ھ میں شرف حج مبرور سے مشرف ہوئے۔

علماء حرم مکہ سے ملاقات:

وہاں کے علماء خصوصاً حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب محدث دہلویؒ مہاجر کی برادر خورد حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلویؒ و مہاجر (متوفی ۱۲۶۲ھ) سے ملاقات ہوئی۔ شاہ صاحب نے بعد ملاحظہ احوال سند جمیع علوم اور خرقہ خلافت عطا فرمایا اور یہ فرمایا کہ ”اللہ اکبر آپ کی نسبت میں تو انتہائی وسعت ہے۔“

الہامات محمدیہ:

آپ کو مسئلہ وحدت وجود و شہود میں عرصے سے تردد تھا تسکین نہ ہوتی تھی لہذا مقام ابراہیم میں صبح و شام مابین باب السلام و زمزم بیٹھنا اختیار کیا اللہ کے فضل و کرم سے انیس بیس روز ہی میں اس مسئلے میں ایک رسالہ منسٹی بہ ”الہامات الوجود“ تصنیف کیا اور بفضل خداوند عز و جل اس مسئلہ لائیکل کو بخوبی حل فرمایا۔ یہ کتاب بہ تصحیح و مقابلہ مولانا فضل الرحمن دیوبندیؒ و کتابت محمد محبت اللہ بجنوری مطبع نیمروز بجنور میں طبع ہو چکی ہے۔ اسی کتاب کے بارے میں اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں

گو ہر فرد فریدی سفتہ ام ☆ انچہ در تقریر وحدت گفتہ ام

مدینہ منورہ:

بعد فراغت حج، زیارت روضہ رسول اللہ ﷺ کے لئے مدینہ منورہ حاضر ہوئے آپ کی مثنوی میں آنحضرت ﷺ کی شان اقدس میں بہت سے نعتیہ اشعار موجود ہیں جو غالباً وہیں پر کہے گئے ہیں۔

واپسی:

۱۲۶۳ھ میں امام ابوالحسن شاذلیؒ یحییٰ کے مزار پر فاتحہ پڑھتے ہوئے، حدیدہ، معدن کی راہ

سے بسبھی پہنچے۔

اس کتاب کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں: الحمد للہ اولاً و آخراً کہ از تحریر تمیض ایں رسالہ بروز دوشنبہ وقت یکپاس روز برآمدہ تاریخ ششم ذی الحجہ ۱۲۶۳ھ در بلدہ مکہ معظمہ از دست خود فارغ شدم۔ (فریدی)

مناظرہ محمدیہ کی تصنیف:

بہمنی پہنچے تو معلوم ہوا کہ مولانا عبدالحق خیر آبادی مرحوم نے اپنے والد کے مشورے سے ایک کتاب امام فخر الدین رازی کے بعض اقوال کی تردید میں لکھ کر شائع کرادی ہے اور علمائے ہند نے اس کو پسند کر کے اس پر دستخط بھی کر دئے ہیں حتیٰ کہ مفتی صدر الدین دہلوی نے بھی اس پر مہر تصدیق لگا دی ہے۔ آپ کو یہ کتاب دیکھ کر بہت ملال ہوا، اور اس کا جواب لکھے بغیر وطن کی طرف جانا آپ نے مناسب نہ سمجھا اسی رنج و تعب میں تھے کہ عالم مراقبہ میں حضرت امام رازی سے ملاقات ہوئی اس کے بعد عازم وطن ہوئے اور راستہ ہی میں قلم برداشتہ جواب لکھا، مناظرہ محمدیہ اس کا نام رکھا۔ دہلی پہنچ کر مفتی صاحب کی خدمت میں اس جواب کو پیش کیا وہ اس کے خطبہ کو پڑھ کر ہی دنگ رہ گئے اور مضمون مناظرہ دیکھ کر معانقہ کیا اور اسی وقت اس رسالہ پر تقریظ لکھ کر اپنی مہر ثبت فرمادی۔ حسب بیان حکیم محمد عمر چر تھاولی مرحوم، حضرت قاسم المعارف مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ”یہ رسالہ اگر کتب درسیہ علم حکمت میں داخل ہو تو قاضی مبارک کے بعد صدرہ کے تحت میں ذہین آدمی سمجھ سکتا ہے۔“

یہ رسالہ بھی طبع ہو گیا تھا میں نے اسکی قلمی نقل کر تپور میں دیکھی ہے۔

واپسی بیت اللہ کے بعد:

حج سے واپس ہونے کے بعد آپ نے شبانہ روز پیر محمد والی مسجد میں رہنا اختیار کیا وہاں ہزاروں آدمی مرید ہوئے اور سیکڑوں طالب علموں نے پڑھا۔

مسجد پیر محمد مرحوم کا منظر:

تھانہ بھون کی یہ وہ تاریخی مسجد ہے جس کو مشائخ وقت ”دوکانِ معرفت“ کہا کرتے تھے حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی قدس سرہ کے تین باکمال خلفاء بیک وقت اس مسجد کے حجروں میں جمع تھے، جہاں دن رات علم و عرفان اور ذکر و فکر کی مٹھلیں گرم رہتی تھیں۔ حکیم محمد عمر چر تھاولی نے اپنے الفاظ میں:

اس مسجد کی مرکزیت کا جو نقشہ کھینچا ہے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا اقتباس اس موقع پر پیش کر دوں وہ تحریر فرماتے ہیں۔

”سبحان اللہ و بحمد اللہ وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ یہ مسجد عبادتگاہ قدسی نفساں تھی، ہمایہ نجوم یہاں کے نمازی تھے ہم مرتبہ فلک یہاں کی زمین تھی، ایک طرف شمال کے حجرے میں مثال قطب شمالی، عاشق ذوالجلال شہید الم یزلی ولی ازلی حافظ ضامن علیؑ یاد الہی میں مشغول رہتے ایک جانب، جنوب کی سدری میں حضرت فیض درجت سلطان زمین ولایت و کرامت، ماہ آسمان رفعت و عظمت، درویش صاحب برکت حاجی امداد اللہ سلمہ اللہ سرگرم قال اللہ وقال الرسول رہتے اور مسجد کے سامنے کوگرتے پڑتو نئے تھانے کو مشرق کے حجرے میں ہمارے مرشد مشفق قدس سرہ الخالق۔۔۔۔۔۔ کبھی درس و تدریس طلبہ میں۔۔۔۔۔۔ کبھی مشاہدات ذات و سلطان الاذکار میں مستغرق۔۔۔۔۔۔ ہر ڈھنگ میں زیر قدم نبی مقبول، باطن میں سب سے الگ ظاہر میں شمول رہتے تینوں صاحب، علاوہ اتحاد نسب ایک پیر کے مرید وہ ماہ تو وہ بدر وہ بدروہ خورشید، جب کوئی شخص مرید ہونے کے واسطے اس قافلے میں آتا ہفتوں بلکہ مہینوں باریعت نہ پاتا جیسے پاس جاتا وہ اپنے سے بہتر دوسرے کو بتلاتا۔ دن رات پانچ سات طالب علم بحث مابعد و ماسبق میں مصروف، روز و شب دس بیس مرید پُر ادب ہو حق میں مصروف کوئی ذکر کلمہ طیب سے مطیب کوئی تلاوت کلام زبیا سے مزیب، کسی کا دل پر اضطراب، صورت سیما گرمی شغل ہو سے، جواب برق مضطر، کسی کا سینہ فگار، کناں وار، ضربات اسم ذات حق سے نمونہ شوق القمر۔۔۔۔۔۔ کوئی آٹھوں پہر بارہ تسبیح کے ذکر میں کوئی نفی و اثبات۔۔۔۔۔۔ پر نظر جمائے ہوئے کوئی ذکر خفی کے ذریعہ۔۔۔۔۔۔ دھیان لگائے ہوئے۔ کوئی مجرد الا اللہ کی ضربیں لگاتا اسم ذات پڑھتا۔۔۔۔۔۔ کوئی درود نام محدود پڑھنے میں دل و جاں سے متوجہ، کوئی ادائے نوافل و وظائف میں اطمینان سے متوجہ۔۔۔۔۔۔ کوئی قرآن خوانی کرتا کوئی۔۔۔۔۔۔ مراقبات میں جاں فشانی کرتا، کوئی تفسیر پڑھتا، حدیث سند کرتا کوئی فقہ و اصول میں جدوجہد کرتا کوئی منازل و مقامات درویشی کی تحقیق میں، کوئی مراحل و مراتب

تصوف کی تصدیق میں۔ طرہ برآں کسی طرف تسبیح خواں کبوتران یا ہو کسی طرف کچھ قمریاں مشغول حق سرہ اور جب کبھی دو چار دل فکار مریدان رشید حضرات ممدوح الاذکار میں سے مثل مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی یا میاں ج. کمال الدین چرتھا ولی غفر ہما اللہ الولی، خواہ حکیم ضیاء الدین صاحب راجپوری یا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی سلمہما اللہ الخی آتے جاتے کچھ اور ہی رنگ جاتے۔۔۔۔۔ جہاں گل وہاں خار، جہاں نیک وہاں نکو ہیدہ کار جس جگہ یہ سب حضرات وہاں ہم سا بھی وہاں کم محنت، غفلت شعار محض مشتاق دیدار اپنے مرشد کا چہرہ دیکھنے کے مارے سب سے کنارے نکلتی لگائے ہوئے ذکر سے مطلب نہ فکر سے واسطہ دید کی عید میں سدہ بدہ گنوائے ہوئے۔ ہر شب میں وقت سحر ذکر جبر کا وہ شور بڑھتا کہ دن چڑھے اٹھنے والا بھی نہایت ذوق و شوق سے اول وقت اٹھ کر صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا۔۔۔ کبھی نسبت حضرات چشت اہل بہشت کا ایراد سعد ہوتا، بلند خندہ گل نالہ بلبل، گریہ ابرو نعرہ رعد ہوتا۔۔۔۔۔ گاہے نسبت خاصان بارگاہ خداوند حضرات نقش بند کا ورد مسعود ہوتا، تسکین کے نقشے جتنے، مفتوح باب تجلیات ہوتا۔۔۔۔۔ کبھی ظہور نسبت سلسلہ حضرات سرورد ہوتا پیدا سوز و ساز و قلق و گداز و درد ہوتا، ساقی کی نشلی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہی سب کے سب بے ہوش ہوتے، بے دلوں کے نشے ہرن اہل دل سرور محبت الہی میں خود فراموش ہوتے، گاہے خاندان شاہنشاہ اولیا صاحب مجد و علی، غوث الثقلین و سیلتانی الدارین حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی نسبت کا نزول ہوتا مرادیں برآتیں مقصد آخر حصول ہوتا۔۔۔۔۔ اور جب کبھی حضرت کے جی میں آجاتا اور مثنوی مولانا روم یا دفتر ہفتم مصنفہ اپنا پڑھنا شروع فرماتے مبتدی ہوتا خواہ شہمی ہر قطرے کو دریا بناتے درو دیوار کو رلاتے۔ ایک طرف گوشہ جنوب و مشرق احاطہ مسجد میں مولوی محمد علی کی قبر مثل پارہ ابر شجر اخضر کے پایہ میں۔۔۔۔۔ جس طالب علم نے یہاں بیٹھ کر مطالعہ کتاب میں جی لگایا۔۔۔۔۔ مطالب و مضامین ذہن نشین ہوئے۔۔۔۔۔ یہ بزرگ کہ مولانا صاحب کے دادا کے بھائی ہیں مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ہم عصر تھے عالم و فاضل، درویش کامل صاحب نظم و نثر تھے "اصطلاحات الفنون" مؤلفہ آنحضرت کی بہت بڑی کتاب ہے فی زمانہ نہایت کارآمد احباب

ہے ایک مرتبہ طبع بھی ہوئی اب نایاب ہے، بیچ میں مسجد کے ایک چھوٹی کوئی (کنوئیاں) بڑے موقع سے بنی ہوئی پانی وہ خشک اور شیریں گویا بہشت کی نہر کا سوتا ہے جو بیدار بخت یہاں سے پانی بھرتا ہے بہشتی ہوتا ہے، مسجد کی صورت و شان قطع نظر، خوبی عمارت، و اسلوبی بنیان، قابل تامل عارفان، برحق نہ مینار صرف بیچ میں ایک گنبد صورت سر انسان۔ خیال کر کے دیکھو تو ایک آدمی بیٹھا ہوا معلوم ہوتا ہے اور غور کر کے صاف مفہوم ہوتا ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کو نماز پڑھا کر دعا مانگ رہا ہے اور یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ اسی مسجد تبرک میں پہلے ان حضرات ممدوح سے ایک مدت تک حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی قدس سرہ رہے اور حسب پیش گوئی 'مولوی معنوی' اشعار باقی ماندہ دفتر ششم کہے

المختصر لغایت ۱۲۷۲ھ قائم یہ جلسہ سعید رہا ہر رات شب برات، ہر روز روز عید رہا۔

از واج و اولاد:

سب سے پہلے قاضی محبوب علی خاں کی بھانجی سے آپ کی نسبت قرار پائی تھی اتفاق سے وہ مخطوبہ خاتون چچک کے مرض میں مبتلا ہو کر نابینا ہو گئیں لہذا ۱۲۵۳ھ میں پہلا نکاح ایک ایسی خاتون سے ہوا جو آپ سے خود نکاح کرنا چاہتی تھیں یہ غالباً دہلی کی رہنے والی تھیں۔ حکیم محمد عمر چر تھانوی نے لکھا ہے کہ مولوی سید احمد جدے والے کی سفارش سے مولانا ان کو اپنے نکاح میں لائے ان سے کوئی اولاد نہ تھی ۱۲۷۲ھ میں مولوی محمد زماں کی بیوہ لڑکی سے نکاح ہوا جو ۱۲۷۷ھ تک حیات رہیں۔ مولانا محمد محمود صاحب اور ایک صاحبزادی ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ۱۲۷۷ھ میں جبکہ والدہ مولانا محمد محمود کا انتقال ہو گیا تو ۱۸۵۷ء کی معروف شخصیت قاضی عنایت علی خاں تھانوی کی حقیقی ہمشرہ سے جو بیوہ تھیں آپ کا نکاح ہوا اور ان محترمہ کی سفارش سے حضرت نے اپنی ابتدائی مخطوبہ سے بھی جو بیچاری نابینا تھیں نکاح کیا۔ تھانہ بھون کے عمائد میں بیواؤں کے نکاح کا دستور نہیں تھا حضرت مولانا ہی کے ذریعے اس جگہ یہ سنت جاری ہوئی۔ ایک صاحبزادی اور میاں محمد عمر، قاضی عنایت علی خاں کی بہن سے تھے اور حافظ محمد صدیق جو میاں محمد عمر سے ستائیس روز بڑے تھے بی بی نابینا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ۱۲۸۷ھ میں

جب والدہ میاں محمد عمر انتقال کر گئیں تو میرٹھہ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا وہ تھوڑے دنوں زندہ رہ کر انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد آپ نے اور بھی ایک نکاح بضرورت انتظام خانہ داری کسی بیوہ سے کیا تھا جب اس میں انتظام کا سلیقہ نہ دیکھا تو مجبوراً طلاق دے کر بعد اداے زرمہر مقررہ علیحدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک حرم بھی آپ کے نکاح میں کبھی رہی تھیں۔

معرکہ ۱۸۵۷ء کے بعد:

معرکہ شمالی ۱۸۵۷ء میں اگرچہ آپ نے شرکت نہیں فرمائی تھی اور اس عظیم معرکہ جہاد میں آپ کی عدم شرکت ایک کھلی ہوئی حقیقت تھی اس کے باوجود انگریزوں نے قابو یافتہ ہو کر آپ کو بھی بہت پریشان کیا اسکی تفصیل آگے آرہی ہے۔ مسجد پیر محمد کے اقطاب ثلاثہ میں سے (جو ایک روح اور تہن قالب کی حیثیت رکھتے تھے) دو بزرگ ممتاز حیثیت سے معرکہ جہاد میں شریک ہوئے تھے حضرت مولانا نے یقیناً نیک نیتی کے ساتھ اختلاف رائے کیا اور اس اختلاف رائے میں مجاہدین سے کسی قسم کی مخالفت و عناد کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ تھا انگریزوں کی حمایت بھی ہرگز مقصود نہ تھی، مجاہدین کو بھی آپ کی عدم شرکت سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ تقدیر الہی کا ظہور اسی طرح ہونا تھا سو ہوا، ۱۸۵۷ء کے بعد خانقاہ تھانہ بھون کا نظام درہم برہم ہو گیا، حافظ محمد ضامن شہید ہو گئے، حضرت حاجی صاحب مکہ معظمہ کو ہجرت کر گئے اور آپ بھی آخر وقت تک اس خانقاہ میں پھر چین و آرام سے نہ بیٹھ سکے۔

قیام میرٹھہ:

۱۲۷۳ھ سے ۱۲۷۷ھ تک آپ کا قیام اکثر میرٹھہ میں رہا اور یہاں کثیر تعداد میں لوگ شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ خیرنگر کی مسجد خیر المساجد آپ کا مستقر تھی اور وہیں درس و ذکر کے حلقے ہوتے تھے۔

قیام ٹونک:

۱۲۷۸ھ میں حسب طلب نواب محمد علی خاں ابن نواب وزیر الدولہ مرحوم آپ ٹونک تشریف

لے گئے وہاں نواب محمد علی خاں صاحب نے آپ سے حدیث پڑھی ۱۲۸۰ھ تک آپ وہاں رہے۔
۱۸۵۰ء کے بعد مقدمہ جانداد:

۱۲۸۰ھ میں گورنمنٹ برطانیہ نے آپ کو اشتہار نیلام بحال بغاوت تھانہ بھون، نواب ٹونک کی معرفت بھیجا۔ مولانا کی جانداد بھی نیلام کی زد میں آگئی تھی۔ نواب محمد علی خاں مرحوم نے اس موقع پر خدمت استاذ کو ضروری سمجھتے ہوئے پینتیس ہزار روپے نقد آپ کو دیئے اور فرمایا کہ آپ وطن تشریف لے جا کر اپنی جانداد کو اس روپے سے نیلام میں خرید لیجیے، چنانچہ مولانا تاریخ معین پر مظفر نگر پہنچ گئے اور اپنی جانداد کا نیلام انیس ہزار روپے میں خرید لیا زر چہارم بھی داخل خزانہ کر کے رسید لے لی تھی مگر جملہ کاروائی ہو جانے کے بعد اگلے روز مظفر نگر کے کلکٹر نے بالکل قانون کے خلاف وہ جانداد تھوڑے سے اضافے سے بلد یوسہائے بیوہری کو دیدی جب ایسا ہوا تو آپ نے استغنائے مزاج کی بنا پر وہ تمام روپیہ ریاست ٹونک کے خزانے کو واپس فرما دیا اور بیوہری سے مقدمہ لڑایا۔ ایک مدت کے بعد جب مقدمہ جیت گئے تو اس وقت نواب محمد علی خاں کو انگریزوں نے ریاست ٹونک سے معزول کر کے بنارس بھیج دیا تھا، ان کا مال و اسباب متعلقہ ریاست بھی ضبط کر لیا گیا تھا۔ حضرت مولانا کو اپنی جانداد کا اتنا فکر نہ تھا جتنا نواب صاحب کے معزول ہونے کا رنج ہوا۔ فرماتے تھے کہ دیکھئے نواب صاحب کی بحالی کا وقت ہماری زندگی میں آئیگا یا نہیں؟۔ مقدمہ جیتنے کے بعد حضرت مولانا کو فقط ضابطہ کے دستخط کرنے پڑے باقی کام خدام نے بالا ہی بالا انجام دے کر تمام زر نیلام میعاد کے اندر داخل کر کے حسب ضابطہ دخل لے لیا، اس مرتبہ روپیہ میرٹھ کے ایک مہاجن سے لے لیا گیا تھا حضرت مولانا کو جب معلوم ہوا تو سخت ناگوار ہوا اور فرمایا کہ دیکھئے کب تک اس سود کے چکر سے نجات ہوتی ہے۔

بنارس میں نواب محمد علی خاں سے ملاقات:

اسی زمانے میں نواب محمد علی خاں معزول والی ٹونک سے ملاقات کرنے کیلئے بنارس تشریف لے گئے اور کئی روز تک وہاں رہے۔ وقت رخصت نواب صاحب نے پچیس ہزار روپے کا جزاؤ زیور

بیگمات سے منگا کر استاذ کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا کہ اس کو قبول فرما لیجئے آپ نے فرمایا کہ فقیر تو صرف آپ کی ملاقات کو آیا تھا۔ آپ نے حسن اخلاق یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ گو میں قرضدار ہوں مگر یہ بات کسی طرح گوارہ نہیں کہ بیگمات ہا زبیر نے کرائے قرض کا اہتمام کروں، ہاں اگر آپ کے پاس روپیہ ہوتا تو کچھ انکار نہ ہوتا۔ جتنا نواب صاحب نے اصرار کیا، آپ کا انکار قائم رہا۔ آخر میں نواب صاحب نے قسم کھا کر کہا کہ یہ زیور بہ نیت تجارت عظمیٰ اتر چکا ہے اب جسم بیگمات پر واپس نہ جائے گا اگر آپ قبول فرمائیں تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ یہ ججاج اور ارباب احتیاج کے صرف میں آئے گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ”جزاك الله في الدارين“۔ جو کچھ آپ کی رائے ہو بہتر ہے مگر فقیر کو اس کے لینے میں بہر حال شرم محسوس ہوتی ہے اس کے بعد حضرت مولانا اپنے وطن کو واپس ہو گئے۔ اور نواب صاحب نے اپنے قول کے مطابق وہ سب کا سب زیور دیگر مستحقوں کو دیدیا۔

نواب چھتاری سے قرض:

بیوہری کے مقابلہ میں کامیابی ہو گئی تھی اور سالہائے گزشتہ کی آمدنی کی ڈگری مع زر سود پالی تھی لیکن حضرت مولانا نے از روئے تقویٰ سیکڑوں روپیہ سود کا واپس فرما دیا ادخال نیلام کے وقت بیس ہزار روپیہ میرٹھ کے ایک مہاجن سے قرض لیا گیا تھا۔ چند سال میں وہ روپیہ چھبیس، ستائیس ہزار ہو گیا، اس افزونی کو دیکھ کر خدا کو بڑی تشویش ہوئی۔ بعض حضرات نے زرد کور کو چندہ کر کے ادا کرنے لئے ایک فہرست بنائی۔ حضرت مولانا کو معلوم ہوا تو پسند نہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ بھی ایک قسم کی دیروزہ گری ہے، کچھ دنوں صبر کرو اللہ کا فضل چاہئے جب وقت آئے گا تو جس نے جائداد دی ہے وہی خود اس تردد سے بھی سبکدوش فرمائے گا۔ آخر کار ۱۲۸۸ھ میں منشی محراب علی میرٹھی کی معرفت کل روپیہ بطریق قرض حسنہ نواب محمود علی خاں رئیس چھتاری سے لیا گیا۔ سولہ ہزار روپیہ لیکر تو اسی وقت مہاجن کو ادا کر دیا گیا مہاجن کی نسبت آئندہ کے لئے اقرار ہو گیا کہ جائداد کو راضیا نواب صاحب کے یہاں رہن بھری کر دی گئی اور نواب صاحب کے کارندے ”تھانہ بھون“ پہنچ کر تفصیل وصول کرنے لگے۔

نواب صاحب بڑے دیندار اور عالی ہمت تھے باوجودیکہ حضرت مولانا سے کسی قسم کا تعارف یا تعلق نہ تھا اور نہ دستاویز کی تحریر کے وقت ہی ملاقات ہوئی تھی محض مولانا کے علم و فضل کے پیش نظر خالصاً لوجہ اللہ یہ معاملہ کیا تھا۔

کارندوں کی کارستانیاں:

مگر نواب صاحب کے کارندوں نے یہ کیا کہ سال تمام کی آمدنی میں سے، بعد منہائی مصارف کبھی جی میں آیا تو تھوڑی بہت رقم رہن بھری کی فرد میں درج کر دی ورنہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی دوسرا ان پر نگران تھا ہی نہیں۔ علاوہ ازیں انھوں نے مولانا کے ملازموں پر الزام تراش کر ایسی صورت پیدا کر دی کہ مولانا میں اور نواب صاحب میں ملاقات نہ ہو سکے اور طرفین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ کارندوں کی تحریروں کی وجہ سے نواب صاحب کے دل میں ملال پیدا ہو گیا۔ اور ماہی روپیہ دینا تو درکنار جو دیا تھا اس کے واپس لینے کا خیال ہو گیا۔ کارندے اس موقع کے منتظر ہی تھے وہ مقدمہ بازی میں بھی طاق تھے۔ جھٹ مولانا پر واپسی رہن کا دعویٰ کر دیا گیا۔ حضرت مولانا نے ان کے دعوے کو مان لیا اور نواب صاحب کی ڈگری ہو گئی۔ کارندوں نے ڈگری جاری کرا کے جائداد مکفول نیلام پر چڑھوادی برسوں قصبے جھگڑے رہے کبھی نواب صاحب کے کارندوں کی درخواست کے موافق تاریخ نیلام مقرر ہو گئی اور کبھی خدام حضرت مولانا کی کوشش سے التوا کی نوبت آئی۔ کبھی جائداد نیلام ہو گئی اور کبھی خدام نے ہائی کورٹ سے اس کو منسوخ کرادیا۔ حضرت مولانا اپنے خدام سے فرماتے تھے۔ ”کہاں کا قصہ ہے دور بھی کرو نیلام ہو جانے دو مگر نواب صاحب ہی خریدیں“۔ مالیت جائداد کا تخمینہ عدالت ماتحت سے ایک لاکھ روپیہ ہوا تھا اور مع زر قرضہ ماہی مہاجن، تیس تیس ہزار روپیہ دینا تھا۔ بالآخر یہ قیمتی جائداد ۱۲۹۳ھ میں تین چوتھائی سے زیادہ نواب صاحب نے بذریعہ نیلام خود ہی خرید لی اور کچھ کم چوتھائی جائداد مع مکانات سکنائی مولانا کے پاس چھوڑ دی۔ کل جائداد پر قبضہ کارندوں کا تھا ہی اب منشاء دلی بھی ان کا پورا ہو گیا۔ حاسدوں کی بن آئی کوئی کہتا کہ مکانات جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی صبح وشام میں نیلام ہو جائینگے کوئی

کہتا کہ نواب صاحب مولانا کے نام بقیہ زر ڈگری کی بابت وارنٹ گرفتاری جاری کرائیں گے۔ مگر آپ کو کوئی فکر نہ تھا۔ کارندوں کی ابتدائی کارروائی سے انتہائے نیلام تک احباب نے ہر چند عرض کیا کہ نواب صاحب سے جا کر براہ راست ملاقات کر لیجئے مگر ملاقات تو کیا آپ نے اس سلسلہ میں ایک خط تک بھی چھتاری کو نہ لکھا اور نہایت استغنا سے فرمایا: ”مجھے خوشامد نہیں آتی۔“

حیدرآباد سے طللی:

اسی زمانے میں کئی بار حیدرآباد دکن سے آپ کی طللی کے خطوط آئے وہاں کے عمائد نے آپ کو بھد آرزو بلایا اور بعض احباب نے بھی لکھا کہ آپ کچھ عرصے کیلئے یہاں تشریف لے آئیں گے تو فکر قرضہ سے سبکدوش ہو جائیں گے مگر آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے اور یہ فرمایا کہ وہاں کے بہت سے علماء حضرت شاہ محمد اسعد شہید قدس سرہ کے مخالف ہیں مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔

نواب صاحب چھتاری کی طللی:

آخر ۱۲۹۳ھ میں جبکہ نیلام کے تمام قصبے ختم ہو گئے اور کارندے اپنی سی کر چکے تو خود بخود نواب صاحب کے قلب میں دریائے حق پرستی و سخاوت موجزن ہوا اور دل میں یہ بات آئی کہ مولانا نے اس مقدمہ میں ہماری وجہ سے بہت کچھ تکلیف اٹھائی ہے جس طرح ہو سکے ان سے صفائی کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ منشی محراب علی میرٹھی کو لکھا کہ ہمارے کئی عریضے حضرت کی خدمت میں گئے مگر جواب ملاقات سے انکار کی صورت میں آیا۔ نواب صاحب نے اس قسم کے کئی خط منشی صاحب کو لکھے اور ہر مرتبہ منشی صاحب نے حضرت مولانا کو نواب صاحب کے مضمون خط سے مطلع کیا مگر آپ چھتاری کا نام تک نہ لیتے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت مولانا میرٹھ تشریف لائے تو منشی صاحب بھدنت و سماجت اپنے ہمراہ چھتاری لے گئے۔

چھتاری تشریف لیجانا:

چھتاری پہنچ کر آپ ایک مکان میں فروکش ہوئے نواب صاحب نے جب تشریف آوری کی

خبر سنی بہت خوش ہوئے جمعہ کا دن تھا جامع مسجد میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت مولانا نواب صاحب سے استغنا کے ساتھ ملے بعد نماز لوگوں کے اصرار سے حضرت نے وعظ فرمایا۔ نواب صاحب بھی مجلس وعظ میں موجود تھے شروع سے آخر تک وعظ سنتے رہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر حضرت مولانا نواب اپنی جائے قیام پر تشریف لائے تو نواب صاحب وہاں ملنے کے واسطے آئے اور عرض کیا کہ میں تفصیلی ملاقات چاہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ تا قیام اپنے یہاں ٹھہرنے کی درخواست پیش کی اور اپنے صاحبزادے نواب محمد عبدالعلی خان کو حکم دے گئے کہ وہ خدمت بابرکت میں برابر حاضر رہے۔ حضرت مولانا نے نواب صاحب کی دین داری کو دیکھ کر اس درخواست کو منظور فرمایا دوسرے دن علی الصباح نواب صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے اور حسب درخواست نواب صاحب وعظ بھی دوسری مرتبہ فرمایا جلسہ وعظ میں عجیب کیفیت تھی حاضرین رورہے تھے۔

تختلیے میں نواب صاحب سے گفتگو:

اس کے دوسرے دن نواب صاحب نے اپنے اوراد و وظائف کے کمرہ میں بغرض تحلیہ حضرت مولانا کو مدعو کیا۔ سنگ مرمر کی چوکی کے سرہانے جس پر خود نواب صاحب بیٹھتے تھے حضرت مولانا کو بٹھایا اور دوسری جانب خود بیٹھ گئے اور دیر تک مقدمہ جانداد کے بارے میں عذر و معذرت کرتے رہے اور اپنے قصور کی معافی چاہی اور فرمایا کہ جو کچھ بے اعتنائی ہماری طرف سے ہوئی ہے اسکو اللہ کے واسطے معاف فرما دیجئے اور اس وقت مجھ کو وہ آیتیں سنائیے جو قرآن مجید میں قرض حسن کے بارے میں ہیں آپ نے ایک آیت کے علاوہ باقی تمام آیات اس مضمون کی قرآن شریف کے مختلف مقامات سے پڑھ کر سنائیں اس پر نواب صاحب نے فرمایا اے حافظ کلام اللہ! ان آیتوں میں ابھی اس ایک آیت کی بھول ہے جو قرض خواہ کو قرض سہولت کے ساتھ وصول کرنے کے متعلق ہے فرمایا وہ یہ ہے۔ ”وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة“ (ط) اگر قرضدار تنگ دست ہو تو اسکو آسودگی حاصل ہونے تک مہلت دی جائے۔

نواب صاحب! ہاں وہ آیت یہی ہے مگر یہ تو فرمائیے کہ علماء کے نزدیک اس مسئلہ میں کیا شکل اختیار کی جائے۔

حضرت مولانا! وقت تو نگری و آسانی تک مہلت دینے کا حکم ہے جہاں تک ہو سکے بتدریج قرضہ وصول کیا جائے۔

نواب صاحب!۔ پھر اب معاملہ اقدس میں کس قسم کی آسانی چاہئے؟

حضرت مولانا! ہزار بارہ سو روپیہ سال قسط ہو جانی چاہیے۔

نواب صاحب! اس تھوڑی سی رقم کی قسط بندی کے لیے تو مدت کثیر درکار ہوگی اور اس میں آسانی ہی کیا ہے؟ آخر پھر وہی دشواری پیش آئیگی۔ خیر اب آپ آگے بڑھے اس آیت کے بعد کیا ارشاد باری ہے۔

حضرت مولانا! اس کے بعد ارشاد باری ہے۔ ”وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعملون (اگر تم معاف کر دو تو یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو)۔

نواب صاحب! اس آیت کے مضمون کے مطابق تمام روپیہ معاف نہ کر دیا جائے؟
حضرت مولانا! یہ معاملہ اس شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے جو قرض قلیل اپنے ذمہ رکھتا ہو۔

نواب صاحب! اس آیت میں تو قلیل نہ کثیر کی تفصیل ہے نہیں۔

حضرت مولانا! یہ جو کچھ آپ نے فرمایا بجا ہے مگر مجھ سے میرے ہی معاملے میں مشورہ لینا خلاف قاعدہ ہے آپ اس بارے میں اپنے صاحبزادوں سے مشورہ لیجیے یا اپنے خیر خواہ کارندوں سے دریافت کیجیے۔

نواب صاحب یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور روتی ہوئی آواز سے دست بستہ یوں فرمایا اے حضرت یہ سب روپیہ حسب ارشاد باری تعالیٰ میں نے خدام والا کی نذر کیا آپ کی جائداد آپ کو مبارک ہو جس طرح چاہئے رکھے اپنے کارندوں کو میں تمہانہ بھون سے واپس بلائے لیتا ہوں۔ مگر یہ راز تحریر دستاویز تک کسی پر کھلنے نہ پائے۔ حضرت مولانا نے نواب صاحب کو پہلے تو بکمال اصرار بنھایا پھر فرمایا کہ واقعی آپ کی دریا دلی میں کوئی شبہ نہیں مگر قرضہ بہت کثیر ہے اس قدر تکلیف میں آپ کو نہیں دے سکتا اگر میرے حال پر عنایت ہی

منظور ہے تو نصف جایداد اس روپے کے عوض میں اپنے پاس رہنے دیجیے یا مناسب قسط کر لیجئے۔

نواب صاحب! اجی حضرت اب تو یہ سب جائیداد خداوند عالم نے آپ کو دلوائی ہے شکر حق بجالائے قبول فرما لیجئے۔

حضرت مولانا! مانا کہ آپ کے نزدیک اس روپے کی کچھ حقیقت نہیں مگر اسی وقت تو کہ کارندوں کو دخل نہ ہو۔

نواب صاحب! شاید آپ کارندوں کی سابقہ بے اعتدالی کا تذکرہ فرما رہے ہیں اب اس معاملہ میں ان کو کوئی دخل نہ ہوگا۔ بالآخر حضرت مولانا نے نواب صاحب کی پیش کش کو منظور فرمایا اور وطن واپس ہوئے۔ نواب صاحب نے اپنے کارندوں کے نام واپس آنے کے احکام جاری فرمادئے۔ چنانچہ حضرت مولانا کے ”خانہ بھون“ پہنچتے ہی کارندوں نے کاغذات متعلقہ کو آپ کے سپرد کر کے چھٹاری کا راستہ لیا۔ اس کے سولہ ماہ بعد حضرت مولانا کا وصال ہو گیا تو نواب صاحب نے مولانا رحمہ اللہی منگوری کی معرفت مولانا محمد محمود، حافظ محمد صدیق اور مولانا محمد عمر کو بلوایا اور جائیداد کا اطمینان دلایا نیز کچھ نقد بھی مصارف مہمانداری کے لیے دیا اور بکمال عنایت فرمایا کہ عنقریب دستاویز واپسی کی تکمیل ہو جائے گی چنانچہ چند ماہ بعد جائیداد کو صاحبزادوں کے نام لکھ دیا۔

مسجد رنگریزاں میرٹھ میں کچھ دنوں قیام:

۱۲۸۷ھ میں سید محمد عسکری ڈپٹی کلکٹر ضلع رائے بریلی کا ایک عریضہ آپ کے نام آیا تھا جس میں اپنی حاضری کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے صرف آپ کی ملاقات کی غرض سے رخصت لی ہے۔ آپ نے حکیم محمد عمر جی تھا ولی سے اس کا جواب لکھوایا اس میں تحریر تھا کہ جب آپ تشریف لائیں تو پہلے میرٹھ اتر کر مسجد رنگریزاں کے حجرے میں مجھے دیکھ لیں کیا عجب ہے کہ وہیں ملاقات ہو جائے آگے جانا نہ پڑے۔ ایسا اتفاق ہوا کہ مسودہ انوار محمدی جو منشی محراب علی کے ہاں تھا اور جو بعد مقابلہ صحیح حضرت قاضی سید محمد اسماعیل منگوری اور حکیم محمد عمر جی تھا ولی کی نگرانی میں طبع ہوا اس کے مقابلہ کے وقت، حضرت

مولانا میرٹھ قشرف لے آئے اسی وقت سید محمد عسکری میرٹھ آئے اور حضرت مولانا کے ساتھ قاضی صاحب اور حکیم صاحبؒ مذکور سے بھی ملاقات ہوئی۔

تصانیف:

آپ کی تصانیف کی تعداد حکیم محمد عمر صاحب چر تھادوئی نے بتیس لکھی ہے جن میں سے ان آٹھ کتابوں کے متعلق لکھا ہے کہ طبع ہو چکی ہیں۔ (۱) دلائل الافکار فی اثبات النجیر والاسرار، (۲) مناظرہ محمدیہ فی بحث بعض عقائد ویدیہ، (۳) مکاتیب محمدیہ فی جواب اعتراض مولوی بشیر الدین قنوجی، (۴) ارشاد محمدی فی الاشغال والاعمال، (۵) انوار محمدی فی المراقبات والمشاہدات، (۶) رسالہ صلوة، (۷) الہامات محمدیہ، جس کا پورا نام الہامات الموجود فی تحقیق وحدۃ الوجود الشہود ہے، (۸) قسطاس فی موازیۃ اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ کتاب مولانا عبدالحی فرنگی چلی کی کتاب ”دافع الوسوس“ کے جواب میں تحریر فرمائی ہے۔ ذیل کی کتابوں کے متعلق مؤلف حالات محمدیہ نے لکھا ہے کہ شائع نہیں ہوئیں۔

رسالہ گل ولالہ، فتاویٰ محمدی، شرح نسائی شریف، دفتر ہفتم مشنوی مولانا روم۔ باقی میں کتابوں کے نام سوانح نگار نے نہیں بتائے۔ رسالہ تنبیہ مؤلفہ قاضی سید محمد اسلمیل منگھوری کے ایک حاشیہ میں حضرت مولانا کی ایک کتاب ”فیضان محمدی“ کا ذکر ملتا ہے۔ بیاض محمدی حصہ اول جس میں مجرب اعمال و نقوش ہیں مسلم پریس دہلی میں طبع ہوئی ہے غالباً اس کا دوسرا حصہ بھی ہوگا۔ حالات محمدیہ کے شائع ہونے کے بعد دفتر ہفتم مشنوی، محبوب المطابع میرٹھ میں چھپ گیا ہے مگر نہائی کے بارے میں مولانا سید حامد ظہیر صاحب امر وہی زید مجدد ہم کے ایک مکتوب گرامی سے معلوم ہوا کہ وہ نسائی شریف کے حاشیے پر کسی مطبع میں شائع ہو گئی ہے اور مطبوعہ شکل میں انھوں نے اس کو پڑھا ہے۔

آپ کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھالوی کی طرف سے اجازت بیت حاصل تھی۔ ۱۹۹۰ء میں تھانہ بمون انتقال ہوا اور وہیں تدفین ہوئی اور آپ کے والد ماجد حافظ زاہد حسین مجاز صحت تھے۔ (محب الحق)

آپ کی چند تصانیف کے متعلق ضروری معلومات:

ارشاد محمدی کو حضرت مولانا نے زمانہ قیام میرٹھ یعنی ۱۲۷۲ھ میں تصنیف کیا ہے۔ یہ کتاب محبوب الطابع میرٹھ میں طبع ہوئی ہے۔ انوار محمدی مولانا کی حیات میں مطبع ضیائی میرٹھ میں باہتمام محمد حیات صاحب طبع ہوئی۔ رسالہ گل و لالہ جو تصوف میں ہے حضرت میاں جی نور محمدی حیات میں تصنیف ہو گیا تھا۔ حضرت میاں جی نے اپنے ایک مکتوب میں اس رسالے کے مطالعے کا اشتیاق ان الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے۔ رسالہ گل و لالہ مصنفہ آں مجمع کمالات، عارف معارف ربانیہ و محقق حقائق وہبانیہ کہ مسماۃ بتقیمۃ الاعتقاد لتصفیۃ الفواد من الکفر و الازداد در فن تصوف است پس کمال شاکم خوشا روز یکہ عیون مشتاقان جمالش کحل الجواہر مطالعہ اش منور شونہ۔ (یعنی آپ کا رسالہ گل و لالہ جو فن تصوف میں ہے میں اس کے مطالعے کا بہت مشتاق ہوں وہ دن بہت ہی اچھا ہوگا جس دن آنکھیں اس رسالے کے مطالعہ سے منور ہوں گی)۔

دفتر ہفتم مشنوی کے متعلق مختصر اتنا لکھا ہے کہ یہ مشنوی اعلیٰ اور معیاری فارسی میں ہے درحقیقت یہ مشنوی آپ کے ذوق شعری کی آئینہ دار اور آپ کی فارسی انشاء کا زبردست شاہکار ہے۔ سوز و گداز، سلاست و روانی اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک بلند پایہ تصنیف ہے۔ میرے ذہن میں مدت سے یہ بات تھی اور غالباً مشہور بھی یہی ہے کہ حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی نے مشنوی کا دفتر ہفتم لکھا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے مشنوی مولانا روم کے دفتر ششم کو مکمل فرمایا ہے مشنوی کا دفتر ہفتم حضرت مولانا شیخ محمد محدث کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے۔

تلامذہ:

آپ کے تلامذہ میں ضلع سہارنپور، ضلع مظفر نگر، ضلع میرٹھ اور ٹونک وغیرہ کی بڑی بڑی باکمال شخصیتیں ہوں گی اور کل شاگردوں کی فہرست یقیناً بہت طویل ہوگی۔ مگر مجھے ان تین حضرات کے علاوہ اور

شاگرد معلوم نہ ہو سکے۔ (۱) قاضی شیخ محمد محدث مچھلی شہری (قاضی بھوپال)۔ (۲) نواب محمد علی خاں والی ٹونک۔ (۳) دیوان شمس الدین نواب ریاست ٹونک۔

ایک کرامت:

حالات محمدیہ میں آپ کی بہت کرامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہاں لکھی جاتی ہے۔ ۱۲۷۱ھ میں بوقت بندوبست سرکاری آپ کی قدیم حویلی میں فشی عبد سبحان منصرم سہارنپوری مع متعلقین رہتے تھے اس مکان کے غیر آباد ہونے کی وجہ سے وہاں جن کا اثر ہو گیا تھا اور وہ ساکنین مکان کو رات دن پریشان کرتا رہتا تھا حتیٰ کہ مکان میں رہنا مشکل ہو گیا جگہ جگہ تعویذ لٹکائے لپیٹے جلائے کچھ نتیجہ نہ نکلا اس وقت حضرت مولانا ٹونک میں تھے بالآخر مجبور ہو کر آپ کو اطلاع دی گئی حضرت مولانا نے بواپسی ڈاک یہ مختصر تحریر لکھ کر بھیجی: اے ابن جان یہ مکان میں نے تمہارے نام بیع کیا ہے نہ رہن نہ کرایہ پر دیا ہے نہ عاریضہ بہتر یہی ہے کہ ابھی چھوڑ دو، رفع شرای میں ہے کہ راستہ لو، راقم شیخ محمد لکھا ہے کہ یہ تحریر پہنچتے ہی وہ جن ہوا ہو گیا۔

آغاز مرض:

رجب ۱۲۹۵ھ میں آپ کو تپ و لرزہ آنے لگا تھا جسکی وجہ سے بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ حکیم محمد عمر صاحب کا علاج رہا، ایک ماہ بعد آرام ہو گیا مگر طاقت بحال نہیں ہوئی تھی اس کے بعد رمضان آ گیا۔ آپ نے کئی سال کے بعد اس سال قرآن شریف سنایا۔ رمضان میں ایک دن آپ نے حکیم محمد عمر صاحب اور قاضی صاحب سے فرمایا کہ یہی سال انشاء اللہ سفر وصال معلوم ہوتا ہے آئندہ ماہ صیام تک حیات مفہوم نہیں ہوتی حکیم صاحب نے عرض کیا حضرت کیا فرماتے ہیں یہ ضعف تو عارضی ہے۔ یہ سن کر مسکرانے لگے اور دوسرا ذکر چھیڑ دیا۔ مزاج حار تھا ترشی کھانے کا بہت شوق تھا سرکہ سے بھی کمال رغبت تھی۔ آب شیریں و سردکی بھی بہت چاہت تھی۔ دوا اور پرہیز سے بچتے تھے کبھی کبھی سخت ضرورت میں

بخیاں سنت نبوی اور خدام کے تقاضے سے کوئی لطف و قلیل دوا استعمال فرما لیتے تھے۔ برطابق سنت دوا کے استعمال کرنے میں بھی عدد طاق کا لحاظ رہتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد سے اکثر سفر کا اتفاق رہا۔ کچھ نہ کچھ تکلیف ہو جاتی تھی مگر اپنی تکلیف کا حال کسی سے بیان نہیں فرماتے تھے۔ تلاوت قرآن، اور ادو و طائف، تہجد و اشراق اور دیگر معمولات میں بھی فرق نہیں آتا تھا۔ تصنیف و تالیف کا کام بھی ہوے جاتا تھا و عطا بھی ہر جمعہ کو اکثر فرماتے تھے جو کوئی طالب علم آ جاتا اس کو درس بھی دیتے تھے۔ اور پانچوں وقت کی نماز باہزار اہتمام مسجد میں جماعت سے ادا فرماتے تھے۔

شرح نسائی:

جب آپ کی طبیعت کسی قدر درست ہوئی تو نسائی شریف کی شرح انھیں آخری ایام زندگی میں لکھنی شروع فرمائی۔ اشراق پڑھنے کے بعد لکھنے بیٹھے اور دوپہر تک تم نہیں اٹھاتے تھے اور نماز ظہر سے فارغ ہونے کے بعد پھر اسی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور جلدی جلدی اس کام کو کر رہے تھے۔ چونکہ قوت حافظہ جواب تھی کسی مسئلہ میں چنداں غور کرنے اور کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت واقع نہ ہوتی اگر کبھی شبہ ہوا اور کتاب کو دیکھا تو اپنے حافظے کے مطابق ہی مضمون پاتے تھے۔

آخری تحریر:

بقر عید کی نماز کے بعد حسب عادت آپ مقابر اعراء کو نور فاتحہ سے منور کرنے کے لئے تشریف لے گئے آپ کے خادم محمد صادق صاحب تھانوی ہمراہ تھے ان کو اپنی قبر کی جگہ بتائی۔ آخر ماہ صفر ۱۲۹۶ھ میں ایک استفتاء سماع موتی کی تحقیق کے بارے میں آیا آپ نے اس کا جواب حکیم محمد عمر صاحب کو املاء کرایا اور بدلائل شرعیہ قرآن و حدیث سے فیضان رومی و سماع موتی کا اثبات فرمایا۔ مولانا رحم الہی مشکوٰۃ کو جو اس روز اتفاق سے آگئے تھے حرف بحرف سنایا اور حکیم صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”الحمد للہ یہ مسئلہ بھی اپنے موقع پر طے ہو گیا۔“

چھتاری کا دوسرا سفر:

وسط ربیع الاول میں آپ چھتاری تشریف لے گئے راستے میں چڑھتاول میں بھی ایک رات قیام فرمایا۔ چڑھتاول میں جب شرح نسائی کا ذکر آیا تو کچھ اس قسم کے کلمات حسرت آیات فرمائے کہ سامعین کے قلب و جگر پاش پاش ہو گئے۔ صبح ہی وہاں سے چھتاری کے لئے سوار ہو کر روانہ ہوئے اور شام تک وہاں پہنچے۔

مرض وفات:

چونکہ حالت ضعف میں یہ طویل سفر کیا تھا اس لئے تکان کے باعث رات کو بخار آ گیا نواب صاحب کے اصرار پر پانچ چھ روز وہاں رہنا ہوا دوا اور پرہیز کچھ نہ تھا۔ وعظ بھی کہنا پڑا۔ بخار بدستور رہا بلکہ بڑھتا ہی رہا حتیٰ کہ جب آپ واپسی میں میرٹھ اترے تو طبیعت بہت ناساز ہو گئی رات بھر نیند نہ آئی صبح کو احباب کے کہنے سے دوا پی۔ دوپہر تک طبیعت کچھ اچھی رہی پھر یکا یک بخار بڑھ گیا اور ساتھ ہی ذات الجذب ہو گیا، اس میں خشکی و تشنگی، سوء تنفس اور کھانسی کی زیادتی ہو گئی بے ہوشی اور غفلت بھی رہنے لگی۔ تین چار روز شہر میرٹھ کے طبیعوں کا معالجہ کیا گیا پھر حکیم عبدالغفور صاحب سکندر آبادی آ گئے ان کا نسخہ دیا گیا۔ ۲۶ ربیع الاول کو سہ پہر کے وقت فشی غلام حسین ہاپوڑی کو بلا کر فرمایا کہ آج کی رات میرے پاس بیٹھے رہنا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں تم کو کوئی نفع خاص پہنچے گا چنانچہ وہ بسر و چشم حاضر رہے۔ اس کے بعد آپ کو تھانہ بھون لے جایا گیا۔ طبیعت بدستور ناساز رہی۔ شب وفات سے پہلے جو پیر کا دن آیا تو آپ نے کچھ سنبھالا لیا۔ اسی دن مولانا محمد محمود صاحب، جو ریاست ٹونک میں ناظر تھے، حسب طلب آ گئے۔ حکیم محمد عمر صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! میاں محمود بخیر و عافیت آ پہنچے، سنتے ہی فرمایا بس تو آج ہی تک کا قصہ تھا۔ اتنے میں میاں محمود نے حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا۔ حضرت نے حکیم صاحب سے فرمایا اچھا فقیر کی چار پائی درست کرادو اور خوب دیکھ بھال کرو و بقلہ بچھا دوسب کو سمجھا دو کہ جہاں

نیک فقیر کا سامنا ہے ادھر سے کوئی شخص نہ آنے پائے اور اس وقت میری مجلس میں کسی ایسے شخص کی آمد و رفت نہ ہونے پائے جو مخالف ملت حضرت شفیع محشر ہو پھر فرمایا دیکھو کھانا تیار ہو گیا ہوگا جلد منگا لو تم اور محمود و سب صاحبوں کے ایک جگہ بیٹھ کر کھا لو۔ المختصر بارہ بجے (دن) سے پہلے پہلے یہ تمام انتظام فرما چکے تھے سب مہمانوں نے کھانا کھا لیا چونکہ سوائے دو ایسا پانی کے سترہ اٹھارہ دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا نہایت لاغر و ناتواں ہو گئے تھے مگر پاس انفاس اس حالت میں بھی برابر جاری رہا۔ شروع زمانہ ذکر و مشغل سے جاگتے سوتے، سوار پیادہ، ارادہ بلا ارادہ پاس انفاس جاری رہتا تھا، اسی شدت مرض کے زمانہ میں ایک دن فرمایا کہ فقیر اس کے ترک کی قدرت نہیں رکھتا دم بھر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جب دن چڑھا ایک دورہ پڑا جس سے تنفس بڑھ گیا آپ نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھا اور حکیم صاحب سے فرمایا کہ دو موٹے منگا لو اور میری چار پائی سے جانب قبلہ اپنا موٹہ لے لو اور جانب شرق محمود کا موٹہ لے لو اور دونوں جانب تم دونوں بیٹھ جاؤ اور کچھ دیر میرا حال دیکھو۔ تعمیل ارشاد کی گئی۔ اسکے بعد لمبے سانس کے ساتھ اللہ کہا اور آنکھیں بند کئے ہیں منٹ تک بے حس و حرکت لیٹے رہے اور پھر آنکھیں کھول کر میاں محمود سے مخاطب ہو کر فرمایا کچھ دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا شاید نیند کا اثر تھا فرمایا نہیں۔ بعد حکیم صاحب سے فرمایا بھلا کیا بات تھی؟ انہوں نے عرض کیا شاید حضرت کی توجہ خداوند قدوس کی جانب تھی، فرمایا ہاں۔ دن کے ایک بجے کا وقت تھا کہ سلطان الاذکار کے اندر مشغول ہو گئے ہر سانس کی آمد و شد سے لفظ اللہ صاف صاف نکلنے لگا۔ شام کے وقت مجلس حضرت میں اہل شہر کا ایک کثیر مجمع ہو گیا۔ پاس انفاس اور سلطان الاذکار کی کیفیت یہاں تک بڑھی کہ ہر واقف و ناواقف پر بھی ظاہر ہو گئی۔ متولی عبدالرحمن تھانوی نے بعد نالہ و فغان کہا افسوس! آج یہ آفتاب عالم تاب چھپا چاہتا ہے۔ بقول حکیم محمد عمر صاحب اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ایک میدان وسیع میں صد ہا اولیا اللہ اور ہزاروں صوفیائے باصفا جبر کے ساتھ ذکر اللہ کر رہے ہیں اور ہر طرف سے اللہ اللہ کی صدا آرہی تھی۔ ساڑھے گیارہ بجے رات تک یہ کیفیت رہی اور جب نصف شب گذر گئی و فتح مغرب کی سمت سے ایک آندھی اٹھی اور بادل چھا گیا اسی وقت روح پر فتوح عالم بالا کی

جانب رخصت ہوئی انا للہ وانا الیہ راجعون، جیسے ہی حضرت نے انتقال فرمایا پہلے تو سخت زلزلہ آیا پھر دیر تک بادلوں کا شور اور آندھی کا زور رہا۔ آپ کی وفات کی وجہ سے جہاں زمین لرزاں تھی اور آسمان گریاں وہاں تمام حاضرین کے دل و جگر بریاں تھے۔ بہت سے لوگوں نے رات ہی سے قرآن مجید اور کلمہ توحید بطور ایصال ثواب پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے بہت سے ناظرہ خواں اور حافظ قرآن جمع ہو گئے اور سب تاجمیز و تکفین قرآن کی تلاوت اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ ۷ ربیع الثانی ۱۲۹۶ھ کو منگل کے دن دس بجے کے قریب عید گاہ کے نزدیک نماز جنازہ پڑھی گئی شہر کے مسلمانوں کے علاوہ دور دور کے لوگ شریک جنازہ ہو گئے تھے حالانکہ اس وقت تک ریل اس علاقہ میں جاری نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود ایک بڑا مجمع پیدل اور سواری سے شرکت جنازہ کے لئے تھانہ بھون پہنچ گیا تھا۔ اتفاقاً گورکنوں کی غلطی سے قبر کی تیاری میں دو گھنٹہ کی دیر ہو گئی اسی عرصے میں آپ کے خلیفہ مجاز حضرت قاضی سید محمد اسماعیل منگھوری بھی آ گئے۔ غرض دو پہر سے پہلے سہ پہر علم و عرفاں کا یہ آفتاب نیمروز زیر زمین غروب ہو گیا۔

ایک خواب:

جس رات حضرت محدث فاروقی تھانوی کا انتقال ہوا ہے قاضی سید عنایت علی منگھوری برادر معظم قاضی سید محمد اسماعیل منگھوری نے پیالے میں خواب دیکھا کہ ان کے بھائی سید افتخار علی بکمال افسوس یہ کہہ رہے ہیں کہ ”آہ صد آہ حضرت عمر فاروقؓ نے انتقال کیا!“

ماذہ ہائے تاریخ انتقال:

حکیم محمد نمر نے اس مصرعے سے تاریخ وفات نکالی..... کیا قطب ارشاد نے انتقال آہ!
 حکیم صاحب نے فارسی زبان میں یوں تاریخ نکالی۔
 رنج و الم شد چرا جان و جگر چون نشرد
 عارف از ہستی بگو شیخ محمد نمر
 ۱۲۹۶ھ

حکیم صاحب ہی نے یہ تاریخ کہی:

اے عمر فکر کن رحلت مغفور ہے گر ☆ کر شمار عدد شیخ محمد مرحوم
یہ تاریخ بھی حکیم صاحب ہی کی نتیجہ فکر ہے: ۱۲۹۶ھ

دیدہ صوری سے دیکھو، معنوی سے خواہ عمر ☆ چھ عدد بارہ سو نوے پر بڑے تھے آہ کے

کسی نے اس فقرہ سے تاریخ نکالی: ہائے افسوس چراغ گل ہو گیا۔ کسی نے کہا: قطب ارشاد رفت۔

کسی نے ”ہو غفرہ“ سے تاریخ نکالی۔ ۱۲۹۶ھ

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا تعزیت نامہ:

میاں محمد صادق خادم مولانا کے نام حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا غم انگیز مکتوب مبارک
بطور تعزیت صادر ہوا تھا اس کو بھی یہاں درج کیا جاتا ہے۔

”از فقیر امداد اللہ غنی عنہ بخد مت محبت مخلص محمد صادق صاحب دام ذوق و شوقہ باللہ۔ بعد سلام
مستنون و دعائے خیریت دارین واضح ہو کہ خطر رخ غلط تمہارا آیا بدریافت حال انتقال حضرت مولانا شیخ
محمد صاحب جو صدمہ فقیر کے دل پر ہے بیان نہیں ہو سکتا۔ بجز صبر و شکیبائی کیا چارہ ہے۔ آہ ہزار آہ!

ساتھ کا اپنے ہر اک واصل ہوا ☆ مدعائے دل اسے حاصل ہوا

یہو نچا ہر اک منزل مقصود پر ☆ رہ گیا میں ہی پڑا بس دور تر

جو کہ نوری تھے گئے افلاک پر ☆ مثل سایہ رہ گیا میں خاک پر

حیف ہے صد حیف یا ران طریق ☆ جاہوئے دریائے مطلب میں غریق

گو ہر مطلب ہر اک نے لے لیا ☆ غوطہ زن میں بحرِ حرام میں رہا

زیادہ ازیں طاقت قلم در پردہ عدم۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو مراتب علیہ جنت فردوس نصیب

کرے اور ان کے مستفیضوں سے ان کا فیض قیامت تک جاری رکھے، آمین۔ فقیر بھی پایہ رکاب ہے ارحم

الرحمین خاتمہ بخیر کرے اور بخشے کہ اپنے بزرگوں سے ملے اور ہمیشہ خوش رہے، آمین۔ محبت من اللہ

تعالیٰ تم کو اپنی محبت اور معرفت دے اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر قائم رکھے۔ مناسب ہے کہ حضرت مرشد سے جو کچھ پہنچا ہے اسکو کرتے رہو یعنی ذکر و شغل میں عمر باقی گزارو اور ہر امر میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو انشاء اللہ تعالیٰ راحت و فراغت دارین حاصل ہوگی۔ فقیر کی طرف سے سب دوستوں اور عزیزوں کو نام بہ نام سلام فقط تحریر

آخر ذی الحجہ ۱۳۹۶ھ

سلسلہ طریقت:

آپ کے مرید کثیر تعداد میں تھے مگر جہاں تک مجھے علم ہے خلیفہ مجاز حضرت قاضی سید محمد اسماعیل منگورئی تھے جن کے لاکھوں مرید اور بہت سے خلفاء تھے ضلع بجنور میں آپ کے روحانی فیوض آج تک آشکارا ہیں آپ کی اصلاحی جدوجہد کے واقعات اس علاقہ میں زباں زد ہیں۔ خاص کر بسبی کرتپور میں پٹھانوں کے یہاں نکاح ثانی کا رواج آپ کے ذریعے سے ہوا۔ ۱۳۱۰ھ میں آپ کی وفات ہوئی آپ کے جانشین آپ کے صاحبزادے حضرت قاضی سید عبدالغنی منگورئی ہوئے ان کے بھی کثیر التعداد مرید تھے ہندوستان کے دو مایہ ناز اور عظیم شاعر حضرت اصغر گوٹروی اور حضرت جگر مراد آبادی آپ ہی سے بیعت تھے۔ ان دونوں کے کلام میں تصوف کی جو کچھ چاشنی پائی جاتی ہے وہ آپ ہی کے فیض نظر اور فیض صحبت کا صدقہ ہے۔ آج کل آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ سید عبدالولی منگورئی مدظلہ اس سلسلہ کے بجاہد نشین ہیں۔

حضرت مولانا کی اولاد:

اس سلسلے میں علاوہ حالات محمدیہ کے حکیم عبدالواحد خاں صاحب کرتپوری اور مولانا سید حامد حسین صاحب امر وہی خلیفہ مجاز حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے جو کچھ معلوم ہوا وہ درج ذیل ہے۔
حضرت محدث تھانوی کے تین صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہیں۔
(۱) مولانا محمد محمود صاحب (۲) مولانا محمد عمر صاحب (۳) میاں حافظ محمد صدیق صاحب حسب بیان حکیم

عبدالواحد خاں صاحب، حضرت مولانا کی صاحبزادی، مولانا عبدالاحد صاحب مرحوم مالک مطبع پنجابی دہلی کو منسوب ہوئی تھیں۔ مولانا محمد عمر کی چار لڑکیاں تھیں کوئی لڑکا نہ تھا۔ حافظ محمد صدیق صاحب کی بھی غالباً ایک لڑکی تھیں نرینہ اولاد نہ تھی البتہ مولانا محمد محمود صاحب کے چار صاحبزادے تھے جنکے نام یہ ہیں:

(۱) میاں مسعود احمد (۲) میاں محمد احمد (۳) میاں محمد اعلیٰ (۴) حافظ محمد افضل۔ ان میں سے اول الذکر پاکستان میں ڈاکٹر ہیں ثانی الذکر بھی وہیں ہیں آخر الذکر دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا۔ حکیم عبدالواحد خاں کے بیان کی رو سے مولانا محمد محمود کی ایک صاحبزادی حضرت قاضی سید عبدالغنی منگلوڑی کو منسوب ہوئی تھیں جو قاضی سید عبدالولی مدظلہ کی والدہ تھیں حافظ محمد افضل مرحوم کے دو صاحبزادے تھے۔ میاں اسلم اور میاں اسلمؒ، یہ دونوں حسب بیان حکیم عبدالواحد خاں صاحب، مولوی عبدالاحد مالک پنجابی کے نواسے تھے ان میں میاں اسلم کا انتقال ہو گیا۔ میاں اسلم مدظلہ پاکستان میں موجود ہیں۔

حضرت محدث تھانویؒ کا مکان اور کتب خانہ:

مولانا حامد حسین صاحب امر وہی زید مجدد ہم نے میرے ایک استفسار کے جواب میں جو ارقام فرمایا ہے اس کو اس عنوان کے ماتحت درج کرتا ہوں۔

مولانا محدث کا بڑا کتب خانہ تھا یہ سب کتابیں میاں اسلم کے پاس تھیں میں نے میاں اسلم صاحب سے ذکر کیا تھا کہ مجھے مولانا کا کتب خانہ دکھلا دیجئے انھوں نے مجھ سے وعدہ کیا مگر افسوس دو تین روز کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور وعدہ کا ایفاء نہ ہوا۔ ان کے جاتے ہی شرنا تھی قابض ہو گئے اور انھوں نے سارا کتب خانہ رذی میں داخل کر کے معمولی قیمت پر دوسری جگہ لے جا کر فروخت کر دیا۔ جامعہ اشرفیہ کے مدرس..... اس کے ملحقہ مکان میں رہتے ہیں بقیہ کتابیں انھوں نے لے لیں۔ اس وقت محدث تھانویؒ کی کسی کتاب کا یہاں ملنا دشوار ہے۔ محدث تھانویؒ کا نسائی شریف پر حاشیہ میں نے دیکھا ہے اور بعض کتابیں فارسی میں میں نے دیکھی ہیں الخ

قاسم العلوم والمعارف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی شاعری

اسال وسط شوال میں پھلاوہ ضلع میرٹھ جانا ہوا۔ مدت سے اشتیاق تھا کہ اُس قصبہ کی زیارت کروں جس میں مولانا شاہ سید عبدالغنی پھلاوہیؒ جیسا درویش صفت عالم پیدا ہوا تھا۔ اتفاق سے ۱۲ نومبر ۱۹۵۰ء کو جمعہ علماء صوبہ یو۔ پی۔ کے اجلاس میرٹھ میں مولوی سید عبدالغنی صاحب نبیرہ حضرت موصوف سے ملاقات ہوئی انھوں نے مجھے اس کتب خانہ کا گریڈ بنا دیا جو مولانا پھلاوہیؒ کا جمع کیا ہوا ہے۔ اور جس کو باوجود مختصر ہونے کے علوم قاسمیہ کا مخزن کہنا چاہئے۔ مولانا شاہ عبدالغنی صاحبؒ اب سے اٹھارہ سال پیشتر اس دنیا میں موجود تھے۔ احقر نے ان کی زندگی میں ایک عریضہ مولانا سید احمد حسن محدث امرویؒ کے حالات و سوانح کے سلسلے میں پھلاوہ روانہ کیا تھا۔ مولانا اس وقت سخت علیل اور صاحب فراش تھے جو اب دوسرے کے قلم کا لکھا ہوا آیا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ پھلاوہ میں حضرت نانوتویؒ اور حضرت امرویؒ کے خطوط و تصانیف کا اس قدر غیر مطبوعہ ذخیرہ موجود ہوگا جو کسی دوسری جگہ غالباً نہیں ہے۔ خیر اس عنوان پر مستقل طور پر پھر لکھوں گا کہ میں نے کتب خانہ پھلاوہ میں کیا کیا دیکھا اس وقت مجھے حضرت مولانا نانوتویؒ کے غیر مطبوعہ کلام کو پیش کرنا ہے جو اس کتب خانہ سے حاصل ہوا ہے سب سے پہلے میں مولانا شاہ عبدالغنی صاحبؒ کا تعارف کرادوں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ اس گمنام قطب الوقت نے پھلاوہ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کس طرح سے مولانا نانوتویؒ کی ایک ایک ادا کو اپنے آئینہ بیاض میں اتار لیا تھا۔ اور ان کو اپنے باکمال استاذ کے ساتھ کتنا ربط اور تعلق خاطر تھا۔

مولانا شاہ عبدالغنی پھلاوہیؒ:

پھلاوہ ضلع میرٹھ کے رہنے والے اور نسل سادات کرام سے تھے۔ حضرت مولانا نانوتویؒ اور حضرت مولانا امرویؒ سے تلمذ حاصل تھا۔ سند فرارح حضرت مولانا امرویؒ سے حاصل کی حضرت حامی اہلواذہما جرنلی سے بیعت تھے۔ مدرسہ شاہی مرآباد میں مدرس تھے حضرت محدث امرویؒ جب مدرسہ

شاہی سے ۱۳۰۳ھ میں امر وہہ آئے تو یہ بھی ان کے دیگر رفقاء کے ساتھ امر وہہ آ گئے تھے یہاں مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد میں کئی سال درس رہے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے امر وہہ کے مدرسہ سے جسمانی تعلق منقطع کر لیا مگر پھلاودہ میں بیٹھے ہوئے امر وہہ کو اور امر وہہ کے محدث کو نہیں بھولتے برابر خط و کتابت جاری رہتی ہے۔ محدث امر وہی کے کثیر التعداد خطوط دیگر اکابر کے مکاتیب کے ساتھ اس احتیاط اور حفاظت سے رکھے ہیں کہ آج بھی چالیس پچاس سال کا عرصہ گزرنے پر نئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان خطوط میں مدرسہ اسلامیہ امر وہہ کی تدریجی ترقی کا حال تحریک قادیانیت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کا تذکرہ مناظرہ رامپور (جو اہل سنت اور قادیانیوں کے درمیان ہوا تھا) کی مختصر روداد ہر ضروری بات کا ذکر اور نئے واقعہ کی اطلاع موجود ہے۔ ۱۳۱۳ھ میں حاجی امداد اللہ قدس سرہ کے وصال کی خبر امر وہہ سے پھلاودہ روانہ کی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ تاکید ہے کہ اس واقعہ جاں کاہ کو سن کر دامن صبر ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا۔ مولانا پھلاودی کا اپنے استاذ حضرت امر وہی سے عشق و محبت کا یہ عالم ہے کہ بار بار اپنے وطن میں قدم رنجہ فرمانے کی دعوت دیتے ہیں اور یہ دعوت اس وقت اُرتوی ہو جاتی ہے جب انھیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا امر وہی میرٹھ یا دیوبند تشریف لا رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت مولانا میرٹھ سے بالاعی بالا دیوبند تشریف لے گئے جب حضرت پھلاودی کو معلوم ہوا تو یہ شعر لکھ کر امر وہہ روانہ کیا۔

توبہ دیوبند سیدۂ دل مابہ رخت کشیدۂ ☆ بہ نگاہ لطف ندیدۂ مگر ایس چہ شیوۂ دلبر یست

مولانا پھلاودی کو حضرت قاسم العلوم سے بھی نسبت خاص حاصل تھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مولانا نانوتوی سے کس مقام پر اور کب تک تعلیم حاصل کی غالباً ۱۲۹ھ تک یہ پھلاودہ کا درویش مولانا نانوتوی کے دامن سے وابستہ رہتا ہے۔ بعدہ مولانا امر وہی کے پاس مرآد اباد آ کر تکمیل کرتا ہے۔ پھلاودہ میں مولانا نانوتوی کے بھی بہت سے خطوط نہایت حفاظت و صیانت کے ساتھ ایک جزو دان میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت نانوتوی کو اپنے اس صوفی منش شاگرد کا بڑا خیال ہے اچھے اچھے القاب سے یاد فرماتے

اڈی قعدہ ۱۳۰۳ھ سے جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امر وہہ میں درس دینا شروع کر دیا۔ اسی سال سے جامعہ میں دورہ حدیث شریف کا آغاز ہوا جو بحمد اللہ اب تک جاری ہے۔ (محبت الحق)

ہیں۔ پھلاودی شاگرد کو اپنے شیخ کے قلم سے نکلے ہوئے نکریمی القاب سے کچھ ندامت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس ندامت کا ذکر کر کے حذف القاب کی درخواست کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی القاب میں اختصار کرنے پر تیار ہیں لیکن ان کو بالکل ترک کرنے پر راضی نہیں ہیں۔

بہت سے خطوط ایسے بھی مولانا پھلاودی نے جمع کر لئے ہیں جو حضرت نانوتوی نے اپنے مایہ ناز شاگرد مولانا مروئی کو روانہ کیے ہیں۔ اور ان میں خاص خاص علمی مضامین مکتوب الیہ کی استعداد کے پیش نظر بیان فرمائے ہیں۔ مولانا پھلاودی کے ابن الابن مولوی سید عبدالغنی صاحب نے مجھے بتلایا کہ مولانا عبدالغنی صاحب پھلاودی سفر میں بھی مولانا نانوتوی کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی تقاریر کو ضبط کیا ہے۔

شاہ محمد عاشق پھلٹی نے جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علوم و معارف کو محفوظ رکھے اور ان کو رائج کرنے کی کوشش کی اسی طرح مولانا پھلاودی نے حضرت نانوتوی اور ان کے تلمیذ رشید حضرت مروئی کی علمی دستاویزوں کو دست و برد زمانہ سے محفوظ رکھا اور برابر قاسم العلوم کے معارف و علوم کو سیکھے اور سکھانے کی تلقین فرماتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے کتب خانہ میں حضرت نانوتوی کے کیا کیا نایاب اور کیا علمی آثار ہیں اس کو پھر لکھو گا اس وقت تو مجھے صرف تعارف کراتا تھا۔

مولانا پھلاودی بلند پایہ درویش بڑے جید عالم بہترین ادیب اردو فارسی عربی کے باکمال شاعر تھے۔ حافظ کلام اللہ ہونے کی رعایت سے حافظ تخلص تھا۔ تاریخ گوئی میں خاص مہارت تھی۔ خط نہایت پاکیزہ اور اپنے دونوں استادوں سے ملتا جلتا تھا۔ ۱۳۵۲ھ میں انتقال فرمایا، انتقال سے قبل ایک وصیت نامہ لکھا جو شائع ہو چکا ہے۔

مولانا نانوتوی کا ذوق شعر:

دنیا سے علم واقف ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی مفسر، محدث، حکم، صوفی اور زبردست مناظر تھے۔ ان کی تقریر و تحریر کے بہت سے نمونے علمی حلقوں سے خراجِ حسین وصول نہہے ہیں۔ ان کی محققانہ کاوشیں رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رکھیں گی۔ ان کے تلامذہ اقصائے عالم میں آفتاب و مہتاب بن

کر چکے، اسلام کی حمایت میں ان کے مناظرے ملت بیضا کی تقویت کا باعث ہوئے۔ ان کے ذریعہ حضرت شاہ ولی اللہ کی حکمت و معرفت و دارالعلوم دیوبند کے بام و در پر جلوہ گرہی، اور آج بھی جلوہ گرہے۔ یہ تمام خصوصیات اظہر من الشمس ہیں۔ لیکن مولانا کا ایک باکمال اور قادر الکلام شاعر ہونا قریب قریب نظروں سے اوجھل ہے۔ گو شعر و شاعری ان امتیازات کے ہوتے ہوئے مولانا کے لیے کچھ زیادہ موجب عزت نہ ہو لیکن پھر بھی ایک فن ہے اور بہت سے بزرگوں نے اس فن میں اپنی جولانی طبع کی کرشمہ سازیاں دکھائی ہیں۔ مولانا کے کلام کا ایک مختصر مجموعہ قصائد قاسمی کے نام سے چھپ چکا ہے جس میں ایک نعتیہ قصیدہ شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر بھی ذوق شعر کا پتہ چلانے کے لیے یہ مجموعہ کافی نہیں ہے۔ ایک طرف حضرت نانوتوی نے اردو نثر کو علمی و فنی اصطلاحات کے خزانے عطا فرمائے اس کو معارف لدنیہ کا حامل بنایا۔ ”قبل نما“ بطور تحفہ پیش کیا۔ ”آب حیات“ کے جرعہ ہائے حیات بخش پلائے اس زبان میں اونچے اور مشکل مضامین کے علاوہ اپنی سادہ کلامی کے عمدہ نمونے پیش کیے۔ دوسری طرف اردو نظم کے دامن کو اعلیٰ تخیل اور بلند جذبات سے زینت بخشی اگر مولانا نانوتوی کا پورا مجموعہ کلام دستیاب ہو جاتا تو میں اپنے اس دعویٰ میں کامیاب ہو جاتا کہ وہ اپنے زمانے کے دہلی کے بڑے بڑے شعراء سے قادر الکلامی میں کسی طرح کم نہیں ہیں آخر وہ مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی جیسے ادیب وقت کے شاگرد رشید تھے جنہوں نے دیگر علوم کے علاوہ علم ادب بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ایک ذہین شاگرد مولانا رشید الدین دہلوی سے حاصل کیا تھا۔ مولانا مملوک علی دہلی کے بعض ان مشاعروں میں شریک ہوئے ہیں جو بادشاہ دہلی کی سرپرستی میں دہلی میں منعقد ہوتے رہتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی ”اطیب النغم“ اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کے عربی اشعار سے ان

حضرت مولانا نانوتوی کی اردو شاعری کے متعلق بھی چند ہونے اور حضرت مولانا محمد طیب مدظلہ سے گفتگو کر رہا تھا مولانا نے فرمایا کہ میں نے متعدد بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی نے ایک دفعہ فرمایا کہ بعض وقت شاعرانہ مضامین اور کیفیت کی اس قدر آمد ہوتی ہے کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ پورا عطر برجت نظم میں کہہ دوں مگر چونکہ یہ خلاف سنت ہے اس لئے اس سے پرہیز کرتا ہوں۔ (فریدی) قاری محمد طیب صاحب کی وفات ۶ شوال ۱۳۰۳ھ ۱۷ جولائی ۱۹۸۳ء کو ہوئی۔ (محب الحق)

کے ذوق ادب کی فراوانی کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے مولانا فضل حق خیر آبادی کے عربی اشعار پر اصلاح دی ہے اسی کا اثر ہے کہ ”ثورة البندیہ“ کی نظم و نثر عربی انتہائی موکھ ہے، اور اہل فہم کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ خاندان ولی اللہی کے فیض یافتہ ہونے اور خداداد صلاحیت کے باعث حضرت مولانا نانوتویؒ کا کلام عربی بھی نہایت پر تاثیر اور پر کیف ہے۔ ۱۸۵۷ء سے کچھ عرصہ بعد تک فارسی، علمی حلقوں میں کافی رائج تھی شعر و سخن میں اس زبان کے جو ہر دکھائے جاتے تھے اسی لئے مولانا نے نثر کے علاوہ نظم کو بھی اُفتد پارس سے لذت یاب فرمایا ہے۔ ربی اردو وہ ان کے زمانے میں ارتقائی منازل طے کر رہی تھی۔ ملک کی عام فہم زبان تھی۔ دہلی جو اردو زبان کا عظیم الشان مرکز ہے۔ مولانا تعلیم کے زمانے میں وہاں برسوں رہے ہیں پھر وہ کس طرح اس زبان کو اپنی شیریں کلامی سے فیض یابی کا موقع نہ دیتے۔ حضرت مولانا نانوتویؒ کے ایک اور شاگرد (جو بعد کو حضرت امروہیؒ کے یہاں مدرسہ شامی مرآ آباد میں فارغ التحصیل ہوئے) حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی مفسر امروہیؒ سے بھی حضرت قاسم العلومؒ کے ذوق شعر و ادب کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ حضرت حافظ صاحبؒ جو کہ اکابر دیوبند خصوصاً مولانا نانوتویؒ کے آخری چند سال کی ایک جیتی جاگتی تاریخ تھے، فرماتے تھے کہ مولانا نانوتویؒ نے ”دیوان اللہ دے“ کی نمائش پر ایک مثنوی لکھی تھی جو پانچ سو اشعار پر مشتمل تھی۔ اس کا ایک شعر یہ ہے

ضعف سے ہو گیا دم رفتار ☆ تن کو سائے کا تھا مناد شوار

اس کے قریب ہی زمانے میں مولانا گنگوہیؒ نے ”ہدیۃ الشیعہ“ تصنیف فرمائی اس کو ملاحظہ کر کے فرمایا کہ مولانا گنگوہیؒ دین کا یہ کام کر رہے ہیں اور میں نے ”مثنوی“ لکھی ہے۔ فوراً وہ مثنوی منگوائی اور جلادی۔

ایک مرتبہ حافظ صاحبؒ نے فرمایا کہ میں حضرت مولانا نانوتویؒ کے ساتھ مظفر نگر گیا تھا جیل خانہ کے قریب ایک مکان میں مولانا فروکش تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میں دوپہر کو سو رہا تھا آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مولانا کے کاغذات رکھے ہیں اور خود کسی ضرورت سے کہیں گئے ہیں، میں نے کاغذات کو دیکھا

تو دو غزلیں تھیں جو مختلف ردیف اور قافیے کی تھیں۔

ایک مرتبہ حافظ صاحبؒ نے مولانا نانوتویؒ کے چند اشعار سنائے جو ان پیش کردہ غزلوں میں موجود ہیں علاوہ ازیں مولانا کی ایک غزل کا (جو ذوق کی غزل پر لکھی تھی) ایک شعر سنایا۔ ذوق کی غزل کا مطلع یہ ہے

بلبل ہوں صحن باغ سے دور اور شکستہ پر ☆ پروانہ ہوں چراغ سے دور اور شکستہ پر

(ذوق دہلوی)

اس زمین میں حضرت مولانا نانوتویؒ کا صرف ایک شعر جو حضرت حافظ صاحبؒ کو یاد رہ گیا تھا یہ ہے۔ میں کیا کروں کہ پرترے ناوک کا جل گیا ☆ رکھنا تھا اس کو داغ سے دور اور شکستہ پر

(مولانا نانوتویؒ)

اب میں حضرت والا کا غیر مطبوعہ کلام پیش کرتا ہوں، اس کی دو نقلیں کتب خانہ پھلا دودہ میں ہیں تیسری نقل میرے پاس ہے۔ مجھے مولوی سید عبدالمنعمی سلمہ سے معلوم ہوا کہ مولانا کے کلام کی ایک ضخیم بیاض ان کے پاس اور تھی جس کو انھوں نے ایک صاحب کو عاریتہ دیدیا ہے۔ اگر وہ بیاض بھی میرے سامنے ہوتی تو میں اس سے زیادہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا۔

اس موجودہ مختصر مجموعہ میں چھ غزلیں اردو کی، دو فارسی کی اور پانچ عربی کی نظمیں ہیں۔ اس میں سے اردو کی سب غزلیں چند اشعار کے حذف کے بعد فارسی کی دونوں غزلیں، اور عربی کلام کا اقتباس پیش کروں گا۔

عربی کے اشعار کافی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود کم پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ناقلین و کتابتین سے کتابت میں بہت سی اغلاط واقع ہو گئی ہیں۔ وہ اغلاط کافی غور و خوض کے بعد رفع ہو سکتی ہیں۔ پھر عربی اشعار کا سلیس اردو ترجمہ بھی متوسط طبقہ کے لیے ضروری تھا۔ بنا بریں تمام حاصل کردہ کلام عربی پیش نہیں کیا گیا۔

ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ مولانا حافظ سید عبدالغنی صاحب "پھلا ودی" کے لئے دعائے مغفرت فرمائیں کہ ان کی کوشش کے نتیجے میں مولانا نانوتوی کے بہت سے علمی آثار محفوظ رہے یہ اشعار بھی انہیں کی بدولت ہمارے ہاتھ لگے جو تیرک کے طور پر ہدیہ ناظرین کئے جا رہے ہیں۔

کلام اردو

(۱)

جما کر تیری صورت رو برو ہم	کیا کرتے ہیں پہروں گفتگو ہم
کیا کرتے ہیں کہنا نامہ بریاد	رخ گلغام و زلف مشک بو ہم
اگر یوں ہی کئی یہ زندگانی	تو لے جائیں گے کیا کیا آرزو ہم
نگاہ لطف کے ہیں زخم دل میں	کریں اے چارہ گر کیوں کر رفو ہم
پڑا رہنے دے اے شوق دل آرام	ابھی بیٹھے ہیں پھر کر چار سو ہم
بس اتنا تنگ مت کر وحشت دل	لیے بیٹھے ہیں اپنی آبرو ہم
لب شیریں سے خود کامی تو معلوم	ہمیں گے ہمہم اب اپنا لہو ہم
نہ جاناں ہے نہ جاں ہے اور نہ دل ہے	کریں کس کس کی یارب جستجو ہم
نہیں ساتی تو ہمہم پھوڑ دینگے	کسی پتھر پہ ساغر اور سبو ہم
پنے تشہیم مشت خاک قاسم	اڑائیں گے کہیں بھی کو بو ہم

(۲)

اگر مشق ستم کو واں نشانہ چاہیے کوئی	تو مر جانے کو ہم کو بھی بہانہ چاہئے کوئی
کسی کا حال کچھ ہو اور کسی پر کچھ گزر جائے	مگر زلفوں کے سلجھانے کو شانہ چاہئے کوئی
ہمارا غم غلط ہو یا نہ ہو ہمہم سے پر تم کو	تغافل کے لئے ہم سے بہانہ چاہئے کوئی
یہ مانا قاسم آزاد وحشی ہے مگر سچے	دعویٰ دشت دھرا کو بھی خانہ چاہئے کوئی

(۳)

<p>یوں حسن میں ہیں اور بھی کم اور زیادہ جوں سایہ نمود اپنی تمہیں سے ہے وگر نہ وہ پیار کی باتوں میں خفا ہو گیا یارب ہے عمر رواں راہ عدم جتنے بڑھے ہم اے چارہ گر عشق نہ کر وصل کی تدبیر کچھ ناز کا دعویٰ ہے اگر اپنا سمجھ کر کیا کر کے رہے دیکھئے قاسم یہ محبت</p>	<p>پر آپ میں ہے طرز ستم اور زیادہ کچھ ہم میں نہیں غیر عدم اور زیادہ تھی ہم کو تو امید کرم اور زیادہ اتنے ہی بڑھے سوئے عدم اور زیادہ کھودیں گے مجھے لطف صنم اور زیادہ تو ہاں تمہیں اپنی ہی قسم اور زیادہ زندہ رہے ہم گر کوئی دم اور زیادہ</p>
--	--

(۴)

<p>مر کسی کو شکوہ بیداد ہو ہاں ستم گر کچھ نئی ایجاد ہو دل لگا کر خاک کوئی شاد ہو کوچہ دلدار میں برباد ہو بھول جانا انتقام یاد ہو جس کے سینے میں دل ناشاد ہو کشتہ غم ہو کے غم میں شاد ہو</p>	<p>عاشقوں سے وہ صنم کیا شاد ہو قتل عاشق ایک پرانی بات ہے آرزوئیں ہو گئیں سینے میں خاک اپنی مشت خاک اور یہ آرزو بھول کر دیکھیں کہو تو ہم اگر بے نیازی کا مزہ جانے وہی قاسم دیوانہ میں دیکھی یہ بات</p>
---	---

(۵)

<p>مروں ہوں مری ناتوانی تو دیکھو پڑے نقش پا کی طرح پر جہاں ہم ستم گر کی زلف و نگہ سے ہمیشہ</p>	<p>سر مرگ ہے شادمانی تو دیکھو وہیں مرئے ناتوانی تو دیکھو بننے ہیں ہم سخت جانی تو دیکھو</p>
--	--

حذنگ گنگہ کی روانی تو دیکھو
 ذرا آپ کی خوش بیانی تو دیکھو
 طلب میں پھرا جاں فشانی تو دیکھو
 ستم گر کا لطف نہانی تو دیکھو
 رہا غم غم جاودانی تو دیکھو
 یہ قاسم کی شیریں بیانی تو دیکھو

نہ آنکھوں سے نکلی نہ دل ہی میں ٹھہری
 نہ ہو دل کو تسکین نہ کچھ آس ٹوٹے
 ادھر سے ادھر سایہ و شضعف میں بھی
 مری تلخ کامی میں لذت سی لذت
 اجل کی تمنا تھی مر کر بھی وہ ہی
 تمہاری تو شیرینی لب نہ دیکھی

(۲)

بنے تھے ہم ہی فقط آپ کی جفا کے لئے
 بلائے تازہ ہے اک جان جتلا کے لئے
 زبان مل نہ سکے جس کی التجا کے لئے
 انھیں تو کوئی بھی کہتا نہیں وفا کے لئے
 قاتل تیرے تڑپتے رہے جفا کے لئے
 ہوا کہیں بھی کسی کے یہ آشنا کے لئے
 جفا بھی ہووے تو قاسم سے با وفا کے لئے

رقیب مہر کے قابل عد و وفا کے لئے
 کھڑے کھڑے کہ و بیگاہ کا ترا آنا
 تفقد اس کا تمہیں اپنے آپ لازم ہے
 ہمیں تو صبر کو کہتے ہیں شیخ و داعظ سب
 وہ بات کیا ہے کہ مر کر بھی قاتل بے رحم
 جفا بجائے وفا اور ستم بجائے کرم
 جفائیں کیجیے پر تم کو زیب دیتا ہے

کلام فارسی

(۱)

از لب شیریں بدہ لذت بیک چمانہ ام
 اصطلاح شوق بسیار است و من دیوانہ ام
 سوختی یکسر فدایت جان من کا شانہ ام
 گر گلی من بہلم در شمع من پروانہ ام

ساقیا سیرم ز مے خاک در سے خانہ ام
 جان یا جاناں بگو خوانم ترا یا جان جاں
 آتش عشق تو افاد است در جان و تنم
 از من خستہ چہ می پرسی کہ قاسم کیستی

(۲)

خار صحرا بشوق دامانت
 خندہ کاکل پریشانست
 دل بیتاب و نوک مژگانست
 کہ بکار تو چشم فغانست
 واں میجا بکار و گرانست
 باز زان شوخ چشم در مانست
 کشد ناز باز شا دانست
 بوئے گل ہم ز گل گریزانست
 رفتن از تن چو کار ہر جانست
 نہ میجا نہ آب حیوانست
 آں پرپوش چرا پشیمانست
 مسکن وحشاں بیا بانست

از جنوں دست در گریبانست
 گردش بخت و دورہ گردوں
 سینہ چاک چاک و خندہ ناز
 دل بیتاب من مبارک باد
 جاں بلب آمد و اجل بر سر
 نیم جاں کرد و رفت بازندید
 ہم نفس! در عدم چه دولت بود
 گر رمیدی زخست ات چه عجب
 شکوہ رقتش چرا اے دل
 مرض عشق و یار دور و دراز
 کشد نازرا شکایت نیست
 قاسم از کوچہ اش چه کار ترا

کلام عربی

(۱)

للائسفات فقد اضاع نحيه
 ذاکان منه نصينا و نصيه
 و اترک رجاک بعیده و قریبه
 و الصبران صابرت لیس مصيه
 کالبدی یطلع یستعمل مغیه
 ابقیت شیئاً تشھی تخریبه
 عیش بالآم الفراق عقیه

من لم یسخر بالبکاء حیه
 یا نفس مالک تجز عین تجملی
 دع عنک ویلک ذکره و حدیثه
 فرجاک مقطوع و شوقک ضائع
 ان جاء جاء مجهراً الذهابه
 بابی و امی لا تزور لنا فهل
 فالعوت من شوق الوصال اخف من

(۲)

<p>ذهبت بما غادرتہ منہ بادیا و قلبی فلو آثر تنی بقوا دیا عن الغیر تکنی بانتہاء و دادیا بعینی آحلی قبل ذامن رقادیا فوادى سویدائی و عینی سوادیا ومن قد غدافی و ذکم لی معادیا وأنسی کثیر ابدیا و معادیا</p>	<p>اغرت علی عیسی فلو عدت عادیا ذهبت بعقلی و اصطباری و راحتی تقول تذکرنی اذا صرت فارغاً فهل انسین الیوم من کان و جہہ أشغل بالاحباب منک وانت فی نعم قد شغلتم بالاحبہ دوننا اذا شئت ان انساک لا استطیعہ</p>
--	--

(۳)

<p>روحی و شوقی الیہ منذ از مانی واللہ قریبنی منکم و ادنانی مالم تحل بعینی بین اجفانی لم تات ام برق نور منک اعمانی</p>	<p>یا من بقلبی لہ ذکر فانسائی رمانی الدھر من داری و اقصائی دنوت منکم و لکن ما دنوت منی حللت منها لعمالی لا اراک بہا</p>
---	---

(۴)

<p>عربیة من فاضلی متبحر متفقہ و مفسر متدبر معقولها منقولها و مناظر</p>	<p>جاء الكتاب و ما الكتاب صحيفة متكلم متفطن و محدث حاوی العلوم اصولها و فروعا</p>
--	---

(۵)

<p>و یزید نوراً فوقہ فی ناظری یرجو میا منکم و یخشی طائری</p>	<p>یجلو بصائر ناظریہ جمیعہم سکن الفواد و کان قبل حلولہ</p>
--	--

تبرکات

حضرت نانوتویؒ اور حضرت شیخ الہندؒ کے غیر مطبوعہ خطوط

حضرت نانوتویؒ کا مکتوب بنام منشی محمد ممتاز علی میرٹھی مرحوم:

سر ابا عنایت و کرم منشی محمد ممتاز علی صاحب، سلمکم اللہ، محمد قاسم کا سلام قبول فرمائیے۔ اور پھر سنیے۔ کہ آپ کا نامہ مورخہ ۲۲ جمادی الثانی دیوبند ہو کر نانوۃ آیات تھا کہ میں بتھا ضائے چند در چند البیہ چلا گیا۔ کل سولہویں دن وطن آیا تو آپ کا عنایت نامہ ملا۔ آج قلیل ارشاد کرتا ہوں۔ تین جوابات استفسارات ڈاک میں بھیجتا ہوں اور ایک ورق اور جس پر ہندسہ مرقوم نہیں اور شروع میں موٹے قلم سے لفظ تنبیہ لکھا ہوا ہے ساتھ ملفوف ہے۔ اس ورق کو علیحدہ نکال کر منشی عبدالرزاق صاحب کے سپرد کر دینا شاید کسی وقت کام آئے اور کسی نیم ملا کے اعتراض کا جواب ہو جائے۔ اور باقی اجزاء جوابات کو مولانا محمد علی صاحب کے حوالے کر دینا اور یہ عرض کر دینا کہ بعد مطالعہ ان اوراق پر بشرط پسند مہر کر کے واپس فرمائیے میرے پاس اس کا منشی نہیں۔ اگر منشی ہوتا تو کچھ ضرورت نہ تھی۔ اور اگر پسند نہ آئے تب بھی اس اصل کا لوٹا دینا ضرور ہے۔ اگر کسی صاحب کو خیال جواب الجواب ہو تو نقل کر لینے کا اختیار ہے۔ میں نے دو روز میں تمہید اور چھتیس جواب لکھے ہیں اور صاحب چار روز میں نقل کر لیں حد نہایت ہفتہ میں نقل کر کے واپس فرمائیں مگر مولانا کی انصاف پرستی سے مجھ کو امید تسلیم ہے اندیشہ تعصب نہیں اگر اس پر بھی مولانا محمد علی صاحب کا وہی اصرار رہا تو یوں کہو قیامت آگئی۔ جب ایسے بھولے بھالے بے شر عالم بھی شاگردوں کے منشی محمد ممتاز علی صاحب میرٹھی مرحوم بڑے جید کا تب اور مطبع جہانی میرٹھ کے مالک تھے۔ میرٹھ سے یہ اپنے مطبع کو دہلی لے گئے۔ میرٹھ اور دہلی دونوں جگہ حضرت مولانا نانوتویؒ نے ان کے مطبع میں صحیح کام کیا ہے۔ منشی صاحب آخر میں ہجرت کر کے کہ منظر چلے گئے۔ وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ بعد کو مطبع جہانی مولوی عبدالاحد مرحوم کے پاس آ گیا تھا۔ غالب کے خطوط بھی منشی صاحب کے نام ہیں۔ "عود ہندی" (غالب) کو سب سے پہلے منشی صاحب ہی نے غالب کی زندگی میں جہانی میرٹھ سے شائع کیا ہے۔ (فریدی)

کہنے سننے سے ایسی چال چلنے لگے۔ تو ہم کو کون روکنے والا ہے؟ فحشی صاحب! اگر نفسانیت عند اللہ مذموم نہ ہوتی اور بحث مباحثہ کا انجام خراب نظر نہ آتا اور نزاع اہل اسلام خدا و رسول ﷺ کو ناگوار نہ ہوتا تو آپ بھی ایک تماشہ دیکھ لیتے ان شاء اللہ مخالفان احقر کی حقیقت معلوم ہو جاتی سب کے نشے ان شاء اللہ ڈھیلے ہو جاتے مدعیان روزگار اپنے کیے کو پہنچ جاتے پر کیا کروں ”الذین اسجن المؤمن“ اس گرفتار ہو او ہوس کے ذمے خدا کی طرف سے بھی دربارہ مناظرہ سیکڑوں قید و قیدو دگی ہوئی ہیں وہاں کی باز پرس کا کھٹکا ایسے کام کرنے نہیں دیتا، ورنہ اس نفس کا فریضہ کیا کیا کچھ لہرس نہیں آتیں مگر۔۔۔۔۔ لاچار ہو کر اس شعر کو پڑھ کر اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہوں

جنگ ہمتا و دولت ہمدرد زینہ ☆ چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

اور اسی لئے تحریر جواب سے گھبراتا رہا۔ اور لکھ لیا تو ار سال میں اتنا توقف کیا اور سوطر ح کے حیلے و حجت نکالتا رہا، مگر جب دیکھا سب اہل مشورہ اسی طرف ہیں ادھر آپ کا عنایت نامہ بھی بطلب جوابات معلومہ پہونچا، ناچار ہو کر روانہ کرتا ہوں پر ”شور مکروہ“ سے ڈرتا ہوں اس لئے پھر بھی یہی آرزو ہے کہ جانے دیجئے مخالفوں کے راہ پر آنے کی امید نہیں جو موافق ہیں ان سے اندیشہ برہمشتکی نہیں۔ اور اگر کوئی برگشتہ بخت پھر بھی گیا تو معتقدوں کا بندہ شائق نہیں۔۔۔۔۔ سپر جواب اعتراض، جواب ہوتا ہے آداب نیاز نہیں ہوتا۔ ناظران اوراق کو میری ”تیز لکھیاں“ جو باوجود عزم ادب بمقابلہ تعریضات مخالفان بے اختیار نہ سرزد ہو گئی ہیں ناگوار ہوں گی اور اس وجہ سے کیا کیا کچھ برا بھلا نہ کہیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں کس کو کہتا ہوں اور مولوی محمد علی صاحب کو کیسا سمجھتا ہوں۔ میں اول ہی : میں لکھ چکا ہوں کہ یہ استفسارات مولوی محمد علی صاحب کی طرف سے معلوم نہیں ہوتے کسی طالب علم کا ہڈیاں ہے، مولوی محمد علی صاحب کے نام لگادئے ہیں، اور مولوی محمد علی صاحب نے بوجہ تسلیم طبع زاد اس کے نشیب و فراز پر غور و لحاظ نہیں فرمایا۔ بلکہ اوروں کے اعتماد پر آپ ”بررؤ“ ہو بیٹھے ہیں ورنہ ان کی وہ سلامت روی اور کم کوئی اور ان کی وہ یکسوئی اور ”معصوم دہی“ جو سراسر ایسی باتوں کی مخالف ہے ان سے

ایسی حرکت اور وہ بھی میرے مقابلے میں ہرگز کرنے نہ دیتی۔ اس لئے ان جوابوں کے پیش کرنے میں اؤل تو ان سے شرماتا ہوں اور ”آخر کار“ سے خائف ہوں، مبادا ”ملازمان شب و روز“ اس قصے کو دور پہنچائیں اور مولانا کو آمادہ جواب کریں اور ادھر بھی نفس بدکیش ”لہنیوں“ پر آجائے اور وہ محبت اور ملاقات سب خاک میں رل جائے۔ اور میں سنتا ہوں کہ کہیں کہیں اور بھی ”استفسارات مولانا“ کا فکر ہے سو کہیں اور سے اگر کوئی جواب آگیا ہو یا آج کل میں آجائے تو پھر کاہے کوان جوابوں کو پیش کیجئے ”بلکہ بنظر مصلحتہائے دیگر“ پھر تو پیش نہ کرنا ہی مناسب ہے، اگر پیش ہی کرنا ہوگا تو جب پیش کریں گے جبکہ ”مخالفان احقر“ اوروں کے جواب کے جواب سے فارغ ہو لیں گے، تسپر بھی اگر آپ کی یہی رائے ہو کہ ”جوابات مرسلہ“ پیش ہی کرنے چاہئیں تو بعد استخارہ اختیار ہے۔ خاص آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مولوی محمد علی صاحب کے یہاں سے اس تحریر کا واپس آنا معلوم، جس طرح ہو سکے اس کی نقل کرا کر ان کی خدمت میں بھیجئے گا۔

منشی عبدالرزاق صاحب بیگ کی خدمت میں بعد سلام ضرور یہ کہہ دینا کہ آپ بھی مضمون واحد تصور فرمائیں۔

مولانا محمد علی صاحب کی خدمت میں بعد سلام و نیاز میری طرف سے یہ عرض کر دینا کہ اب آپ کو انصاف فرمانا ضرور ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ میری رو رعایت کریں اور کہوں ہی تو کیا ہوتا ہے اگر میری رعایت ہوتی تو یہ نوبت ہی کیوں آتی پر حق کی طرف داری کے لئے خدا کی طرف سے جس قدر تاکیدیں ہیں سب آپ کو معلوم ہیں اور اس باب میں جس قدر وعدہ و وعید ہیں آپ خوب جانتے ہیں خدا کو یاد کر کے ”حاکمہ“ فرمائیے گا زیادہ کیا عرض کروں۔ والسلام فقط۔

حضرت شیخ الہند کا پہلا خط حافظ زاہد حسن صاحب کے نام:

حافظ زاہد حسن صاحب امروہی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکتی سے بیعت اور اجازت یافتہ ہیں۔ ۹۰ رسال سے زائد عمر ہے۔ جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ کے نائب مہتمم تھے۔ چند سال سے قلعہ میں جلا ہیں اور صاحب فرمائش ہیں۔ (فریدی) (۱۳۷۵ھ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ محبت الحق)

حوالہ رضی الرحمن سر پافضل و کرم دامت لطفکم! السلام علیکم ورحمت اللہ۔

عنایت نامہ سرمایہ شادمانی ہوا۔ جناب کی یاد آوری کا مشکور ہوں اور اس پر متاسف ہوں کہ اس سے پہلے جو آپ نے خطوط بھیجے قسمت کی نارسائی سے ایک بھی نہیں ملا۔ یہ بات تو ضرور ہے کہ یہ دور افتادہ کسی مخلص کو ابتداء خط لکھنے سے عمداً بھی رکتا ہے مگر جس قدر ابتدا کرنے سے قاصر ہوں اس سے زائد جواب دینے میں چست ہوں۔ خطوط کا حال ایسا ہی ہے جو مل گیا مل گیا، نہ ملا نہ ملا۔ چٹنی چائے بھی اس وقت تک نہیں پہنچے۔

اُن مخلصانِ مرآد اباد اور کرمان امر وہہ شریف کی خدمات میں سلام عرض کر دیجیے جن کو یہ ناکارہ یاد رہ گیا ہو اور جو بھول گئے ہوں سو خیر۔ بالخصوص مدرسین امر وہہ اور مرآد اباد سے ضرور سلام عرض کر دیجیے۔ خوب یاد آیا سنہیل جناب فشی صاحب کی خدمت میں سلام و نیاز پہنچا دیجئے اگرچہ ایک کارڈ صرف ہو خدا کرے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں۔ احقر کے پاس کارڈ یا خط بھیجنے میں ٹکٹ لگانا فضول ہے۔ جملہ رفقاء اور اگلے طفیل سے یہ ناکارہ بجز اللہ خیریت اور راحت سے ہے۔ آپ کی اس موٹی مرآد ابادی جائے نماز نے بہت کام دیا، آپ کی عنایات کو یاد دلاتی رہتی ہے۔ یہ تو فرمائیں مولانا (سیدنا محمد حسن) مرحوم کے صاحب زادے کس مشغلہ میں ہیں؟ کتب ضرور یہ سے فارغ بھی ہو چکے؟ اللہ کرے بخوبی فارغ ہو کر اپنے مقدس بزرگوار کے ہیرو ہوں جملہ رفقاء آپ کو اور سب حضرات کو سلام مسنون عرض کرتے ہیں۔ آپ کے کارڈ پر تاریخ نہ تھی۔ مگر ہم کو آخر محرم میں ملا۔ یہ عریضہ ۲۹ محرم کو روانہ کرنا ہوں۔

جناب سید صاحب! خط لکھو تو بالا جمال سب جگہ کی خیریت لکھ دینی مناسب ہے۔ سنہیل۔

پھر ایوں۔ گمینہ۔ وغیرہ کی، والسلام فقط، مالطہ (مالطہ) سینٹ کھٹ براکس ۲۹ محرم ۱۳۳۲ھ محمود حسن ۲۲۱۹

اعلیٰ ہاشمی حمید الدین صاحب بنو سنہیل مراد ہیں جو حضرت مولانا نانوتوی کے ستر شہین و مخلصین میں سے تھے۔ (فریدی) حضرت سید محمدت امروہی کے صاحبزادے مولانا قاری سید محمد صاحب رضوی مدظلہ عرف بنے سماں۔ (فریدی) مولانا سید محمد سماں مدظلہ عالم تھے، حافظ وقاری بھی تھے، تمام علوم کی تحصیل و تکمیل جامعہ اسلامیہ عربیہ جامعہ امروہہ میں کی۔ آپ کا وصال ذی الحجہ ۱۳۹۸ھ الموافق نومبر ۱۹۷۷ء میں ہوا۔ (محمد الحق)

مکتوب نمبر ۲:

سراپا فضل و کرم دام لطفکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا گرامی نامہ ۶ شعبان کا ہم کو ذی الحجہ میں وصول ہوا ممنون فرمایا۔ آپ کی اور جمیع حضرات امر وہہ۔ مرآداباد۔ سنہ ۱۰۶۰۔ عینہ۔ حسن پور۔ پتھر ایوں، کی بالا جمال خیریت معلوم ہوئی، الحمد للہ وجزاکم اللہ۔ مکرما! کیا عرض کروں اس قدر بعد پر اپنے مکر میں واحباب سے تعلق میں کچھ کمی محسوس نہیں ہوتی اس لئے بالا جمال بھی خیریت معلوم ہو کر یک گونہ سکون ضرور ہو جاتا ہے۔ ادھر ”حوادث ہندوستان“ (انگریزوں کا قلم و ستم) معلوم ہو کر فکر و پریشانی ہوتی ہے۔ جب کسی کی خیریت معلوم ہوتی ہے گونہ اطمینان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دارین عطا فرمائے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردے کے تعلق سے گواہیاء کے قلوب میں یکسوئی یا غفلت آجاتی ہے جیسا کہ مشاہد ہے مگر غالباً اموات کے تعلق قلبی میں کمی نہیں آتی، گو کسی حال میں ہوں واللہ اعلم جب سے بعض خطوط سے معلوم ہوا ہے کہ مولوی احمد شاہ صاحب بوجہ ضعف و مرض ترک تعلق کر کے وطن آگئے بار بار خیال آ کر ملال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور ان کے بزرگواروں کی برکت سے ان کو جملہ افکار و تکالیف سے محفوظ رکھے۔ الحمد للہ قاضی صاحب بخیر اپنے مرکز پر قائم ہو گئے، ان کے خط کے جواب میں ایک عریضہ روانہ کیا تھا خدا کرے پہنچ گیا ہو۔ غالباً آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ رفیق جاں نثار مولوی سید نصرت حسین بمباہ ذیقعدہ پیش قدمی کر کے راہی آخرت ہوئے، اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت فرماوے۔ ان کی والدہ صاحبہ کو اطلاع کر دی تھی کوئی ان کا خط ابھی تک نہیں آیا۔ باقی رفیق بخیریت ہیں۔ آپ کو اور سب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ کی دال اور گوشت کی پارسل سے خوشی ہوئی تھی مگر اس وقت تک کوئی نہیں پہنچا۔ آپ کی تحریر جواب میں بھی اسی لئے تاخیر کی کہ پارسل آجائیں تو آپ کو رسید بھی پہنچ جاوے۔ مگر افسوس ہے اس وقت تک نہیں پہنچے۔ احباب مرآداباد کی خدمت میں سلام لے مولانا احمد شاہ صاحب حسن پورئی آپ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد اور خلیفہ مجاز تھے۔ غالباً قاضی محمد حسن صاحب مرآداباد قاضی بھوپال مراد ہیں جو حضرت مولانا گنگوئی کے شاگرد اور مرید تھے۔ مولانا حکیم سید نصرت حسین صاحب کوزہ جہان آبادی جو مالٹا میں حضرت شیخ الہند کے رفیق تھے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ (فریدی)

عرض ہے، جو صاحب پارسل بھیجئے گا ارادہ فرمادیں ان کو منع کر دیجئے کہ اول تو چنداں حاجت نہیں، دوسرے اس قدر مسافت میں ضائع ہونے کا خطرہ۔ تیسرے یہاں پینٹھ پچھڑنی شروع ہے، رفتہ رفتہ متفرق طور پر لوگ جا رہے ہیں۔ سو یہ احتمال ہے کہ پارسل کہاں پہنچے اور مرسل الیہ کہاں۔ مولوی کفایت اللہ صاحب سے بعد سلام مسنون فرما دیجئے کہ اپنی سعی کو اس زائد امر میں صرف نہ فرمادیں، اس میں شک نہیں کہ کسی مخلص کا کوئی پارسل آتا ہے تو مسرت ہوتی ہے کہ علامت محبت ہے باقی سعی اور ترغیب یقیناً مکروہ معلوم ہونی چاہیے۔ مولوی امین الدین صاحب اور جملہ ان کے مدرسین کو سلام۔ قاری سید محمد صاحب کو سلام مسنون۔ کاش آپ یہ بھی لکھ دیتے کہ کتب درسیہ سے فارغ ہو گئے اور اب یہ مشغلہ ہے۔ والسلام فقط، اپنے مدرسہ میں اور دیگر مواقع میں جہاں سلام پہنچا سکیں پہنچا دیجئے۔ مالٹہ سینٹ گھیمینٹ برائسن
۲۲۱۹۔ محمد حسن

سید العلماء حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امر وہیؒ

اور مرزا قادیانی

حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امر وہیؒ (متوفی ۱۳۳۰ھ) قاسم العلوم والمعارف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور حضرت مولانا نانوتویؒ کے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ تحریر و تقریر میں اپنے استاذ معظم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اس لئے ان کو تصویر قاسمؒ کہا جاتا تھا۔ حضرت مولانا نانوتویؒ ہی کے زمانے میں وہ کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحبؒ، ایمانی مدرسہ امینہ دہلی۔ (فریدی) ۳۱ حضرت شیخ البنہ نے حضرت محدث امر وہیؒ کا مرثیہ لکھا ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں:

گم ہوئی آج صد حسرت ہمارے ہاتھ سے	حضرت قاسم نثانی دے گئے تھے اپنی جو
سید العلماء امام اہل محل و اہل نقل	پاک صورت پاک سیرت صاحب طلق گو
جب شیبہ قاسمی سے بھی ہوئے محروم ہم	تم ہی تھلا دو کہ پھر ہم کیا کریں اے دوستو۔

مدرسہ اسلامیہ خوجہ اور مدرسہ عبدالرب دہلی، مدرسہ اسلامیہ سنخیل میں سینہ صدرت پر قارئین ہے، بعداً ۱۳۹۹ھ میں آپ حضرت نانوتویؒ کے ایما سے مدرسہ شاہی مراد آباد کے سب سے پہلے صدر المدرسین ہوئے۔ ذی قعدہ ۱۳۰۳ھ میں مدرسہ شاہی سے مستعفی ہو کر مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امر وہ کی داغ بیل ڈالی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ مدرسہ بام عروج پر پہنچ گیا اور ملک و بیرون ملک سے جوق در جوق تشنگان علوم اس "دارالعلم" میں آتے رہے۔ حضرت محدث امر وہیؒ کی شخصیت اور حضرت نانوتویؒ کی نسبت کی وجہ سے یہ مدرسہ بھی دیوبند اور سہارنپور کے مدارس سے کسی طرح کم نہ تھا۔ حضرت محدث امر وہیؒ کے شاگرد رشید جو حضرت نانوتویؒ اور حضرت گنگوہیؒ کے بھی شاگرد نیز حضرت حاجی صاحبؒ کے خلیفہ و مجاز یعنی مفسر قرآن حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقیؒ بیضاوی اور مطول، مولانا حافظ سید عبدالغنی صاحب پھلاؤدی اور دیگر باکمال اساتذہ نے اس مدرسہ کو حضرت امر وہیؒ کی رفاقت میں چلایا، استاذ القراء حضرت قاری ضیاء الدینؒ لہ آبادیؒ نے اس مدرسہ میں درس تجوید دیا اور ہمیں دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغ حاصل کی، مولانا سید علی زبیدیؒ امر وہیؒ، بابائے طب حکیم فرید احمد عباسیؒ، مولانا محمد امین الدینؒ مترجم "نفیسی" شفاء الملک مولانا حکیم رشید احمد خاںؒ جیسے سیکڑوں باکمال حضرات نے جو اپنے اپنے علاقوں میں صاحب درس و فتویٰ ہوئے اور تعلیم و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ اس چشمہ رفیض سے سیرابی حاصل کی۔

پروفیسر عبدالعزیز میمنؒ نے بھی اس مدرسہ میں کچھ عرصہ تعلیم پائی ہے، معقول و منقول کی انتہائی تعلیم اس درس گاہ میں ہوتی تھی۔ یہاں کے فارغ شدگان کی ایک طویل فہرست ہے جس کو یہاں درج کرنا مقصود نہیں۔

لوگ کہتے ہیں چلے علاء احمد حسن	اور میں کہتا ہوں وقت کا مکی ہے ہو نہ ہو
کمال و اکل سبھی موجود ہیں پر اس کو کیا؟	جو کہ مشاق اوائے قاسم خیرات ہو
اپنی اپنی جائے پر قائم ہیں سب اہل کمال	پر جب استاد کی خالی پڑی ہے دیکھ لو!
بادل نہ یاس آئی کان میں میرے صدا	تک ہوئی تصویر قاسم صفحہ ہستی سے لو

حضرت امروہیؒ نے اپنے استاذ حضرت قاسم العلوم والعارفؒ کی طرح ہر فتنہ کا مقابلہ کیا اور اپنی تحریر و تقریر سے باطل کو ابھرنے نہ دیا، باطل کی سرکوبی کرنا ان کا خاص نصب العین تھا، اس کام کو کہاں کہاں اور کس کس تدبیر سے انجام دیا اس کی تفصیل بھی مد نظر نہیں۔ مجھے اس مقالہ میں صرف حضرت محدث امروہیؒ کی اُس جدوجہد کو ذکر کرنا ہے جو انھوں نے مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کی۔ بد قسمتی سے امروہہ میں حکیم محمد احسن جو ایک اچھے خاندان کے فرد تھے۔

مرزا قادیانی کے دام فریب میں آگئے اور قادیان سے ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا، قادیانی مذہب کے دو اہم ترین پرپیہ پالت پوشیدہ نہیں ہے کہ حکیم محمد احسن امروہی اور حکیم نور الدین بھیروی قادیانیوں کے یہاں نعوذ باللہ شیخین کا مرتبہ رکھتے ہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے۔

مرزا کی جموئی نبوت کا دار و مدار انھیں دونوں کی دجل آمیز تحقیق پر تھا۔ حکیم محمد احسن نے اپنے محلہ کے قریب رہنے والے چند اشخاص کو مرزا قادیانی کی طرف مائل کر دیا تھا۔ حضرت مولانا امروہیؒ اور ان کے ذی استعداد شاگردوں نے حکیم محمد احسن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ اپنی باطل و عجا کوشش میں امید کے مطابق کامیاب نہ ہو سکے۔ ان لوگوں میں سے جو قادیانی کی طرف مائل ہو گئے تھے بعض لوگوں نے توبہ کر لی تھی۔ حضرت محدث امروہیؒ کو بڑا فکر تھا کہ ان کے وطن میں یہ فتنہ بآء کی طرح پھیلتا جا رہا ہے چنانچہ وہ اپنے ایک مکتوب گرامی میں جو مولانا حافظ سید عبدالغنی صاحب پھلاؤدی کے نام ہے اس فتنہ کا ذکر فرماتے ہیں:

بندہ نجیف احقر الزمن احمد حسن مغفلا

بخدمت برادر کرم جامع کمالات عزیزم حافظ مولوی محمد عبدالغنی سلمہ اللہ تعالیٰ
بعد سلام مدعا گزار ہے کہ..... امروہہ میں اور خاص محلہ دربار (کلاں) میں ایک
مرض دبائی مہلک یہ پھیل رہا (ہے) کہ محمد احسن جو مرزا قادیانی کا خاص حواری
ہے، اس نے حکیم آل محمد کو جو مولانا نانو توئی سے بیعت تھے مرزا کا مرید بنا چھوڑا

اور سید بدر الحسن کو جس نے مدرسہ میں مجھ کا کارہ سے بھی کچھ پڑھا (ہے) مرزا کی طرف مائل (کر دیا) ان دونوں کے بگڑنے سے محمد احسن کی بن پڑی۔ لن ترانیاں کرنی شروع کیں، طلبہ کے مقابلہ سے یوں عقب گزاری (کی) احمد حسن میرے مقابلہ پر آوے، میں جب مناظرہ پر آمادہ ہوا اور یہ پیغام دیا کہ حضرت! مرزا کو بلائیے صرف راہ میرے ذمہ (یا) مجھ کو لے چلئے میں خود اپنے صرف کا متکفل (ہوں گا) بسم اللہ آپ اور مرزا دونوں مل کر مجھ سے مناظرہ کر لیجئے یا میرے طلبہ سے مناظرہ کیجئے۔ ان کی مغلوبی میری مغلوبی تب مناظرہ کا دعویٰ چھوڑ، مہبلہ کا ارادہ کیا، بنام خدا میں اس پر آمادہ ہوا اور بے تکلف کہلا بھیجا بسم اللہ مرزا آوے، مہبلہ، مناظرہ جو شوق وہ اختیار کرے میں موجود ہوں (میں نے) اس کے بعد جامع مسجد (امروہہ میں) ایک وعظ کہا اور اس پیغام کا بھی اعلان کر دیا اور مرزا کے خیالات فاسدہ کا پورا رد کیا۔^۴

کل بروز جمعہ دوسرا وعظ ہوا جو بفضلہ تعالیٰ بہت پر زور تھا اور بہت زور کے ساتھ یہ پکار دیا کہ دیکھو مولوی فضل حق کا یہ اشتہار مطبوعہ (اور) میرا یہ اعلان مرزا صاحب کو کوئی صاحب لوجہ اللہ غیرت دلائیں کب تک خلوت خانہ میں چوڑیاں پہنے بیٹھے رہو گے؟ میدان میں آؤ اور اللہ برتر کی قدرتِ کاملہ کا تماشا دیکھو کہ ابھی تک خدا کے کیسے کیسے بندے تم سے دجال امت کی سرکوبی کے واسطے موجود ہیں۔ اگر تم کو اور تمہارے حواریں کو غیرت ہے تو آؤ ورنہ اپنے ہفتوات سے

۴ سولہ تاسید بدر الحسن امر دینی حضرت امر دینی کے تلامذہ میں سے تھے۔ ان کی آمد و رفت محمد احسن کے پاس رہنے لگی اور ان کی باتیں سن کر حیاتِ مسیح علیہ السلام میں ان کو شک و تردد ہو گیا۔ بہت سے علماء نے ہر چند ان کو سمجھا یا لیکن ان میں باطل کا اثر ہو گیا تھا۔ اس لئے کسی کی نہ سنتے تھے اور اننا مناظرہ کرتے تھے۔ حضرت محدث امر دینی کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی۔ ایک دن ان کو حضرت کے پاس لایا گیا یادہ خود بخود آئے۔ حضرت نے ان کو دیکھ کر فرمایا! مولوی بدر الحسن حقیقت میں تم ہمارے طیب روحانی ہو، ہمیں فرور ہو چلا تھا کہ ہمارا شاگرد اور ہمارے پاس بیٹھے والا باطل میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے تم نے ہمارا فرور تو زدیانا، معلوم کہ کس جذبہ سے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ مولوی بدر الحسن زار زار روئے گئے اور قدموں پر لوتے لوتے پھرے اور اپنے فاسد عقیدہ سے توجہ کی۔ یہی بدر الحسن حضرت کے ساتھ مجلس مناظرہ و راہپور میں موجود تھے۔ (فریدی)

باز آؤ۔ بفضلہ تعالیٰ ان دونوں وعظوں کا اثر شہر میں امید سے زیادہ پڑا اور دشمن مرعوب ہوا۔

پیش گوئی تو یہ ہے کہ نہ مہبلہ ہو، نہ مناظرہ مگر دعا سے ہر وقت یاد رکھنا مولانا گنگوہی مدظلہ (اور) مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی نے بہت کلمات اطمینان تحریر فرمائے ہیں۔ ارادہ (ہے) دو چار وعظ اور کہوں۔

(۲۰ رزی قعدہ ۱۳۱۹ھ مطابق یکم مارچ ۱۹۰۲ء از امر وہبہ)

خود حضرت محدث امر وہیؒ نے مرزا کو براہ راست بھی ایک مکتوب گرامی تحریر فرمایا جو قادیانوں کی روئیداد مباحثہ رامپور میں درج ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں:

”بسم اللہ آپ تشریف لائیے، میں آپ کا مخالف ہوں۔ آپ مسیح موعود نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں بنام خدا مستعد ہوں، خواہ مناظرہ کیجئے یا مہبلہ آپ اپنے اس دعویٰ کا احادیث معتبرہ سے ثبوت دیکھئے، میں انشاء اللہ تعالیٰ اس دعوے کی قرآن و احادیث صحیحہ سے تردید کروں گا۔“

حضرت محدث امر وہیؒ کی ایک تحریر مجھے ملی ہے جو عربی زبان میں ہے اور جس کو میں رسالہ دارالعلوم دیوبند بابت شعبان ۱۳۷۳ھ میں بسلسلہ سوانح حضرت محدث امر وہیؒ شائع کرا چکا ہوں اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے: ”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھایا اور ان کو قتل و صلیب سے بچالیا۔ وہ قرب قیامت میں خروج دجال کے بعد جامع مسجد دمشق کے منارہ شرقی سے اتریں گے اور وہ دو زرد چادروں میں لپٹے ہوں گے اور وہ فرشتوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ گویا وہ ابھی غسل کر کے غسل خانہ سے برآمد ہوئے ہیں۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ جزیہ متوقف کر دیں گے۔ دجال اکبر ان کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ ان کے سانس سے کافر مر جائے گا۔ جہاں تک ان کی نظر جائے گی باطل ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں حق ہیں۔ اس میں باطل کو راہ نہیں۔ کتاب اللہ سے اور ہی صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے یہی ثابت ہے، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح ابن مریم وفات پا گئے اور وہ خود بخود باللہ مسیح موعود ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے عناد کی اور اس نے کتاب اللہ اور احادیث کی نصوص ظاہرہ سے اعراض کیا اور امر ثابت کی مخالفت کی۔ وہ ومن ہنالیق الرسول الایہ کا صدق ہے، یہ مرزائی جھوٹ بولتے ہیں، یہ زوال یعنی ملیہ السلام کے منکر ہیں، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے قول کو باطل کر دکھائے گا اور حق کی فتح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے۔ اے مسلمانوں! (مسلسل)

والسلام علی من اتبع الهدی

راقم خادم الظلمہ احقر الزمن احمد حسن غفرلہ، مدرس مدرسہ عربیہ، امرودہ۔

(ستہ ضروری مباحثہ راہپوری ص ۵۶)

ان تمام کوششوں کا ذکر مرزائے قادیان کے سامنے بھی ان کی جماعت کی طرف سے بذریعہ خط یا براہ راست کیا جاتا ہوگا، مرزا کو جہاں دیگر علماء حق سے عناد تھا۔ حضرت امرودیؒ سے بھی دلی بغض ہو گیا اور ایک رسالہ دفع البلاء لکھا جس میں ایک بڑی لمبی چوڑی تمہید کے بعد حضرت امرودیؒ کو مخاطب کیا ہے۔ مخاطبت میں جو الفاظ استعمال کئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا کو حضرتؒ کی ذات سے اپنے لئے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، دفع البلاء سے مرزا کی تحریر کے چند جملے یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

..... مولوی احمد حسن صاحب امرودیؒ کو ہمارے مقابلہ کے لئے خوب موقع مل گیا ہے۔ ہم نے

سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولویوں کی طرح اپنے ”مشرکانہ عقیدہ“ کی حمایت میں تاکہ کسی طرح حضرت مسیح ابن مریمؑ کو موت سے بچالیں اور دوبارہ اتار کر خاتم الانبیاء بنا دیں۔ بڑی جانکاہی سے کوشش کر رہے ہیں.... اگر مولوی احمد حسن صاحب کسی طرح باز نہیں آتے تو اب وقت آ گیا ہے کہ آسمانی فیصلہ سے ان کو پتہ لگ جائے یعنی اگر وہ درحقیقت مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں اور میرے الہامات کو انسان کا افترا خیال کرتے ہیں نہ خدا کا کلام تو سہل طریق یہ ہے کہ جس طرح میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ”انہ اوی القریۃ لولا الاکرام لہلک المقام“ وہ ”انہ اوی الامر وہ“ لکھ دیں مومنوں کی دعا تو خدا سنتا ہے وہ شخص کیسا مومن ہے کہ ایسے شخص کی دعا اس کے مقابلے میں تو سنی جاتی ہے جس کا نام اس نے دجال اور بے

(مسلسل) اور اے کتاب اللہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں! تم اس گمراہ اور گمراہ کن شخص سے بچتے رہو اور اس کے سہیل جوں سے سخت پرہیز رکھو۔ اس لئے کہ یہ اس امت کا دجال ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تمہیں جمونے دجال نہ آجائیں ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

رحمہ خادم الظلمہ احقر الزمن احمد حسن غفرلہ، مولوی احمد حسن امجدیہ

ایمان اور مفتری رکھا ہے مگر اس کی اپنی دعائیں نہیں سنی جاتیں۔ پس جس حالت میں میری دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ میں ”قادیان“ کو اس تباہی سے محفوظ رکھوں گا خصوصاً ایسی تباہی سے کہ لوگ کتوں کی طرح طاعون کی وجہ سے مریں یہاں تک کہ بھاگنے اور منتشر ہونے کی نوبت آوے۔ اسی طرح مولوی احمد حسن صاحب کو چاہئے کہ اپنے خدا سے جس طرح ہو سکے ”امروہہ“ کی نسبت دعا قبول کرالیں کہ وہ طاعون سے پاک رہے گا اور اب تک یہ دعا قریب قیاس بھی ہے کیوں کہ ابھی تک ”امروہہ“ طاعون سے دو سو کوکس کے فاصلہ پر ہے لیکن ”قادیان“ سے طاعون چاروں طرف سے بفاصلہ دو کوکس آگ لگا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا صاف صاف مقابلہ ہے کہ اس میں لوگوں کی بھلائی بھی ہے اور نیز صدق اور کذب کی شناخت بھی کیونکہ اگر ”مولوی احمد حسن“ صاحب لعنت باری کا مقابلہ کر کے دنیا سے گذر گئے تو اس سے ”امروہہ“ کو کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر انھوں نے اپنے فرضی مسیح کی خاطر دعا قبول کر کے خدا سے یہ بات منوالی کہ امروہہ میں طاعون نہیں پڑے گی تو اس صورت میں نہ صرف ان کو فتح ہوگی بلکہ تمام ”امروہہ“ پران کا ایسا احسان ہوگا کہ لوگ اس کا شکر نہیں کر سکیں گے اور مناسب ہے کہ ایسے مہلکہ کا مضمون اس اشتہار کے شائع ہونے سے پندرہ دن تک بذریعہ چھپے ہوئے اشتہار کے دنیا میں شائع کر دے جس کا یہ مضمون ہو کہ میں یہ اشتہار مرزا غلام احمد کے مقابل پر شائع کرتا ہوں جنھوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں جو مومن ہوں، دعا کی قبولیت پر بھروسہ کر کے یا الہام پا کر یا خواب دیکھ کر یہ اشتہار دیتا ہوں کہ ”امروہہ“ ضرور بالضرور طاعون کی دست برد سے محفوظ رہے گا لیکن ”قادیان“ میں تباہی پڑے گی کیونکہ مفتری کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس اشتہار سے غالب آئندہ جاڑے تک فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرے تیسرے جاڑے تک..... اول یہ کارروائی (طاعون) پنجاب میں شروع ہوئی لیکن ”امروہہ“ بھی مسیح موعود کی محیط ہمت سے دور نہیں، اس لئے اس مسیح کا کفر کش دم ضرور ”امروہہ“ تک بھی پہنچے گا یہی ہماری طرف سے دعویٰ ہے۔ مولوی احمد حسن اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد جس نوہ قسم کے ساتھ شائع کرے گا امروہہ کو طاعون سے بچا۔ گا اور کم سے کم تین جاڑے امن سے گذر گئے تو مرزا قادیانی کے یہاں طاعون نونت ہے۔

میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں پس اس سے بڑھ کر اور کیا فیصلہ ہوگا اور میں بھی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مسخ موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا ہے اور میری نسبت اور میرے زمانے کی نسبت تو ریت اور انجیل اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے کہ اس وقت آسمان پر خسوف و کسوف ہوگا اور زمین پر طاعون پڑے گی اور میرا یہی نشان ہے کہ ہر ایک مخالف خواہ وہ "امردہہ" میں رہتا ہو اور خواہ "امر تسر" میں اور خواہ "دہلی" میں اور خواہ "کلکتہ" میں اور خواہ "لاہور" میں اور خواہ "گولڑہ" میں اور خواہ "بنالہ" میں اگر وہ قسم کھا کر کہے گا کہ اس کا فلاں مقام طاعون سے پاک رہے گا تو ضرور وہ مقام طاعون میں گرفتار ہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے خدائے تعالیٰ کے مقابل پر گستاخی کی اور یہ امر کچھ "مولوی احمد حسن صاحب" تک محدود نہیں بلکہ اب تو آسمان سے عام مقابلہ کا وقت آ گیا اور جس قدر لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں جیسے "شیخ محمد حسین بنالوی" جو مولوی کر کے مشہور ہیں اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی جس نے بہتوں کو خدا کی راہ سے روکا ہوا ہے، عبد الجبار، عبدالحق اور عبدالاحد غزنوی جو مولوی عبداللہ کی جماعت میں سے ملہم کہلاتے ہیں اور شیخ الہی بخش صاحب اکائٹ جنھوں نے میرے مخالف الہام کا دعویٰ کر کے مولوی عبداللہ صاحب کو سید بنا دیا ہے اور اس قدر صریح جھوٹ سے نفرت نہیں کی اور ایسا ہی نذیر حسین دہلوی جو ظالم طبع اور تکفیر کا بانی ہے ان سب کو چاہئے کہ ایسے موقع پر اپنے الہاموں اور اپنے ایمان کی عزت رکھ لیں اور اپنے اپنے مقام کی نسبت اشتہار دے دیں کہ وہ طاعون سے بچایا جائے گا۔ اس میں مخلوق کی سراسر بھلائی اور گورنمنٹ کی خیر خواہی ہے اور ان لوگوں کی عظمت ثابت ہوگی اور ولی سمجھے جائیں گے ورنہ وہ اپنے کاذب اور مفتری ہونے پر مہر لگا دیں گے اور ہم عنقریب انشاء اللہ اس بارے میں مفصل اشتہار شائع کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

(ماخوذ از دافع بلاء، ص ۱۵ تا ۱۸ مطبوعہ ضیاء الاسلام قادیان مورخہ اپریل ۱۹۰۲ء)

طاعون کی پیش گوئی کا انجام:

قادیان میں طاعون کا آنا: مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزا کی بہت سی پیش گوئیوں کا الٹا اثر دکھانے کے

بعد اس پیش گوئی پر بھی اپنے رسالے ”الہامات مرزا“ میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ میں اس موضوع پر ان کے کہے ہوئے مضامین میں سے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ مولانا امرتسری فرماتے ہیں:

”اس پیش گوئی پر تو مرزاجی نے اپنی صداقت کا بہت کچھ مدعا رکھا ہے، رسالہ دفع البلاء میں تو اس قدر زور ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو لاکا را جاتا ہے۔“ کوئی ہے کہ وہ ہماری طرح اپنے اپنے شہر کی بابت کہے ”انہ اوی القریہ“ یہاں (قادیان میں) طاعون کیوں نہیں آتا؟ بلکہ جو کوئی باہر کا آدمی قادیان میں آ جاتا ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔“ مگر خدا کی شان کیا ہی کسی نے سچ کہا ہے

حباب بحر کو دیکھو وہ کیسا سر اٹھاتا ہے تکبر وہ بری شی ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے
چند روز تو مرزاجی نے بہت کوشش کی کہ ”قادیان“ کے طاعون کا اظہار نہ ہو مگر بکری کی ماں کب تک خیر منائے۔ آخر جب یہ امر ایسا متحقق ہو گیا کہ مرزاجی کو اپنی جان کے کلا لے پڑ گئے تو ایک اعلان جلی حرقوں میں جاری کیا جو درج ذیل ہے:

”اعلان: چونکہ آج کل مرض طاعون ہر جگہ بہت زور پر ہے اس لئے اگر چہ ”قادیان“ میں نسبتاً آرام ہے لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برعایت اسباب بڑا مجمع جمع ہونے سے پرہیز کیا جائے اس لئے یہ قرین مصلحت ہوا کہ دسمبر کی تعطیلوں میں جیسا کہ پہلے اکثر احباب ”قادیان“ میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ اس اجتماع کو بلحاظ مذکورہ بالا ضرورت کے موقوف رکھیں اور اپنی اپنی جگہ پر خدا سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس خطرناک ابتلاء سے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو بچا دے۔ (اخبار البدیع قادیان ۱۹ دسمبر ۱۹۰۲ء)

اللہ اللہ کسی دہلی زبان سے قادیان میں طاعون ہونے کا اقرار ہے، کس سوچ بچار سے لکھا گیا ہے کہ ”نسبتاً آرام“ ہے جس سے دام اقتادوں کو بالکل آرام ہی معلوم ہو مگر دانا اس نسبت کے لفظ کی نسبت کو

سمجھتے ہیں اور اس کی جانچ کرنے کو سرکاری رپورٹ میں پیش کرتے ہیں، چنانچہ قادیان کے اخبار البربر (جو مرزا جی کا ڈائری نوٹس ہے) کے نمبر ۳ پر لکھا ہے کہ:

رائے پرتاپ سنگھ نے (جو قادیان میں لوگوں کو نیکہ لگانے آئے تھے) کھانا کھا میں مرزا صاحب سے بھی کہتا مگر انھوں نے ڈھنگ بتایا ہوا ہے۔ اس لئے میں سردست ان کی خدمت میں کچھ نہیں کہتا۔ میں یہاں نہ آتا مگر چونکہ متواتر رپورٹ پہنچ رہی ہے کہ (یہاں) چوہڑوں میں طاعون ہے اس لئے آنا پڑا۔“

یہ سن کر جناب مرزا صاحب کس ناز واداسے بعد تسلیم وجود طاعون دہلی زبان سے تاویل فرماتے ہیں۔

انہ او ی القریہ میں قریہ کا لفظ ہے قادیان کا نام نہیں اور قریہ تیرا سے نکلا ہے جس کے معنی جمع ہونے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے ہیں وہ لوگ جو آپس میں مواصلت رکھتے ہیں، اس میں ہندو اور چوہڑے داخل نہیں۔ (اخبار مذکور ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء)

حالاتکہ دافع البلاء مطبوعہ ریاض ہند ص ۸ پر لکھتے ہیں: خدا نے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے۔ اب یہاں صاف ہی انکار ہے۔ خدا کی شان کہ ابھی کل ہی کا ذکر ہے کہ یوں لکھا جاتا تھا اور شور مچایا جاتا تھا کہ:

(تیسری بات جو اس وحی (معلق طاعون) سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گوستر برس تک رہے) قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ (ہے) اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔“

مولانا مرتضیٰ اس عبارت کو درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

مگر آج یہ بات کھلی کہ قادیان کا نام ہی نہیں قادیان کے رہنے والوں سے ہم نے گوش خود سنا کہ اگر مرزا یہ پیش گوئی نہ کرتا تو قادیان میں کبھی طاعون نہ آتا، جب

سے اس نے پیش گوئی کی ہے ہم نے اسی روز سے سمجھا تھا کہ ہماری خیر نہیں، خدا اس کی تکذیب کرنے کو قادیان میں ضروری طاعون بھیجے گا، ہوا ایسا ہی ہوا۔

۱۶ اپریل ۱۹۰۲ء کے اخبار البدر قادیان میں مندرجہ ذیل ایک نوٹ ایڈیٹر کی طرف سے نکلا تھا:

قادیان آریہ سماج کے دوسرے سالانہ جلسہ پر جو کہ ۲-۳ اپریل کو ہوا، سنا گیا ہے کہ یوگیندر پال صاحب نے بڑے دعوے سے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ہم بذریعہ ہون کے قادیان کو (طاعون سے) پاک و صاف کریں گے۔ سو جلسہ کا ختم ہونا تھا کہ یوگیندر پال تو کیا صاف کرتے خود طاعون نے صفائی شروع کر دی۔ اخبار اہل حدیث امرتسر مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۰۲ء کے پرچہ میں معتبر شہادت کے حوالہ سے بتلایا گیا ہے کہ مارچ اپریل ۱۹۰۲ء کے دو مہینوں میں ۳۱۳ آدمی قادیان میں طاعون سے مرے ہیں حالانکہ کل آبادی ۲۸۰۰ کی ہے۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے تمام قصبہ ویران سنان نظر آتا ہے

مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ مرزا غلام احمد قادیانی کی مندرجہ ذیل عبارت حقیقت الوحی ص ۸ سے نقل فرماتے ہیں:

طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون زور پر تھا میرالزا کا شریف احمد بیمار ہوا۔ (ماخوذ از الہامات مرزا معنفہ مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ)

مناظرہ رامپور

رامپور میں شمس ذوالفقار علی قادیانی ہو گئے تھے (جو مولانا محمد علی جوہر کے بڑے بھائی تھے) اور ان کے چچا زاد بھائی حافظ احمد علی خان شوق رامپوری جماعت حقہ کے ساتھ تھے۔ دونوں ہی نواب رامپور کے خاص ملازم تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کے قول کے مطابق ان دونوں میں بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا۔ نواب حامد علی خاں والی ریاست رامپور نے اس بحث و مباحثہ کا حال معلوم کر کے کہا کہ دونوں فریق

سرکاری خرچ پر اپنے اپنے علماء کو بلائیں، چنانچہ ۱۵ جون مناظرہ کے لئے مقرر ہوئی۔ اہل حق کی طرف سے حضرت محدث امر وہی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا حافظ محمد احمد، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہم کو مدعو کیا گیا۔ ابوالوفاء مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مناظرہ کیا، فریق ثانی کی حمایت کے لئے حکیم محمد حسن امر وہی، خواجہ کمال الدین وغیرہما رامپور پہنچے تھے۔ حضرت مولانا امر وہی نے مولانا حافظ عبدالغنی پھلاوڑی کو ایک مکتوب گرامی میں اس مناظرہ کے بارے میں یوں تحریر فرمایا تھا:

..... اس سال ایک مرتبہ دہرہ دون جانا ہوا اور پھر بھاگلپور اب ریاست رامپور میں فیما بین اہل سنت و جماعت و گروہ قادیانی مناظرہ قرار پایا ہے، رئیس (نواب) کی خواہش ہے۔ میری مشافہت میں مناظرہ ہو۔ قادیانیوں نے مولوی محمد احسن امر وہی مولوی سرور اور دو چار اور کو منتخب کیا ہے۔ ادھر سے اول میرا نام لیا گیا ہے اور مولوی محمد اشرف علی صاحب کا (اور) مولوی خلیل احمد، مولوی مرتضیٰ حسن چاند پوری کا، نیز چندرہ جون مقرر ہے۔ محل بطلب بندہ رجسٹری خط آیا ہے کہ آپ بروز پنجشنبہ دس جون کو رام پور آجاویں۔ امور ضرور یہ آپ کے سامنے طے ہونے ہیں۔ غالباً جمعہ کے بعد روانہ ہوں، میں نے مولانا محمود حسن صاحب صاحبزادہ صاحب (مولانا حافظ محمد احمد) اور مولانا حبیب الرحمن صاحب کو لکھا ہے کہ (امروہہ) جمعہ پڑھیں اور ایک ساتھ روانہ ہوں، غالباً سب حضرات تشریف لادیں۔ آپ کو ضرور یہ تکلیف دی جاتی ہے کہ دعا اور ہمت قلبی سے اعانت کریں۔

(۱۹ جمادی الاول ۱۳۲۷ھ بروز چہار شنبہ مطابق ۹ جون ۱۹۰۹ء)

اپنے دوسرے مکتوب گرامی میں اس مناظرہ میں جو نمایاں کامیابی ہوئی اس کو مولانا حافظ عبدالغنی پھلاوڑی کو یوں ارقام فرماتے ہیں:

بندہ نجیف احقر الزمن احمد حسن غفرلہ..... بخدمت جامع کمالات برادر علم مولوی

حاجی حافظ محمد عبدالغنی صاحب سلمہم بعد سلام مسنون مکلف ہے۔

..... راہپور جانے کے بعد دو شنبہ کے روز مناظرہ شروع ہوا۔ مسئلہ وفات مسیح کا مولوی محمد احسن قادیانی..... مرزائی نے ثبوت پیش کیا۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اہل اسلام کی طرف سے تحقیقی و الزامی وہ جوابات دندان شکن دیئے کہ ماشاء اللہ مجلس میں ہر خاص و عام پر محمد احسن کی مغلوبی اور مولوی ثناء اللہ کا غلبہ واضح و ثابت ہو گیا۔ اسی روز راہپور میں عام شہرت ہو گئی کہ قادیانی پسپا ہوئے مگر وہ بے غیرت اگلے روز بھی آکر زیادہ ذلیل ہوئے۔ محمد احسن کو ناقابل مان کر خود ان کے گروہ نے دوسرا مناظرہ مقرر کیا۔ وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، تیسرے روز الزامی جوابات میں بہت ذلیل ہوئے، نواب صاحب نے فرمایا یہ مسئلہ ختم ہوا اور حاضرین کو حق و ناحق معلوم ہو گیا۔ اب نبوت مرزا کا ثبوت دیجئے آمادہ نہ ہوئے اور ایک شب کی مہلت لی، شب میں یہ درخواست لکھی کہ حضور (نواب صاحب) اہل اسلام کے حامی ہیں بمقابلہ حضور ہم کو مناظرہ کرنا منظور نہیں۔ نیز مناظر اہل اسلام بد زبان ہے ہمارے مقتدا سیکہ نجات (مرزا قادیانی) کی بھاری گستاخی کرتا ہے۔ لہذا ہم کو مناظرہ کرنا کسی حال میں منظور نہیں، معاف فرمائیے۔ یہ درخواست لکھ کر بعضے شب میں ہی روانہ ہوئے اور بعضے دن میں راضی..... والحمد للہ..... (۲۸ جون

(۱۹۰۹

اب مناسب خیال کرتا ہوں کہ مناظرہ راہپور کی کچھ رویداد ہفت روزہ اخبار دبدبہ سکندری راہپور سے پیش کی جائے۔ دبدبہ سکندری کے دو پرچوں میں مناظرہ کا مختصر حال لکھا ہے۔ مفصل طور پر مناظرہ کی رپورٹ نہیں لکھی ہے۔ ایک پرچہ سے معلوم ہوا کہ حافظ احمد علی صاحب نے مناظرہ کی مکمل رویداد دبدبہ سکندری کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ بعض موانع کی وجہ سے پوری کیفیت تحریر کر کے دبدبہ

سکندری کو نہ بھیج سکے۔ ممکن ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے رسالہ اہل حدیث میں مناظرہ کے تمام انوال و کوائف شائع کر دیئے ہوں لیکن رامپور کی رضا لائبریری میں اخبار اہل حدیث کا کوئی قائل ۱۹۱۱ء سے پہلے کا نہیں ہے۔ حضرت محدث امرتسری کی ایک معرکہ الاراء تقریر بھی مناظرہ کے دوران یا اختتام پر نواب کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ اس کا بھی حاضرین پر بہت اثر پڑا تھا۔ مولانا عبدالوہاب خاں رامپوری مرحوم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں نے یہ تقریر سنی تھی۔ یہ مناظرہ قلعہ رامپور کے اندر ہوا تھا اور اندازہ ہوتا ہے کہ علاوہ خواص کے شہر کے اور بھی بہت سے تعلیم یافتہ اشخاص کو ساعت کا موقع ملا تھا۔ مناظرہ ۱۵ جون ۱۹۰۹ء کو شروع ہوا اخبار دبدبہ سکندری کے پرچوں میں اس کی جو روئداد چھپی ہے۔ اس کی تکفیس یہ ہے:

اس ہفتہ میں کئی روز حضرات علماء اسلام اور جماعت احمدیہ قادیانی میں نہایت عمدہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرہ کے محرک و مجوز جناب حافظ احمد علی خاں صاحب خفی نقشبندی مہتمم کارخانہ جات ذات خاص حضور اور نئی ذوالفقار علی خاں صاحب پرنٹرز گلہ آبکاری ریاست رامپور ہیں۔

بہت سے حضرات علماء اسلام مناظرہ میں تشریف لائے ہیں جن میں سے چند حضرات کے نام نامی یہ ہیں: (حضرت) مولانا احمد حسن امرتسری، حضرت مولانا ظلیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد ثناء اللہ صاحب امرتسری، مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی، مولانا محمد الدین صاحب امرتسری، مولانا محمد برکات علی صاحب لدھیانوی، مولوی محمد ابراہیم صاحب دہلوی، مولوی محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی، مولوی محمد سخی صاحب کاندھلوی، حاجی محمد عبدالغفار صاحب سوگند دہلی، مولوی حکیم قیام الدین صاحب جوہنپوری، مولوی محمد حامد رضا خان صاحب خفی قادری بریلوی، ڈاکٹر محمد عبدالکلیم صاحب اسٹنٹ سرجن پٹیالہ، حضرت مولانا سید محمد شاہ محدث رامپوری، مولوی عبدالغفار خاں صاحب خفی نقشبندی رامپوری، مولوی محمد لطف اللہ صاحب مفتی ریاست رامپور، مولانا محمد فضل حق صاحب رامپوری مدرس اول مدرسہ عالیہ ریاست رامپور۔

جماعت قادیانی کی طرف سے یہ اشخاص آئے ہیں:

مولوی محمد احسن صاحب امر وہی، میاں سرور شاہ صاحب، منشی مبارک علی صاحب، منشی قاسم علی صاحب، منشی محمد علی صاحب ایم۔ اے، خواجہ کمال الدین صاحب وکیل لاہور، منشی یعقوب علی صاحب ایڈیٹر الحکم قادیان، حافظ روشن علی صاحب، ڈاکٹر محمد یعقوب خاں لاہوری، شیخ رحمت اللہ سوداگر لاہور وغیرہ۔

۱۵ جون ۱۹۰۹ء حیات و ممات مسیح علیہ السلام کی بحث چلی، سب سے پہلے جماعت قادیانی کی طرف سے محمد احسن امر وہی نے ایک تحریری مضمون پڑھا۔ مولانا محمد ثناء اللہ صاحب امرتسری نے ان کے چاروں استدلالوں پر نقض قائم کر دیئے۔ مولوی محمد احسن کے بیان کی بے ربطی کا خود قادیانی جماعت نے اقرار کیا اور اس امر کو ان کی پیرائہ سالی کے سر منڈھا۔

۱۶ جون ۱۹۰۹ء کو بعد معزولی محمد احسن منشی قاسم علی نے تحریری بیان و فوات مسیح علیہ السلام پر پڑھنا شروع کیا۔ بجائے اس کے کہ مولانا محمد ثناء اللہ کے کل کے چار اعتراضات کا جواب دیا جاتا وہ ڈیڑھ گھنٹہ کی تقریر کے بعد صرف ایک اعتراض کی جانب پلٹ کر آئے۔

۱۷ جون ۱۹۰۹ء کو ناسہازی طبع کی وجہ سے نواب صاحب جلسہ مناظرہ میں نہیں آئے اور ان کی قائم مقامی چیف سکرٹری اور ریویو سکرٹری نے کی (آج) قادیانی جماعت کے مناظر سے کہا گیا کہ وہ مولانا امرتسری کے اعتراضات کا جواب دیں مگر جماعت قادیانی کی جانب سے جواب دینے میں پہلو تہی کی گئی۔

۱۸ جون ۱۹۰۹ء کو مناظرہ نہیں ہوا۔

۱۹ جون ۱۹۰۹ء کو مناظرہ ہوا۔ آج بھی قادیانی مناظر و فوات مسیح علیہ السلام کا کوئی ثبوت پیش

نہ کر سکے۔ (اخبار دہلیہ سکندری ۲۱ جون ۱۹۰۹ء)

۲۰ جون کو اہل اسلام نے کہا کہ قادیانی ثبوت و فوات مسیح علیہ السلام دینے سے گریز کرتے ہیں اور بار بار کے اصرار پر بھی عاجز ہیں۔ کل سے حضرات علماء اہل اسلام ابطال ثبوت مرزا پر گفتگو کریں تے۔ اس پر خواجہ کمال الدین نے مناظرہ سے جان بچانے کے ڈھنگ نکالے اور ہٹ دھرمی سے کام لینا

چاہا۔ بہت رد و قدح کے بعد قادیانیوں سے کہا گیا کہ وفات حضرت مسیح علیہ السلام پر آپ کو جو کچھ کہنا ہو کہیں تاکہ مسئلہ تو ختم ہو چنانچہ منشی قاسم علی نے تحریری مضمون پڑھنا شروع کیا اور اہل اسلام کی طرف سے جو نقض ان پر وارد ہوئے تھے بعض کا جواب دیا قادیانیوں کی تحریر کے ختم پر جناب مولانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر میں انھوں نے فریق مخالف کے تمام دلائل کو تار و عنکبوت کی طرح توڑ دیا۔ اسی دن قادیانیوں نے یہ لکھا کہ ہم مناظرہ کرنا نہیں چاہتے۔ الحق یعلو او لا یعلیٰ۔

اللہ تعالیٰ نے دین حق کی نصرت فرمائی اور قادیانی خائب و خاسر ۲۰ جون کی شب اور ۲۱ جون کو یہاں سے چلے گئے۔ مولانا قیام الدین صاحب بخت جو پوری نے کیا خوب تاریخ لکھی۔

قادیانی پنے احقاق حق
 احمدی کہتے ہیں اپنے کو وہ لوگ
 رام پور آئے مگر کھائی شکست
 لیکن این نسبت آنہا غلط است
 بخت نے لکھی یہ جچی تاریخ
 احمدیوں کو ہوئی فاش شکست

۱۳۲۷ھ

(اخبار دہلیہ سنکدری ۲۸ جون ۱۹۰۹ء)

اخبار دہلیہ سنکدری ۲۲ جون ۱۹۰۹ء کو ایک تحریر ”فیصلہ حضرات علماء کرام اہل اسلام در بارہ مسئلہ حیات و ممات حضرت مسیح علیہ السلام“ کے عنوان سے چھپی ہے۔ جس کے آخر میں علماء امر وہہ، مراد آباد، رامپور، بسولی، دیوبند، سہارنپور، کاندھلہ، میرٹھ، دہلی، امرتسر، سیالکوٹ، جوپور کے علماء کے دستخط ہیں۔ ذیل میں فیصلہ کی تحریر اور دستخط کنندگان کے نام لکھے جاتے ہیں۔

۱۵، ۱۶ جون ۱۹۰۹ء کو مباحثہ

بوجود گی نواب صاحب رامپور یہ مباحثہ مجمع عام میں ہم لوگوں کے سامنے تواریخ مذکورہ میں ہوا۔ جماعت اہل اسلام کی طرف سے جناب مولانا مولوی ابوالوفا محمد ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل امرتسری مناظر مقرر ہوئے (پہلے دن جماعت قادیانی کے مولوی محمد احسن صاحب نے ایک تحریر پڑھی جس پر اعتراضات ہوئے) مگر دوسرے تیسرے روز جماعت قادیانی کی طرف سے منشی قاسم علی صاحب

دہلوی نے تحریر پڑھی وقات مسیح علیہ السلام کے متعلق جتنے دلائل قادیانی جماعت کی طرف سے پیش ہوئے اسلامی مناظر نے ایک ایک کا جواب بڑی خوبی سے دیا، نمایاں طور پر حیات مسیح علیہ السلام کو ثابت کر دیا۔ فجزاہ اللہ عنا و مسائر المسلمین خیراً۔ اس بحث سے شکست خاطر ہو کر قادیانیوں کو دوسرے مسئلہ (نبوت مرزا قادیانی) پر باوجود قرارداد و وعدہ بحث کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ لہذا وہ دوسرا مسئلہ پیش کئے بغیر خود بخود چلے گئے۔ الحمد للہ علی ذلک صدق اللہ العلی العظیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً۔

(مولوی) محمد عبدالغفار رامپوری، (مولوی) محمد لطف اللہ (ابن مفتی سعد اللہ رامپوری)، (مولوی) محمد اعجاز حسین وکیل رامپوری، (مولوی) محمد فضل اللہ رامپوری، (مولوی) محمد بشیر احمد مدرس اول مدرسہ انوار العلوم رامپور، (مولوی) محمد اسلم، (مولوی) فضل حق رامپوری مدرس اول مدرسہ عالیہ رامپور، (مولوی) افضال الحق رامپوری، (مولوی) محمد نبی رامپوری، (مولوی) مرتضیٰ حسن چاند پوری مدرس مدرسہ عربیہ دیوبند، (مولوی) ابراہیم سیالکوٹی، (مولانا) محمود حسن مدرس اول مدرسہ اسلامیہ دیوبند، (مولانا) عبدالرحمن مدرس اول مدرسہ شاہی مراد آباد، (مولوی) محمود حسن سہوانی مدرس دوم مدرسہ شاہی مراد آباد، (مولانا) محمد اشرف علی تھانوی، (مولانا) احمد حسن امر وہی مدرس اول مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امر وہی، (مولوی) محمد امین مدرس مدرسہ جامع مسجد امر وہی، (مولوی) رضا حسن مدرس مدرسہ امر وہی، (مولوی) عبدالرؤف امر وہی (ابن مولانا سید رافت علی)، (مولوی) محمد شفیق احمد امر وہی، (مولوی) محمد معظم حسین امر وہی، (مولوی) محمد سلیم سکندر پوری مدرس مدرسہ عالیہ رامپور، (مولوی) سید محمد شاہ (محدث) رامپوری، (مولوی) سید حامد شاہ رامپوری، (مولوی) محمد منور علی (محدث رامپوری) مدرس درجہ حدیث مدرسہ عالیہ رامپور، (مولوی) محمد طیب ع ب، (مولوی) محمد قیام الدین جونپوری، (مولانا) محمد سمبول بھاگلپوری مدرسہ مدرسہ اسلامیہ دیوبند، (مولوی) محمد ابراہیم دہلوی، (مولوی) محمد قدرت اللہ مدرس مدرسہ شاہی مراد آباد، (مولانا) ظلیل احمد (محدث) سہارنپوری

مدرس اول مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، (مولوی) محمد عاشق الہی میرٹھی، (مولوی) محمد سبکی مدرس دوم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور (والد شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا)، (مولوی) محمد اسماعیل انصاری امر وہی، (مولوی) سید بدر الحسن امر وہی، (مولوی) سردار احمد امر وہی، (مولانا) محمد ظیل اللہ محدث مقیم رامپور، (مولوی) احمد امین مدرس دوم مدرسہ عالیہ رامپور، (مولوی) احمد نور مدرس مدرسہ عالیہ رامپور، (مولوی) غلام رسول مدرس مدرسہ عالیہ رامپور، (مولوی) صاحبزادہ محمد الطاف المعروف میاں جاں خاں رامپوری، (مولوی) معزز اللہ خاں مدرس مدرسہ عالیہ رامپور، (مولوی) محمد یوسف (مقیم رامپور)، غلام رحمانی (مقیم رامپور)، (مولوی) سید سجاد علی بسولوی (مقیم رامپور)، (مولوی) وزیر محمد خان مدرس مدرسہ عالیہ رامپور، (مولوی) محمد فضل کریم مقیم رامپور، (مولوی) دیانت حسین مقیم رامپور، (مولوی) حافظ (عبدالغفار دہلوی، (مولانا) حافظ نور الدین احمد دہلوی۔

نواب رامپور نے اس مناظرہ کا جو فیصلہ دیا ہے اس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ”صحیفہ محبوبیہ“ اور الہامات مرزا کے آخر میں درج کیا ہے۔ اس کو بھی ہمیں نقل کیا جاتا ہے:

”رامپور میں قادیانی صاحبوں سے مناظرہ کے وقت مولوی ابوالوفاء محمد ثناء اللہ صاحب کی گفتگو ہم نے سنی، مولوی صاحب نہایت فصیح البیان ہیں اور بڑی خوبی یہ ہے کہ برجستہ کلام کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنی تقریر میں جس امر کی تمہید کی اسے بدلائل ثابت کیا۔ ہم ان کے بیان سے محظوظ و مسرور ہوئے۔“

(محمد حامد علی خاں والی ریاست رامپور)

آثار شیخ الہند:

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندیؒ کی ذات والا صفات تعارف سے مستغنی ہے، آپ کی حیات مبارکہ پر متعدد کتابیں اور رسائل لکھے جا چکے ہیں جس سے آپ کی دینی، ملی، تعلیمی اور

روحانی خدمات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے ان میں سے چند مشہور کتابیں حسب ذیل ہیں:

- | | |
|--------------------------------|--|
| (۱) سفر نامہ اسیر مالٹا | مؤلفہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی |
| (۲) حیات شیخ الہند | مؤلفہ مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی |
| (۳) تذکرہ شیخ الہند | مؤلفہ مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری |
| (۴) شیخ الہند مولانا محمود حسن | مؤلفہ ڈاکٹر اقبال حسن خاں استاذ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ |
| (۵) اسیران مالٹا | مؤلفہ مولانا سید محمد میاں دیوبندی |
| (۶) تحریک شیخ الہند | مرتبہ مولانا سید محمد میاں دیوبندی |
| (۷) ذکر محمود | مؤلفہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی |

علاوہ ازیں نقش حیات مؤلفہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، علامہ حق مؤلفہ مولانا سید محمد میاں، مولانا عبید اللہ سندھی کی ڈائری اور خلافت و جمعیت کی طرف سے شائع ہونے والے خطبات و رسائل میں بھی آپ کے سیاسی اور مذہبی کارناموں کا پتہ چلتا ہے۔ قاضی محمد عدیل عباسی مرحوم کی تالیف ”تحریک خلافت“ میں بھی حضرت شیخ الہند کا ذکر خیر کئی جگہ آیا ہے جس سے حضرت کی بلند نظری، دل سوزی نیز اسلام دوستی اور انسانیت نوازی کا پورا پورا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت کی زندگی کے اب بھی بہت سے گوشے تقاضا کر رہے ہیں کہ ان پر روشنی ڈالی جائے۔ حضرت والا کے مکتوب بھی بہت کم مرتب ہو سکے ہیں اور ابھی وقت ہے کہ ہندو بیرون ہند میں حضرت کی جتنی بھی تحریریں ہیں، حضور صا مالٹا سے روانہ کیے ہوئے گرامی نامے تلاش و جستجو سے حاصل کیے جائیں۔

میں اس وقت حضرت شیخ الہند کے چھ مکتوبات ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں، یہ مکتوبات مجھے حکیم محمد عمر صاحب مراد آبادی زید محمد ہم نیرہ حکیم محمد صدیق صاحب قاسمی مراد آبادی سے ملے ہیں تھوڑی سی تشریح و توضیح اور فنٹ نوٹ کے ساتھ ان خطوط کی اشاعت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ان خطوط کو پیش کرنے سے پہلے مناسب خیال کرتا ہوں کہ حضرت کے سفر حجاز اور اسارت مالٹا کے پیدہ پیدہ واقعات

تحریر کر دیے جائیں۔

حضرت شیخ الہندؒ نے ۱۳۳۳ھ میں زیارت حرمین شریفین کا ارادہ کیا لیکن اس خیال سے کہ اگر آپ کے شاگردوں اور عقیدت مندوں کو اس سفر کی اطلاع ہوگئی تو ہزار ہا آدمی زیارت اور خدمت کے لئے حاضر ہوں گے اور ان کی یہ تکلیف آپ کو گوارا نہ تھی، اس لئے آپ نے چند خاص لوگوں کے سوا کسی پر اپنا یہ ارادہ ظاہر نہ فرمایا یہاں تک کہ روانگی میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے اور لوگوں کو کسی نہ کسی طرح خبر ہونے لگی جس کو خبر ہوتی وہ دیوبند حاضر ہوتا تقریباً روانگی سے ایک ہفتہ پیشتر روزانہ مکان پر سو پچاس مہمانوں کا ہجوم ہونے لگا اور عین روانگی کے دن سیکڑوں آدمی دیوبند اور دہلی کے درمیانی اسٹیشنوں پر بھی آکر ملنے گئے۔ دہلی کے اسٹیشن پر ایک بڑا مجمع ساتھ تھا اسی درمیان میں نہ معلوم کس نے اور کس طرح یہ شہرت اڑادی کہ مولانا ہجرت کر کے تشریف لیے جا رہے ہیں اس خیال سے بہت سے خادم بے چین ہو گئے اور حضرت سے دریافت کیا کہ کیا حضور والا ہجرت کی نیت سے تشریف لیے جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی میں نے ہجرت کی نیت نہیں کی ہے ہاں ایک سرسری خیال دل میں ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو کچھ عرصہ تک خانہ خدا کی جاروب کشی اور روضہ مطہرہ کی خاک بوسی سے مشرف رہوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ارادے اور خیال سے کب تک قیام کروں گا کیوں کہ مستقبل میں آب و ہوا کی موافقت یا مخالفت، اسباب کی مساعادت یا نامساعدت کا علم کسی کو نہیں خدا جانے کیا ہو۔

سفر حجاز میں مولانا عزیز گل صاحب الشیخ مولانا حاجی خان محمد صاحب، سید ہادی حسن خاں صاحب

آپ کا آبائی وطن زیارت کا صاحب صلح پشاور تھا۔ والد ماجد درگنی میں رہتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن کے ساتھ سے حاصل کی پھر دیوبند آئے اور دارالعلوم کے طالب علم بنے اور حضرت شیخ الہند کے خادم خاص بن گئے۔

شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ سفر نامہ امیر مانا میں آپ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:-

”مولانا عزیز گل صاحب حضرت شیخ الہند کے خادم خاص ہیں۔ (تحریک آزادی) کے مشن کے ابتداء سے ممبر رہے اور نہایت مہتمم باشند اور خطرناک کاموں کو انجام دیتے رہے، صوبہ سرحد اور آزاد علاقہ (پاکستان) میں سفارت کی خدمات عظیم انہوں نے انجام دیں۔ عموماً شیخ الہندؒ ان کو پہاڑی علاقوں میں اپنے ہم خیال اور ہم نوا لوگوں کو پاس بھیجا کرتے تھے۔ دشوار گزار اور خطرناک راستوں کو قطع کر کے نہایت رازداری اور ہمت و استقلال کے ساتھ بار بار آتے جاتے رہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

خان جہاں پوری اور مولانا وکیل احمد برادرزادہ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ ساتھ تھے۔ دہلی سے روانگی کے بعد آپ نے ایک شب وروز رستلام میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد سورت اور اس کے اطراف میں قیام فرما کر بمبئی پہنچے۔ مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوریؒ، مولانا مفتی محمد سہول صاحب بھاگل پوریؒ، مولانا مطلوب الرحمن صاحب دیوبندی، مولانا محمد میاں صاحب عرف منصور میاں نواسہ حضرت نانوتویؒ بھی بارادہ حج بیت اللہ بمبئی پہنچ گئے تھے۔ تمام قافلہ بمبئی سے حج کے لئے روانہ ہوا اور مکہ معظمہ پہنچا۔ حج سے فراغت کے بعد یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ غالباً شعبان ۱۳۳۳ھ میں شریف مکہ نے سلطان المعظم سے بغاوت کی اور مکہ معظمہ کے اطراف میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند کو ہندوستان چھوڑے ہوئے ایک سال گزر گیا تھا۔ سال بھر کے بعد جب حضرت مولانا ظلیل احمد محدث

(بقیہ سے آئے) پہاڑی علاقوں اور ہولناک جنگوں کو رات دن پیدل قطع کرتے رہے۔ حاجی ترک زنی اور علماء مرحدویا غنستان اور دیگر خزانین کو آپ نے مشن کا ممبر بنایا۔ ان کے پاس پیغام اور خطوط پہنچانا، ان کو ہموار کرنا، ان کا اور مولانا عبید اللہ (سندھی) صاحب کافر بیڑ تھا جن کو ان دونوں حضرات نے اوقات مختلفہ میں انجام دیا۔ باوجود یکہ سی آئی ڈی ان کے پیچھے لگی رہی مگر انہوں نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں دیا۔ ماننا سے واپس آکر آستانہ شیخ الہند پر مقیم ہو گئے۔ دیوبند کی خلافت کمینی کے صدر ہوئے بعدہ مدرسہ رحمانیہ رزکی میں صدر مدرس منتخب ہوئے۔ رزکی میں تقسیم ہند سے ۲ سال پہلے تک مقیم رہے۔

عبدالرحمن نامی ایک شخص نے "تحریک ریشی رومال" کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں مولانا عزیز گل صاحب اب تک حیات ہیں (فریدی) لکھا ہے۔ یہ سراسر بہتان اور نفاذ ترسانہ افتراء ہے۔ ایران ماننا میں سے صرف مولانا عزیز گل صاحب اب تک حیات ہیں (فریدی)

جب یہ مضمون لکھا گیا تھا تو مولانا عزیز گل صاحب بقید حیات تھے۔ تحریک شیخ الہند کی آخری یادگار، مجاہد حریت کا ۱۳۰۷ھ مطابق ۱۳۱۰ھ مطابق ۱۵ نومبر ۱۹۸۹ء کو اپنے وطن "میاں گاؤں کیل" سکاوت آزاد قبائل پاکستان میں وصال ہو گیا۔ (محبت الحق)

مولانا وحید احمد مدنی ابن مولانا سید صدیق احمد مدنی فیض آبادی مہاجر مدینہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے برادرزادے تھے۔ آپ بھی ایران ماننا میں سے ایک نوجوان امیر تھے۔ مولانا سید محمد میاں رقم طراز ہیں۔ حافظ ذوقی تھا۔ ماننا میں اور ماننا کے ماہوہ جن ساتھیوں کے ساتھ رہنا ہوا ان کی زبان سیکھی۔ عربی اور اردو وادری زبانیں تھیں، فارسی اور انگریزی سہل حاصل کیں۔ ذوقی، فرانسیسی ماننا کے مصاحبین سے پشتو، بلکہ اور کچھ اور سری زبانیں انہاں کی مجلسوں میں۔ ان طرح نعت زبان نہیں بلکہ شاید وہ (۱۰) زبان ہو گئے تھے۔ ماننا سے واپس ہو کر ہندوستان کی سکونت اختیار کرنی۔ "رسالہ جمیل مظہر" کے مدیر رہے۔ ۱۰۰ اطولم و اعظم میں مبین مدرس ہوئے۔ تحریک آزادی ہند میں پورا پورا حصہ لیتے رہے۔ آخر میں مدرسہ عربیہ بیجاں کے صدر مدرس ہوئے۔ اپنے آبائی وطن تانڈہ ضلع فیض آباد میں ۳۵ سال کی عمر میں ۱۹۳۸ء میں انتقال ہوا۔ (ایہ ان کا ۱۹۶۶ء) (فریدی)

سہارنپور میں ہندوستان لوٹے تو نئی تال میں ان کو نظر بند کر دیا گیا، اور وہاں ان سے بیانات لئے گئے۔ ان کے علاوہ مولانا مسعود احمد صاحب جو حضرت شیخ الہند کے داماد اور بھانجے تھے الہ آباد بھیج دئے گئے۔ وہاں ان کو ایک مہینہ تک روکا گیا اور ان سے بیان لیا گیا۔ مولانا حافظ محمد جلیل صاحب کیرانوی کو دیوبند سے پولیس افسر آکر لے گیا اور ان سے بیان لیا گیا۔ ان کے علاوہ حکیم عبدالرزاق صاحب انصاری، مولانا محمد شفیع صاحب مدرس مدرسہ عبدالرب دہلی (داماد حضرت شیخ الہند) مولانا حکیم محمد حسن صاحب (برادر حقیقی حضرت شیخ الہند) مولانا محمد حسن صاحب (برادر حقیقی حضرت شیخ الہند) مولانا ظہور محمد صاحب مدرس مدرسہ رڑکی، مولانا محمد حسین صاحب (راندر) حافظ امداد حسین صاحب (رڑکی)، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری، قائم مقام صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی مدرس دارالعلوم، حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری، مولانا نواب محی الدین احمد خاں فاروقی مراد آبادی قاضی بھوپال سے بھی بیانات لئے گئے۔

حضرت مولانا کی اہلیہ محترمہ اور صاحبزادیوں کے بیانات بھی ایک افسر نے حضرت شیخ الہند کے مکان پر حاضر ہو کر لئے۔ اس سلسلے میں جن حضرات کی خانہ تلاشی لی گئی وہ یہ ہیں:- حکیم عبدالرزاق صاحب انصاری دہلی، حاجی احمد مرزا فونوگر افر دہلی، سید نور الحسن صاحب رئیس تھیرٹی ضلع مظفر نگر، سید ہادی حسن صاحب خان جہانپور ضلع مظفر نگر، مولانا محمد حسین صاحب راندر، مولانا احمد اللہ صاحب پانی پتی (جن کو نظر بند بھی کر دیا گیا تھا) مولانا عبدالحنان صاحب کی بھی خانہ تلاشی ہوئی اور بیان لے کر نظر بند رکھا گیا ادھر نظر بندی اور اٹلہارو بیان کا سلسلہ جاری تھا، ادھر شریف مکہ کو انگریزوں نے آ کر بنا کر حضرت شیخ الہند کو مع ہمراہیان گرفتاری کا حکم دیا اور جدہ بلا لیا حضرت مولانا کی گرفتاری کے بعد مکہ کے تمام مسلمان بے چین ہو گئے اور سرکردہ مسلمانوں کا ایک وفد شریف مکہ کے پاس پہنچا کہ مولانا کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ شریف مکہ نے جواب میں کہا کہ مولانا کو انگریز گورنمنٹ نے طلب کیا ہے اور وہ اسی کی رعایا ہیں اسی لیے ہم ان کو گورنمنٹ انگریزی کے حوالے کیے دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں کہا گیا

کہ مکہ معظمہ کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کسی بااختیار مسلمان حاکم نے مکہ معظمہ سے کسی کو گرفتار کر کے کسی غیر مسلم حکومت کے حوالے کیا ہو اگر آپ نے ایسا کیا تو تاریخ عرب کے اوراق میں قیامت تک حرم خداوندی کی توہین آپ کی طرف منسوب رہے گی۔

حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے مع ہمراہیاں جدہ بھیجا گیا اور وہاں سے قاہرہ (مصر) روانہ کر دیے گئے۔ اور قاہرہ سے جزیرہ مالنا (یورپ) میں جنگی قیدیوں کی کیمپ میں رکھے گئے۔ مالنا سے جو خطوط آپ بھیجتے تھے ان پر سسر کی مہر ضرور ہوتی تھی، اور خط روانگی سے بیس پچیس دن کے بعد ہندوستان پہنچتا تھا اسم گرامی کے ساتھ حضرت مولانا نمبر ۲۳۱۹ تحریر فرماتے تھے جو اسیری نمبر ہوگا۔

حضرت شیخ الہند کی گرفتاری صفر ۱۳۳۵ھ میں ہوئی یہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان کے حجاج واپس آچکے تھے۔ قاہرہ سے خط آنے کے بعد گرفتاری کی خبر بجلی کی طرح پھیل گئی اور عوام و خواص میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی، چنانچہ اخبارات میں مضامین کا سلسلہ شروع ہوا اور استفسارات و مطالبات غرض مختلف قسم کے مضامین شائع ہوئے خاص طور پر مندرجہ ذیل اخبارات نے اس بارے میں مضامین لکھے۔ صداقت کلکتہ، جمہور کلکتہ، نئی روشنی الہ آباد، مساوات الہ آباد، مشرق گورکھپور، ہمد لکھنؤ، مدینہ بجنور، الکلیل بجنور، خطیب دہلی، الصباح لاہور، (ماخوذ از مختصر سوانح شیخ الہند و حالات اسیری شائع کردہ انجمن نظر بندان اسلام، دہلی)

سید محبوب رضوی مرحوم مؤلف تاریخ دارالعلوم دیوبند نے حضرت شیخ الہند کے بارہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا اقتباس مندرجہ ذیل ہے۔

۱۳۳۳ھ کا پورا سال حرمین شریفین میں گذرا۔ اوائل ۱۳۳۵ھ میں واپسی متوقع تھی کہ اچانک معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند کو برطانوی گورنمنٹ نے شریف حسین کے ذریعہ گرفتار کر دیا اور قاہرہ اور پھر مالنا بھیج دیا۔ اس افسوس ناک حادثہ سے ہندوستان کے مسلمانوں اور دارالعلوم دیوبند اور حضرت کے متوسلین کو خصوصاً قلق و اضطراب ہونا لازمی تھا۔ دارالعلوم دیوبند اور مسلمانوں کی جانب سے حضرت کی رہائی کے لئے ہر ممکن سعی کی گئی اور کوئی موخر طریقہ اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھا گیا مگر بے نتیجہ رہا۔ ۶ نومبر ۱۹۱۷ء کو

علمائے دارالعلوم دیوبند کا ایک مقتدر وفد بسرکردگی حضرت مولانا حافظ محمد احمد ہتھم دارالعلوم دیوبند، صوبہ متحدہ کے گورنر سے ملا اور تحریری عرضداشت پیش کی، مگر سوائے زبانی اظہار ہمدردی کے آخر تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ حضرت شیخ الہندؒ کو مالٹا میں جنگی قیدیوں کے ساتھ سواتین سال تک نظر بند رکھا گیا۔

۲۲ جمادی الآخر ۱۳۳۸ھ کو حضرت شیخ الہندؒ اپنے رفقاء کے ساتھ فوجی مگرانی میں مالٹا سے ہندوستان کے لئے روانہ کئے گئے۔ سیدی بشر اور سوزین میں رکھا گیا۔

۵ رمضان المبارک کو سوزین سے بمبئی کے لئے روانگی ہوئی۔ ۲۰ رمضان کو جہاز بمبئی پہنچا، بمبئی کی خلافت کمیٹی نے نہایت پر جوش استقبال کیا۔ ۲۳ رمضان تک بمبئی میں قیام فرما کر ۲۵ رمضان کو دہلی تشریف لائے۔ ۲۶ رمضان کی صبح کو دہلی سے دیوبند کے لئے روانگی ہوئی اور نوبے اسٹیشن دیوبند پر روک فرمایا۔ راستہ میں مشتاقان زیارت کا بے پناہ ہجوم اسٹیشنوں پر تھا۔ دیوبند کے اسٹیشن پر پہنچے تو ہجوم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حضرت شیخ الہندؒ تشریف آوری کی نسبت روداد میں درج ہے کہ اس سال کے سب سے مبارک اور روشن حالات میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کا قریب پانچ سال کی غیبت کے بعد مصر، قاہرہ، اور اس کے بعد جزیرہ مالٹا میں نظر بندی کا زمانہ گزار کر مراجعت فرمائے۔ ہندوستان اور اپنے وطن خاص دیوبند میں رونق افروز ہوتا ہے۔ دیوبند میں جس خلوص، جوش اور مسرت کے ساتھ شاندار استقبال ہوا اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کی آنکھوں نے وہ مبارک نقشہ دیکھا ہے۔ اسٹیشن پر اولاً حضرت مدرسہ میں تشریف لائے۔ دارالحدیث کے سب سے بڑے غیر مستقف کمرے میں تخت پر تشریف فرما ہوئے اور ہر طرف مشتاقان زیارت حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا اور تمام مجمع نے دیر تک دعا مانگی۔ اس کے بعد مولانا مدرسہ کے دارالمشورہ میں تشریف فرما ہوئے اور یہاں پر تھوڑی دیر قیام فرمایا اور یہاں سے مکان تشریف لے گئے۔

۱۳۳۹ھ شروع ہی ہوا تھا کہ ربیع الاول میں حضرت ممدوح کی وفات کا قیامت خیز سانحہ پیش آ گیا مالٹا سے واپسی پر چند ضروری اسفار پیش آ گئے عید الاضحیٰ ۱۳۳۸ھ کے بعد سے علالت کا سلسلہ شروع

ہو گیا تھا۔ دیوبند کے اطباء کا علاج ہوتا رہا جن میں آپ کے برادر خورد حکیم محمد حسن صاحب بھی تھے اس زمانہ علالت میں علی گڑھ کا ایک وفد اس غرض سے حضرت کی خدمت میں آیا تھا کہ جامعہ ملیہ کا افتتاح آپ کے ہاتھوں سے کرایا جائے۔ خدام اور متوسلین آپ کے مرض کی شدت کی وجہ سے سفر کے لیے مانع تھے لیکن آپ نے گوارہ نہ فرمایا کہ علی گڑھ کے ان حضرات کی عرضداشت کو رد فرمادیں اس حال میں کہ کروٹ تک خود نہ لے سکتے تھے عازم سفر ہو گئے متعدد خدام ساتھ ہوئے۔ علی گڑھ کے سفر میں انضمام لال بڑھ گیا اور دیوبند پہنچنے کے بعد حالت زیادہ تشویشناک ہو گئی، بالآخر دہلی پہنچایا گیا۔ حکیم محمد اجمل خاں صاحب اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم نے علاج شروع کیا۔ یوم وفات سے ایک دن پہلے اطلاع ملی کہ طبیعت زیادہ علیل ہے۔ دیوبند کے بہت سے حضرات دہلی پہنچ گئے۔ ۱۸ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ یوم شنبہ کو ڈاکٹر انصاری کی کوششی، واقع دریا گنج میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ جنازہ دیوبند لایا گیا۔ راستہ میں بڑے بڑے ایشیئنوں پر بڑی بڑی جماعتوں نے نماز۔ جنازہ پڑھی اگلے دن صبح کو دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں نماز جنازہ ادا کر کے بہ ہزار غم و الم اس محفینہ، علم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نور اللہ مرقدہ!

مولانا سراج احمد صاحب رشیدی مدرس دارالعلوم کا لکھا ہوا قطعہ تاریخ وفات درج ذیل ہے:

لوح محفوظ پہ ہے ثبت دوام محمود
شاہد عدل ہے تاثیر پیام محمود
راہ حق میں ہی اٹھا جب اٹھا گام محمود
واہ، واہ صلی علی ثرب مدام محمود
واقعی زندہ جاوید ہے نام محمود
موت ہے؟ یقظ ہے؟ یا ہے یہ منام محمود
خلد اعلیٰ طرب افزا ہے مقام محمود

کیا کبھی مرتے ہیں اللہ پہ مرنے والے
آپ مامور من اللہ تھے بہر تبلیغ
پنے دنیائے دنی ایک قدم بھی نہ اٹھا
دور تھا ساغر تحدیث کا ہر شام و پگاہ
ان کے شاگرد ہیں پھیلے ہوئے دنیا بھر میں
بولتے کچھ نہیں اور لب پہ تبسم ہے عیاں
سال رحلت یہ ہوا غیب سے دل میں القاء

اب میں حضرت شیخ الہند کے چھ غیر مطبوعہ مکتوبات پیش کرتا ہوں۔ ان میں پہلا مکتوب مولانا حکیم محمد صدیق قاسمی مراد آبادی کے نام ہے جو ۲۰ اپریل ۱۹۱۱ء کو مراد آباد پہنچا ہے۔ اس خط کی روانگی انبالہ سے ہوئی ہے دیوبند میں لکھا گیا ہے۔ معلوم نہیں کس مصلحت سے ایسا کیا گیا ہے اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے لیکن انبالہ اور پٹنہ حضرت کی مجاہدانہ مساعی کے دو مرکز تھے۔

دوسرا مکتوب گرامی نواب محی الدین احمد خاں فاروقی مراد آبادی، قاضی بھوپال متوفی ۱۳۳۷ھ کے نام ہے جو نواب عظمت اللہ خاں کی نسل سے تھے اور حضرت نانوتوی کے شاگرد رشید تھے اور جن کا خاندان ہجرت ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے مظالم کا شکار ہوا تھا۔ جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں اور اس خاندان کے چند افراد کو تختہ دار پر بھی چڑھایا گیا تھا، گورنمنٹ برطانیہ کی سی آئی ڈی نے بھی اپنی رپورٹ میں نواب صاحب کا ذکر کیا ہے۔ نواب محی الدین خاں فاروقی مراد آبادی کو یہ خط ۱۳ اگست ۱۹۱۳ء کو دیوبند سے لکھا گیا ہے جو ۱۶ اگست ۱۹۱۳ء کو بھوپال پہنچا ہے۔ اس مکتوب گرامی میں ریڈیہ بھوپال اور ششی منصب علی کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر حجاز کے عنوان سے جو سفر درپیش ہے اس سلسلے کی ایک کڑی نواب محی الدین خاں فاروقی مراد آبادی بھی ہیں اور ان کے عہدہ قضا سے بھی اس معاملہ میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس مکتوب کا آخری جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت کو اس زمانے میں اپنے پروگرام کی بڑی فکر تھی اور اس میں گویا مستغرق تھے۔ کہیں جانا چاہتے ہیں مگر نہیں جاسکتے، وہ یاغستان ہو، حجاز مقدس ہو یا استنبول ہو، صرف دیوبند میں ہوں، یہ جملہ بہت ہی معنی خیز ہے۔

تیسرا مکتوب گرامی مولانا حکیم محمد صدیق قاسمی مراد آبادی کے نام ہے جو فارسی زبان میں ہے۔ یہ ۱۳ اپریل ۱۹۱۵ء کو دیوبند سے بھیجا گیا ہے جو ۱۵ اپریل ۱۹۱۵ء کو مراد آباد پہنچا ہے۔

چوتھا مکتوب گرامی بھی نواب محی الدین احمد خاں فاروقی مراد آبادی کے نام ہے یہ مکتوب بھی بہت اہم ہے، یہ ۲۵ ستمبر ۱۹۱۵ء کو عدنان کے ڈاکخانہ سے چلا ہے اور بمبئی میں اس پریسنگری مہر لگائی گئی ہے۔ یہ خط ۶ اکتوبر کو شاہجہاں آباد بھوپال پہنچا ہے۔ اس خط کے آخر میں حضرت نے اپنا نام تحریر نہیں

فرمایا ہے اور کارڈ کی شکل میں بھیجا ہے۔ پھر بھی سینروالوں نے اس خط کو بھانپ لیا ہے۔ غالباً مولانا عزیز گل کے نام سے کچھ سراغ مل گیا ہے۔

پانچواں مکتوب گرامی مالٹا سے روانہ کیا گیا ہے۔ یہ خط ذی الحجہ ۱۳۳۶ھ کو تحریر فرمایا گیا ہے۔ سرکاری لفافے پر جو مہرں ہیں ان کی تاریخ پڑھنے میں نہیں آئی۔ اس مکتوب کو بھی فرانسیسی زبان میں سینر کیا گیا۔ اس پر پتا حسب ذیل ہے۔

”شہر مراد آباد۔ محلہ بانس منڈی۔ مکان نواب شہیر علی خاں صاحب مرحوم بملا حظہ گرامی مکرئی رشید الدین خاں صاحب دام فیضہم“

رشید الدین خاں صاحب، نواب محی الدین احمد خاں فاروقی کے صاحبزادے تھے۔ کسی مصلحت سے یہ خط بجائے باپ کے بیٹے کے نام لکھا گیا ہے۔ یہ مکتوب گرامی بھی بہت اہم اور تاریخی ہے اور جامعیت کا ایک مرقع ہے۔

چھٹا مکتوب گرامی مالٹا سے واپس آ کر ہمشیرہ عبدالقادر کو مراد آباد بھیجا گیا ہے۔ اس مکتوب میں فتح پور کا ذکر ہے۔ حکیم نصرت حسین کوڑہ جہاں آباد ضلع فتح پور کے رہنے والے تھے اور حضرت شیخ الہند کی اسارت مالٹا کے رہتے تھے۔

حضرت شیخ الہند نے رمضان المبارک کے آخر میں دیوبند پہنچ کر عید کے بعد یہ سفر کیا اس سفر سے مقصود حکیم نصرت حسین کے اعزاز اور متعلقین کو تسلی دینا تھا۔

(مکتوب اول)

مخدوم و مظالم زید مجدکم۔ بندہ محمود سلام مسنون کے بعد متمس ہے۔ یہاں بھی مرض موجود ہے اور سب طرف سے مرض کی خبریں آرہی ہیں، دعا فرمائیں خاں صاحب سلمہ کا حال جب سے آیا ہوں حکیم محمد صدیق صاحب مراد آبادی کی بیٹی صاحبزادی تھیں۔ حکیم صاحب کے ایک صاحبزادے محمد احسن صاحب کی معرفت عبدالقادر تھی۔ اسی بنا پر پتہ میں انھیں ہمشیرہ عبدالقادر لکھا ہے۔ یہ خاتون حضرت شیخ الہند سے بیت تھیں۔ (فریدی)

غالباً نواب محی الدین خاں فاروقی مراد ہیں۔ (فریدی)

معلوم نہیں ہوا امید کہ ان کی خیریت اور کیفیت سے جلد مطلع فرمایا جاؤں۔ سب کو سلام والسلام فقط بندہ محمود غنی عنہ دیوبند، جمعہ پتہ اس طرح تحریر ہے:

مراد آباد محلہ بقیا بعالی خدمت مخدومی جناب مولانا حکیم محمد صدیق صاحب سلمہ مشرف باد، یہ خط یکم اپریل ۱۹۱۱ء کو انبالہ سے چلا ہے اور ۲۲ اپریل کو مراد آباد پہنچا ہے۔

(مکتوب دوم)

الحمد و المآثر ممد فیوضکم السلام علیکم۔

کل جناب کا خط پہنچا۔ آج دوسرا والا نامہ مولوی محمد فاروق صاحب کا لکھا ہوا موصول ہوا۔ ریسیہ سیانسی منصب علی صاحب کا کوئی خط نہیں پہنچا کئی روز ہوئے ایک خط بندہ نے جناب کی خدمت میں اس کے متعلق روانہ کیا تھا معلوم نہیں وہ پہنچا یا بیچ ہی میں رہ گیا۔ مخدوما! کتاب معلوم کی بابت ایک تو یہ امر ہے کہ یہ کتاب صحیح قابل اشاعت ہے یا غلط اور تکلف کرنے کے لائق ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ اس کے دو چار موقع دیکھ کر جو بالکل خلاف احکام شرع ہیں اور یقیناً اس میں موجود ہیں، اس کے اختفاء اور عدم اشاعت کا حکم لگا دیا جاوے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اول سے آخر تک اس کی اصلاح اور صحیح کی جاوے تو یہ قصہ طویل اور محض بے سود اور سخت دشوار ہے شاید نئے سرے سے تالیف اس سے بہل ہو۔ تو ایک تو یہ انبالہ میں مولانا محمد بین دیوبندی ایک مسجد کے خطیب تھے، غالباً انھیں سے ملنے کے لئے حضرت شیخ الہند تشریف لے گئے ہوتے۔ تحریک شیخ الہند میں ان کے متعلق گورنمنٹ برطانیہ کی سی آئی ڈی کا بیان یہ ہے،

”جنود رہائی کی فہرست میں کرا ل ہے اگرچہ وہ مولوی ظلیل احمد کامریہ ہے لیکن مولانا محمود حسن کے عرب جانے سے چند ماہ پہلے ان کا سخت معتقد ہو گیا اس کی سازش کا ایک رکن بن گیا، دیوبندی خفیہ میٹنگوں میں شریک ہوا کرتا تھا، مولانا محمود حسن کے سفر حجاز کے لئے میرٹھ، دہلی، راند، برکلت، رنگون وغیرہ سے روم حج کی (تحریک شیخ الہند ۳۵۶) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے سفر حجاز سے بہت پہلے انگریزوں کے خلاف اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ صاحبزادہ مولانا حکیم محمد صدیق صاحب مراد آبادی۔ سی ریسیہ سے مراد سلطان جہاں بیگم والیہ بھوپال ہیں، جو قاضی نواب محمد الدین خاں فاروقی مراد آبادی کے واسطے سے مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیعت تھیں۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون سی کتاب ہے

قصہ طے اور معلوم ہونا چاہیے دوسرے اس کام کے مناسب اور ہر طرح مفید اپنے جماعت کے اور حضرات ہیں ان کو اس کام میں بشارت ضروری ہے آپ جیسے سلیم الصدر کی خدمت میں اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ اس کام کو احقر کی سپرد کرنے میں خدشات محقرہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دیوبند میں سے میں کسی کی شرکت میں کام کرنے سے مجبور و معذور ہوں۔

اگر مولوی اشرف علی صاحب وغیرہ کسی کو لے کر مولوی حبیب الرحمن کو متعین و کار پرداز کر دیا جائے تو سبحان اللہ نہایت ہی سہل صورت ہے، اور میں ایسے درجہ میں پہنچ گیا ہوں اور وقتاً فوقتاً پہنچتا جا رہا ہوں کہ کسی کام کی شرکت میں ہرگز مستقل نہیں ہوں صرف دیوبند میں ہوں، یہی تعجب ہے۔ مولوی محمد حسن صاحب کو سلام۔ والسلام فقط۔ بندہ محمود

(مکتوب سوم)

ذوالحجہ والاکرم دام ظلکم۔ بندہ محمود پس از تسلیمات مسنونہ عرض می نماید۔

نامہ سامی سرمایہ اعر از شد حالت ضعف جناب پر ظاہر است کہ گنجائش سیر و سفر ندارد۔ حق سبحانہ برحمت خود ذات سامی راتادیر از حوادث دہر محفوظ داشته بر سر نیاز مندان سایہ گستر دارد۔

اصحاب مدرسہ بخیر مستند مکرمی امیر شاہ خان صاحب سے چہار روز گذشت کہ بہ میرٹھ رفتہ بودی

فرمود کہ از میرٹھ بہ مراد آبادی رسم غالباً بخندمت رسیدہ باشند ورنہ عنقریب می رسند بہ مولوی محمد حسن صاحب مراد آباد میں اس نام کی دو مشہور شخصیتیں تھیں ایک مولانا قاضی محمد حسن ساکن محلہ مغل پورہ، جو نواب محی الدین خاں فاروقی کے بعد قاضی بھوپال رہے اور دہلی ہند کی مجلس شوری کے رکن تھے دوسرے مولانا محمد حسن ساکن محلہ نواب پورہ تھے یہ دونوں حضرت گنگوہی سے بیعت تھے۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا حکیم صدیق مراد آبادی نے حضرت شیخ الہند کے ساتھ سفر جازا کا ارادہ کیا ہو گا ان کے مسلسل ضعف و نقاہت اور نامیرائی کو پیش نظر رکھ کر حضرت نے یہ حجاب لکھا ہے۔ ۳۱ امیر شاہ خاں صاحب اکابر دیوبند سے گہرا تعلق رکھتے تھے اور انکی دکایات بھی بہت یاد تھیں حضرت مولانا قاضی نے ان سے نقل کی ہوئی روایتوں کو جمع کر کے "امیر البروایات" کے نام سے شائع کر دیا ہے گو رنٹ برطانیہ کی سی آئی ڈی نے انکے متعلق یہ الفاظ تحریر کیے ہیں کہ "امیر شاہ خاں کنوریات علی خاں رئیس مینڈھو کا ملازم ہے جہدہ کے بعد کے واقعات بیان کرتے ہوئے عبید اللہ (سندھی) نے جو لکھا ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے"

تحریر شیخ الہند ص ۳۹۳

سلام برساند معلوم نیست کہ تا کے مقیم وطن باشند۔ بہ جملہ متعلقین سلام از من برسد۔ والسلام فقط بندہ محمود عفی عنہ، (دیوبند سہ شنبہ)

(ترجمہ اردو) ذوالحجہ والاکرم دام ظلکم بندہ محمود وپس از تسلیمات مسنونہ عرض کرتا ہے کہ گرامی نامہ باعث اعزاز ہوا جناب کی ضعیفی بالکل ظاہر ہے وہ گنجائش سیر و سفر نہیں رکھتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ذات والا صفات کو تادیر حوادث زمانہ سے محفوظ رکھ کر ہم نیاز مندوں کے سروں پر سایہ گستر رکھے اصحاب مدرسہ (دیوبند) خیریت سے ہیں۔ کرمی امیر شاہ خان صاحب تین چار روز ہوئے میرٹھ گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرٹھ سے مراد آباد پہونچوں گا۔ غالباً وہ آپ کی خدمت میں پہونچے ہوں گے۔ مولوی محمد حسن کو میرا سلام پہونچادیں معلوم نہیں کہ وہ کب تک مقیم وطن (مراد آباد) رہیں گے میری طرف سے تمام متعلقین کو سلام پہونچے۔ والسلام فقط بندہ محمود دیوبند سہ شنبہ

(مکتوب چہارم)

مطاع معظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

حضرت سے رخصت ہو کر مع الخیر ”عدن“ کے کنارہ آنگام سب رفقاء خیریت سے ہیں مولوی محمد حسن صاحب، مولوی محمد فاروق صاحب اور سب حضرات سے سلام مسنون عرض کر دیجیے مولوی سعید الدین صاحب سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس ہے عرصہ سے ملنا نہیں ہوا۔ ان سے سلام فرمادیں اور فرماد دیجیے کہ چلنا ایسے وقت قرار پایا کہ کوئی صورت ملنے کی نہ ہو سکی میرے سب رفقاء سلام عرض کرتے۔ گورنر یو پی نے مرکزی حکومت کے واسطے سے عدن کے گورنر کو تار دیا کہ مولانا محمود حسن کو جہاز سے اتار لو مگر تار دینے والے ڈاکٹر انصاری کے آدمی تھے انھوں نے تار دینے میں اتنی تاخیر کر دی کہ جہاز عدن سے روانہ ہو گیا پھر جہاز کے کپتان کو تار دیا گیا کہ مولانا کو جہاز پر گرفتار کرو جہاز سے اترنے نہ دو۔ لیکن اس وقت گورنمنٹ جہاز کا انتظام یہ تھا کہ ”جہاز“ پہنچنے سے پہلے تمام حجاج کو ”جزیرہ سعد“ میں اتار لیا جاتا تھا اور وہاں سے مکہ معظمہ پہنچایا جاتا تھا یہ تار کپتان کو اس وقت ملا کہ حضرت شیخ الہند عام حجاج کے ساتھ جزیرہ سعد میں اتر چکے تھے بہر حال گرفتاری کی کوششیں پیچھے پیچھے تھیں اور حضرت شیخ الہند اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آگے آگے اسی طرح محفوظ ہو کر مکہ معظمہ پہنچ گئے (امیران مانا بحوالہ نقش حیات) (فریدی)

ہیں جناب کو معلوم ہے کہ میرا چلنا ایسی جگت میں ہوا کہ امور ضروریہ متعلقہ کا بندوبست پورا نہیں کر سکا اور ادھر دل چاہتا ہے کہ ہو سکے تو کچھ دن عرب میں گزار دوں اس لیے جناب میرے امور متعلقہ پر نظر فرما کر اگر کسی ذریعہ سے مجھے اطلاع دے سکیں تو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ میں یہ بات طے کر سکوں کہ عرب میں رہنے کی مجھ کو گنجائش ہے، یا مجھ کو جلد واپس ہو کر اپنے متعلقہ امور کی خبر لینی ضروری ہے آپ کی توجہ سے یہ بات حل ہو سکے تو بہتر ہے اور جناب بھی اپنے احوال سے مطلع فرمادیں تو موجب اطمینان ہو۔ ”عزیر گل“ سلام کے بعد طالب دعا ہیں مولوی سہول صاحب کا سلام۔

والسلام فقط

ہماری ہے:- ”ہندوستان، بھوپال ریاست خاص شاہجہان آباد، بخدمت عالی حضرت قاضی صاحب دام مجدم“۔

(مکتوب پنجم)

نامہ مبارک از مالنا

عزیزم عالی قدر والا شان دام لطفکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ

بندہ معہ جملہ رفقاء کرام اللہ کے فضل اور احباب کی دعا سے اس بعید و بغیض دیار میں خیریت اور

عافیت سے ہے..... والحمد لله ثم الحمد لله..... مختلف اصحاب کے خطوط بندہ کے

پاس آتے رہتے ہیں جن سے مکرمین اصحاب کی خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے مگر مراد آباد سے کسی صاحب کا

کوئی خط نہیں آیا اور نہ کسی نے اپنے خط میں ان کی خیریت تحریر کی اس لیے آپ حضرات کی خیریت معلوم

ہونے کا بہت انتظار رہتا ہے۔ مجبور ہو کر آپ کو تکلیف دیتا ہوں دیوبند سے برابر خطوط آتے رہتے ہیں مگر

۱۔ مفتی محمد سہول صاحب بھاگپوری، حضرت شیخ الہند کے شاگرد اور حضرت گنگوٹی کے مرید تھے۔ تذکرۃ الرشید میں بھی آپ کا ذکر آیا

ہے کہ حضرت گنگوٹی نے کثرت سوال کی وجہ سے آپ کو سوال فرمایا۔ سی آئی ڈی کی رپورٹ میں ہے مولوی محمد سہول نے دیوبند میں

مولانا محمود حسن سے تعلیم حاصل کی وہ مولانا رشید احمد گنگوٹی کا مرید تھا، تحصیل درس کے بعد مولوی سہول نے دیوبند کے مدرس میں چند

سال تک مدرس کی حیثیت سے کام کیا جس کے بعد وہ مدرس عالیہ عربیہ کلکتہ کے اساتذہ میں شامل ہو گئے جہاں اب وہ ستمبر ۱۹۱۵ء

جس ستمبر ۱۹۱۵ء میں مولانا محمود حسن کے مدرس عربیہ پلے گئے تھے (تحریک شیخ الہند)۔ (فریدی)

کسی نے آپ صاحبوں کا کچھ تذکرہ نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس عرصہ میں آپ کے یہاں سے کوئی دیوبند نہیں گیا۔ چند ماہ گزرے ایک خط ہندوستان سے میرے پاس پہنچا خط اور طرز تحریر نیا تھا۔ شبہ ہوا کہ یہ خط کسی صاحب نے مراد آباد سے بھیجا مگر کوئی امریقین دلانے والا نہ تھا۔ بہر حال اب آپ کو لکھتا ہوں کہ اپنی اور اپنے جمیع متعلقین کی خیریت سے مطلع فرمائیں اور سب کی خدمات میں درجہ بدرجہ سلام مسنون فرمادیں رخصتا و شجاع کیا پڑھتے ہیں۔ خدا کرے خیریت سے ہوں۔ مدرسۃ الغرباء میں مہتمم اور اساتذہ کی خدمت میں سلام۔ مدرسہ امدادیہ میں اگر کوئی مدرس بندہ کے واقف بھی ہوں اور بندہ کو یاد دلانے سے کچھ بھی جائیں تو سلام عرض کر دینا اور جملہ واقفین میں جس کو چاہو سلام پہنچا دینا میرے رفقاء آپ کی اور سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔

والسلام فقط محمود حسن ۲۲۱۹ ذی الحجہ ۱۳۳۶ھ (مطابق ۱۹۱۷ء)۔ مالٹا سینٹ کیمینٹ برکس

(مکتوب ششم)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

تمہارا خط پہنچا، نہایت مسرت ہوئی اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ سب کی خدمت میں میرا سلام درجہ بدرجہ پہنچا دیتا۔ مجھے عید کی دوسری تاریخ کو فتح پور پہنچانے کی ضرورت تھی، اس لئے نواب محی الدین خاں فاروقی مراد آبادی کے بڑے لڑکے نواب معز الدین خاں تھے، نواب معز الدین خاں کے لڑکے کا نام معز الدین عرف رضامیاں تھا، نواب رشید الدین خاں، نواب محی الدین خاں فاروقی کے چھوٹے صاحبزادے تھے انکے دولا کے تھے ایک شجاع میاں اور دوسرے سلطان میاں (ماخوذ از مکتوب مولانا صلاح الدین نبیرہ مولانا محمد صدیق قاسمی مراد آبادی) مع ”مدرسۃ الغرباء“ مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد کا اصلی اور قدیمی نام۔ مع ”کوڑا جہان آباد“ ضلع فتح پور، مولانا حکیم سید نصرت حسین صاحب کا وطن تھا۔ مالٹا سے واپس آنے کے بعد حضرت شیخ الہندؒ ان کے اعزاز کو تسلیم دینے کے لئے فتح پور پہنچے تھے مولانا حکیم نصرت حسینؒ نے دیوبند میں تعلیم حاصل کی تھی اور حضرت شیخ الہندؒ سے بیعت ہوئے تھے۔ خاندانی زمیندار تھے اور ایک کامیاب طبیب تھے جس کی وجہ سے اپنے علاقہ میں باعزت تھے۔ حج بیت اللہ کے ارادے سے اپنے وطن سے روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ پہنچے، حضرت شیخ الہندؒ پہلے ہی مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے حکیم صاحب، حضرت کے ساتھ ”مکہ معظمہ“ سے ”مدینہ منورہ“ پہنچے اور حضرت کے ساتھ ہی وہاں اقامت اختیار کر لی بالآخر حضرت شیخ الہندؒ کے رفیق اسارت مالٹا ہوئے اور تادم آفر حضرت کے واسطے سے واپس روانہ کے مالٹا ہی میں ۹ ربیعہ ۱۳۳۶ھ کو وفات پائی مالٹا ہی میں قبر ہے قبر پر عربی زبان میں تاریخ وفات کندہ ہے۔ (فریدی)

لیے عزم کرتا ہوں کہ وہاں سے فارغ ہو کر پھر دیوبند آ جاؤں۔ باقی خیریت ہے سب گھر کے آدمی سلام کہتے ہیں۔ والسلام فقط بندہ محمود غفلی عنہ

(کارڈ پر دیوبند کے ڈاکخانے کی مہر ۱۸ جون ہے مراد آباد ۱۹ جون کو پہنچا ہے۔)

خمنانہ قاسمی کا ایک جبرعہ نوش

مولانا حکیم محمد صدیق صاحب قاسمی مراد آبادی

مراد آباد میں مدرسہ شاہی سے بہت دور شہر کے ایک کنارے پر ایک محلہ ہے، جو محلہ ”بخنیہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ السلام جب کبھی مراد آباد تشریف لاتے ہیں، تو اسی محلے کے ایک قدیم طرز کے مکان میں قیام پذیر ہوتے ہیں، جتنی کہ چند گھنٹے کے لئے بھی مراد آباد میں ورود مسعود ہوتا ہے، تو سامان سفر، اسی مکان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس مکان کے مکین کا نام تو مجھے معلوم ہو گیا تھا، ان کے نام کے مکتوب بھی ”لطائف قاسمیہ“ میں میری نظر سے گذرے تھے، لیکن تفصیلی حالات معلوم نہ تھے۔ حکیم محمد عمر صاحب مراد آبادی نبیرہ حضرت مولانا محمد صدیق قاسمی سے چند ماہ ہوئے، اس غرض سے ملاقات کے لئے گیا کہ وہ اپنے دادا کے سوانح سے مجھے مطلع فرمائیں، انھوں نے ازراہ کرم حضرت مولانا کے غیر مطبوعہ ”دیوان فارسی“ اور ایک مختصر مجموعہ کلام اردو کی زیارت کرائی اور اس دیوان فارسی پر جو مقدمہ ان کے والد ماجد مولانا محمد فاروق صاحب مراد آبادی کا ہے، وہ بھی دکھایا۔ اس میں سوانح بھی ہیں اور حضرت کے طبعی کمالات اور کلام فارسی پر سیر حاصل تبصرہ بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے ان غیر مطبوعہ مکتوبات کی زیارت بھی کرائی، جو قاسم العلوم حضرت نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی وغیر ہم اکابر کے قلم مبارک سے لکھے ہوئے محفوظ رکھے ہیں۔

۱: جب یہ مضمون لکھا گیا تھا تو شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ السلام نے ۱۲ ربیع الثانی ۱۱۱۱ھ کو آپ کی وفات ہوئی۔ ۱۳، ۱۴: شمادی ۱۱۱۱ھ، ۱۳ جولائی ۱۹۰۵ء، بمبئی، ۱۵: درمیانی شب میں اس غرض سے علم، معرفت و قبرستان قاسمی دیوبند میں ہر درست کر دیا گیا۔ (محب الحق)

ان مکتوبات میں سے چند مکتوب تو پھر کسی موقع پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرونگا، اس وقت مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا قاسمی مراد آبادی کے حالات زندگی، ان کے کمالات اور خصوصیات کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں۔ اور مدیر رسالہ ”دارالعلوم“ کی فرمائش پر ان کی خدمت میں برائے اشاعت روانہ کر دوں۔ اس مضمون کا ماخذ حضرت مولانا محمد فاروق مراد آبادی کا ”مقدمہ دیوان قاسمی“ ہے۔ میں عالی جناب حکیم محمد عمر صاحب مدظلہ کا شکر یہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ انھوں نے کئی مرتبہ اپنا قیمتی وقت اپنے دادا کے علمی تبرکات دکھانے میں صرف کیا۔ ایک مطبوعہ مجموعہ قصائد ”گلستان مناقب“ بھی برائے مطالعہ مجھے عنایت کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہوئے ایک حقیر طالب علم کے ذوق جستجو کی رہنمائی فرمائی۔

اب آپ قاسم العلوم والمعارف مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ایک باکمال شاگرد اور خلیفہ کے کچھ حالات و سوانح ملاحظہ فرمائیں۔

نام و نسب:

مولانا حکیم محمد صدیق صاحب قاسمی صدیق اور قاسمی تخلص، تاریخی نام آپ کا مظہر حسن۔ ۲۰ ذی قعدہ ۱۲۶۳ھ یوم چہار شنبہ (۱۶ اپریل ۱۸۴۷ء) کو ولادت ہوئی۔

آپ کے والد ماجد کا اسم مبارک مولانا محمد امین الدین ہے۔ آپ نہا صدیقی ہیں، آپ کے اجداد فتنہ چنگیز خانی میں ”تبریز“ سے ہندوستان آئے، بزرگوں کا وطن مراد آباد آنے سے پیشتر ”گڑھ مکتیسر“ تھا جہاں حضرت خواجہ اللہ بخش گڑھ مکتیسری کا مزار مبارک ہے، آپ حضرت گڑھ مکتیسری کی ہمشیرہ مسماۃ جیبانی بی کی اولاد میں تھے۔

اس لحاظ سے آپ حضرت خواجہ اللہ بخش کے خواہر زادے ہوتے ہیں۔

شاہجاں کے عہد میں آپ کے بزرگ مراد آباد آئے۔ اجداد میں قدیم سے علم و فضل اور فن سپہ گری کا اجتماع تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد سے صرف علم باقی رہ گیا۔

ابتدائی تعلیم:

ابتدائی تعلیم فارسی اپنے والد ماجد سے پائی، نیز میر بشارت علی سنہجلی اور مولوی محبوب علی صاحب (سنہجلی دروازے والے) سے فارسی اور دینیات پڑھی۔ (مولوی محبوب علی فرید یان رجب پور سے تھے)

آپ نے اپنے نانا حکیم محمد عطاء حسین صاحب کے ظن عاطفت میں پرورش و تربیت پائی۔ حکیم محمد عطاء حسین مراد آباد کے بڑے نامی گرامی طبیب و نباض تھے۔ آپ کی اولاد میں صرف ایک لڑکی، مولانا محمد صدیق صاحب کی والدہ تھیں۔ جب مولانا محمد صدیق صاحب پیدا ہوئے تو عہد خیال میں بڑی خوشیاں ہوئیں اور نانا نے اپنے نواسے کو حتمی بنا کر نہایت ناز و نعم کے ساتھ پالا۔ حکیم محمد عطاء حسین صاحب اور ان کے والد حکیم حفیظ الدین صاحب نے مولانا محمد صدیق صاحب کو ان کی کم سنی ہی سے فن طبابت سکھانا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو شروع ہی سے حافظہ، ذہن، ذکاوت اور سلامت فہم منجانب اللہ غیر معمولی طور پر عطا کئے گئے تھے، حاذق حکماء کی تربیت نے سونے پر سہاگہ کا کام انجام دیا۔ آپ کے نانا اور مشہور طبیب حکیم محمد ثار علی صاحب امر وہی کے درمیان بہت خلوص اور اتحاد تھا، جب کبھی حکیم صاحب امر وہی مراد آباد تشریف لاتے تو اپنے دوست کے ہونہار نواسے کو بلا لیا کرتے تھے اس طرح امر وہہ کے اس باکمال طبیب سے بھی استفادہ کا موقع ملتا رہا۔

حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضری:

مولانا محمد صدیق صاحبؒ میں ابتدائے عمر ہی سے شوق تحصیل علوم کمال درجے تھا جس کی تکمیل مکان پر رہ کر نہیں ہو سکتی تھی اسی شوق میں آپ ایک مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی مولوی شمس الدین صاحب کے ہمراہ بغیر اطلاع اور بغیر مکان سے خرچ لئے حضرت قاسم العلومؒ کی خدمت بابرکت میں میرٹھ چلے گئے، جو رقم مولوی شمس الدین صاحبؒ آخر میں مہذب ہو گئے تھے۔ ان کو شوقی موانا روم کے اشعار بہت یاد تھے۔ خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ جامع مسجد مراد آباد میں حضرت مولانا قاری محمد طیبؒ متہم دار العلوم دیوبند کا وہ مذاہبہ اور ہاتھ اور مولوی شمس الدین صاحب خوش ہو رہے تھے اور جامع مسجد کے محن اور دالالوں میں گھوم رہے تھے کہ حضرت قاسم العلومؒ کے ابن الامین و مغل فرما رہے ہیں۔ قاسمی نسبت کی بنا پر امر وہہ میں حضرت مولانا حافظہ عبدالرحمن مفسر کی خدمت میں بھی اسی حالت جذب میں آتے رہے تھے۔ حضرت حافظہ صاحب کی درس گاہ میں آئے کچھ دیر بیٹھے اور تمام احاطے میں چکر لگا کر تشریف لے گئے۔ بس یہ ان کا معمول تھا۔ (فریدی)

بطور جیب خرچ پاس تھی بس وہی تھی، آپ کے نانا کو بے اطلاع اور بے سروسامانی کے ساتھ چلے جانے کا بڑا قلق تھا، بار بار فرماتے تھے کہ بلا خرچ لئے خدا جانے کہاں چلے گئے؟ کئی آدمی مختلف اطراف میں دوڑائے گئے۔ احتیاطاً مولوی محبوب علی صاحب کے ذریعے حضرت قاسم العلوم کی خدمت میں ایک عریضہ میرٹھ کو اس مضمون کا لکھوایا گیا کہ دوڑ کے محمد صدیق اور شمس الدین آپ کی خدمت میں پہنچیں تو فوراً مطلع فرمائیے، یہ لڑکے مراد آباد سے بلا اطلاع چلے گئے ہیں، یہ خط ۲۶ جمادی الثانی ۱۲۸۵ھ کو میرٹھ روانہ کیا گیا، اس زمانہ میں حضرت نانوتوی میرٹھ میں مقیم تھے۔

ادھر یہ خط پہنچا ادھر یہ دونوں پہنچے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ نے ان دونوں کو دیکھ کر مولانا حکیم محمد صدیق صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا نام محمد صدیق ہے اور آپ کے بھائی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا نام شمس الدین ہے۔ مولوی شمس الدین نے عرض کیا کہ یہ تو حضرت والا کی کھلی کرامت ہے کہ ہم دونوں کے نام بتلا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کرامت کہاں سے آئی، دیکھو یہ خط آیا ہوا رکھا ہے دونوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں۔

مولانا محمد صدیق صاحب اس واقعہ کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ

میں نے اس وقت ادباً کچھ عرض نہیں کیا ورنہ کرامت پھر بھی تھی کیوں کہ اس خط میں علامات و تعینات کے ساتھ یہ کب تحریر تھا کہ فلاں کا نام محمد صدیق ہے اور فلاں کا شمس الدین۔

حضرت مولانا نانوتوی نے ان کے میرٹھ میں موجود ہونے کی اطلاع مراد آباد بھیجی اور ان دونوں سے بھی خط لکھوا کر بھجوا دیا۔ کچھ دنوں بعد یہ دونوں مراد آباد بلا لئے گئے۔

دیوبند روانہ ہونا:

آپ کچھ عرصے بعد دیوبند روانہ ہو گئے اور تحصیل علم میں مشغول ہوئے یہاں تھوڑے عرصہ تعلیم حاصل کرنے پائے تھے کہ مکان پر پھر بلا لیا گیا دیوبند میں جن اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ان میں مولانا فتح محمد صاحب معلم جماعت اول دارالعلوم دیوبند بھی تھے، آپ کے مراد آباد جانے پر مولانا فتح محمد

صاحب بھی مراد آباد آگئے۔ آپ کے مکان پر ہی رہے، اور آپ کو پڑھاتے رہے، وہ یہاں پر خود حضرت مولانا عالم علی گینوی ثم مراد آبادی سے علم حدیث پڑھتے تھے۔

دوبارہ میرٹھ کو روانگی:

۶ ربیع الاول ۱۲۸۹ھ (۱۵ مئی ۱۸۷۳ء) چہار شنبہ کے دن مراد آباد سے میرٹھ کو روانہ ہوئے اور حضرت قاسم العلوم قدس سرہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قابل کہاں؟ آپ فلاں فلاں بزرگوں میں سے کسی سے بیعت ہو جائیں۔ ان میں سے ایک نام مولانا شیخ محمد صاحب تھانویؒ کا بھی تھا۔ حکیم صاحب نے ہر بار یہی عرض کیا کہ میں تو حضرت ہی سے بیعت ہوں گا۔ حضرت والا مرتبت نے آخر میں فرمایا کہ آپ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے بیعت ہو جائیں آپ نے پھر عرض کیا کہ میں تو آپ سے ہی بیعت ہوں گا، اس پر حضرت نے فرمایا، کہ ان کا (مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا) تو میں بھی معتقد ہوں۔ حکیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا کے اعتقاد سے مجھے کیا۔ مجھے تو اپنا اعتقاد کارآمد ہوگا۔ آٹھ روز تک حضرت نے بیعت نہیں کیا برابر ٹالتے رہے اور یہ بھی نئے رہے۔ آخر میں حضرت قدس سرہ نے ازراہ انکساری فرمایا، کہ ”یہ شیطان کا دھوکا ہے جب وہ کسی ہونہار کو دیکھتا ہے اور کچھ نہیں آتا، تو ایسی جگہ پھنسا دیتا ہے جسے کچھ نہ آتا ہو“۔ غرض بڑی سفارشوں سے بمشکل تمام ۱۳ ربیع الاول ۱۲۸۹ھ (۲۳ مئی ۱۸۷۳ء) کو بیعت فرمالیا۔ وہاں رہ کر آپ تحصیل علوم بھی کرتے رہے اور ذکر و شغل میں بھی مشغول رہتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امر وہی نے اپنے استاذ معظم حضرت قاسم العلوم سے عرض کیا کہ کو ان میرے سپرد کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، اچھی بات ہے۔ چنانچہ حکیم صاحب کو حکم فرمایا، کہ ”میر صاحب“ کے ہمراہ خورج چلے جاؤ، حضرت محدث امر وہی اس وقت صدر خورج میں صدر مدرس تھے۔

اگرچہ حکیم صاحب کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ حضرت پیر و مرشد کی خدمت بابرکت میں رہیں اور انہیں سے پڑھیں مگر پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ حسب اہتمام حضرت محدث امر وہی کے پاس خورج

چلے گئے، وہاں پڑھتے بھی تھے اور ذکر و شغل بھی جاری تھا۔ جو حالات ہوتے وہ مرشد کی خدمت میں تحریر کرتے رہتے تھے۔ ایک بار عرض حال سکر مرشد نے حکم دیا کہ اب ذکر و شغل بالکل ترک کر دو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاص توجہ بھی حکیم صاحب کی طرف مبذول فرمائی۔ اس وقت حضرت نانوتوی کا قیام دہلی میں تھا۔

خوردہ میں جس مکان میں حکیم صاحب رہتے تھے بالکل تنہا تھا۔ حضرت پیر و مرشد کی توجہ کا ایک خاص اثر قلب پر تھا، مدرسہ کی تعطیل تھی۔ بے چین اور سوز و گداز والی طبیعت، کہاں مانتی تھی۔ بجائے ”ترک ذکر“ کے بے اختیار کے ساتھ دن رات ذکر کا مشغلہ جاری رہا۔ اتفاق سے آپ کے پیر بھائی اور آپ کے باطنی کمالات کے راز دار حاجی امیر شاہ خاں صاحب مرحوم بھی کہیں باہر چلے گئے تھے، آپ کی حالت، استغراق کی ہو گئی، یہ ایک خاص کیفیت تھی جس کی اطلاع مرشد کامل کو ہونی چاہئے تھی یا خود ان کو پیر و مرشد کی خدمت میں دہلی بھیجا جاتا لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آپ نے اس حالت میں پیر و مرشد کے پاس جانے کو کہا بھی، لیکن کسی نے خیال نہیں کیا اور بجائے دہلی کے مراد آباد مکان پر بھیج دیا گیا۔

۶ ربیع الاول ۱۲۹۲ھ کو اسی استغراقی حالت میں خوردہ سے مراد آباد آ گئے۔ یہاں احباب اور اطباء کا یہ خیال ہوا، کہ مرض جنوں لاحق ہو گیا ہے اور اسی مرض کا علاج شروع کر دیا گیا جو بالکل منافی تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حالت بدستور رہی، اور نمر دات کے ساتھ علاج ہونے اور سر پر مشکیں چھڑوانے سے آنکھیں آشوب کر آئیں اور بالآخر اسی میں آنکھیں جاتی رہیں چھ ماہ کے بعد پیر و مرشد کو اس حال کی اطلاع ہوئی۔ بہت افسوس کیا اور یوں فرمایا کہ ”ہمیں کسی نے خبر تک نہ کی“۔ ادھر پیر و مرشد کا مطلع ہونا اور ادھر حکیم صاحب ”کا ہوش میں آنا۔ طبیعت تو اچھی ہو گئی لیکن آنکھیں جا چکی تھیں۔ آنکھوں کے متعلق پیر و مرشد نے یوں فرمایا:

”دو آنکھوں کے عوض جنت بہت سستی ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر مولانا محمد فاروق نے حضرت نانوتوی کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ حضرت نے ایک بار فرمایا، کہ دو آنکھوں کے عوض جنت بہت ارزاں ہے۔ اس لئے کہ جنت محل دیدار خداوندی ہے۔ آپ کو اس ارشاد کے بعد اپنی نایمانی پر بڑا ناز تھا، اپنے کلام فارسی میں مختلف طریقے سے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا

ہے، ایک شعر میں لکھتے ہیں۔

بر کوئی ایں چشم ہنازم کہ الی حشر ☆ جز بر رخ زیبائے تو مینا شدنی نیست
ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، اور کس انداز سے فرماتے ہیں۔

گر ننگد جمال رخ دل فروزتو ☆ صدیق را بدیدہ بیٹا چہ حاجت است

دربار نانوتوئی سے خلافت:

حضرت نانوتوئی قدس سرہ بیعت ہی بہت کم کرتے تھے چہ جائیکہ کسی کو اپنے خدام میں مجاز بیعت بنائیں، مگر حکیم صاحب کے حالات محمودہ دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اجازت مرحمت فرمائی:

”حضرت حاجی صاحب کی طرف سے آپ کو بیعت کرنے کی اجازت ہے۔“

حضرت نانوتوئی مراد آباد کے جس کسی شخص کو بیعت فرماتے تھے تو خاص طور پر فرمادیا کرتے تھے کہ ”تم کو ذرہ شغل کی تعلیم مولوی محمد صدیق کریں گے۔“

حضرت نانوتوئی کی ایک کرامت:

ایک بار حضرت نانوتوئی امر وہ تشریف لائے، حکیم صاحب پیادہ پا مراد آباد سے حاضر خدمت ہوئے شب میں جب کہ کوئی نہ تھا حضرت نے دریافت فرمایا کہ (پیدل آنے میں) تھکے تو نہیں؟ عرض کیا بالکل نہیں، حضرت نے فرمایا ”تم کا ہے کو تھکتے“ اور یہ شعر زبان مبارک سے پڑھا۔

ہر چند بیروختہ دل ناتواں شدم ☆ ہر کہ کہ ”نام یار شنیدم جواں شدم

دوسرے روز صبح کو ارشاد فرمایا کہ اچھا (اب) جاؤ (حضرت کو یہ خیال تھا کہ کثرت مہمانان

میزبان پر بار نہ ہونے پائے)

مولانا رشید احمد ننگوی صاحب کی طرف سے بھی اجازت بیعت حاصل تھی۔ مولانا نانوتوئی کے مجاز بیعت مولانا مراد فاروقی فریدی بھی تھے۔ (محب الحق) معنایں الفاظ کا یہ تصرف حکیم صاحب کی ناطقانی کی رعایت سے فرمایا ہے۔ مصرعہ ناطقانی ہوں مشہور ہے بزرگ نظر بروئے تو کردم جواں شدم (فریدی) ہوں بھی مشہور ہے ہر کہ کہ یاروئے تو کردم جواں شدم (محب الحق)

ایک صاحب نے اس موقع پر عرض کیا کہ حضرت ابرہہ ہورہا ہے بارش کا اندیشہ ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”ہم تو آٹھ آٹھ کوس تک بھیکے ہیں“۔ مولانا محمد فاروق صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ والد ماجد صاحب فرماتے تھے کہ جب مراد آباد ٹھیک آٹھ کوس رہ گیا تو بارش شروع ہو گئی اور پورے آٹھ کوس جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا مجھ کو بھیگنا پڑا۔

مولانا محمد صدیق کے نام قاسم العلوم کے مکتوب:

غیر مطبوعہ مکتوبات کے علاوہ ”لطائف قاسمیہ“ میں دو مکتوب مولانا حکیم محمد صدیق صاحب کے نام نظر سے گزرے، لطائف قاسمیہ کا مکتوب اول آپ ہی کے نام ہے جس میں مسئلہ حیات النبی ﷺ کو نہایت جامع اور مختصر الفاظ میں مدلل طریقے پر ثابت فرمایا ہے اس کی چند تمہیدی طرہیں یہ ہیں:

”سر اپا عنایت۔ السلام علیکم! کل جو آپ کا مرسلہ خط پہنچا کیفیت مندرجہ کو دیکھ کر طبیعت بہت گھبرائی۔ ہنوز اور تحریروں سے چنداں فراغت نہ ہوئی تھی کہ ایک اور سر پر آن پڑی۔ تسپر مفصل لکھوں تو کہاں تک لکھوں۔ یہ بحث ایک دریاے ناپیدا کنار ہے اور اختصار کیجئے تو کہاں تک دریا کو کوزے میں لانا دشوار۔ اس لئے فقط عقیدہ دل سے آگاہ کئے دیتا ہوں۔ اس ضمن میں کسی دلیل یا مثال کی طرف بھی اشارہ ہو جائے تو ہو جائے میں انبیاء کرام کو انھیں اجسام دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں“ الخ

دوسرا مکتوب فضیلت علم کے بیان میں ہے۔ یہ ”لطائف قاسمیہ“ کا مکتوب چہارم ہے۔ فارسی زبان میں ہے اس کا ترجمہ اردو ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں:

”بندۂ پیمداں محمد قاسم بخدمت بابرکت و سر اپا عنایت مولوی محمد صدیق صاحب زادکم اللہ علما و کمالا پس از سلام مسنون، لکھتا ہے کہ عنایت نامہ سرمایہ منت و موجب یاد آوری ہوا۔ میں احباب کی عنایتوں کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ ان کی محبت کا بدلہ کس طرح پیش کروں مجھے یہ بھی معلوم نہیں، البتہ ایک دعاء ہے اُس کے علاوہ ہم تہجد ستوں کے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے، اگر وہ درگاہ بے نیاز میں قبول ہو جائے تو اس سے دریغ نہیں۔ خداوند کریم مقاصد دلی تک پہنچائے۔ دنیا کو اگر دیکھا جائے تو وہ عاقلوں کے نزدیک متاعِ عقیل سے زیادہ نہیں

ہے۔ اس کی طرف کیا نظر کی جائے علم کا رکن اعظم حدیث و تفسیر ہے، تم ان دونوں علموں کو چھوڑ کر وطن (مراد آباد) چلے گئے، آخر وہ کونسی خوبی تھی جو اس خوبی علم دین کے مقابلہ میں نظر آئی کہ افغان و خیزاں چلے گئے۔ عنایت فرمائے من دنیا کے غم و رنج یوں ہی آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ مقصود کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ جو ہر ذاتی اور وراثت نبوی کو چھوڑنا اور متاع قلیل کو حاصل کرنا یہ ”کار خرد مندان“ نہیں ہے۔ خلافت حضرت آدم علیہ السلام کا سرملیہ استحقاق یہی ”ذو علم“ تھا، ورنہ ”معصومیت ملائکہ“ اور ”فساد بنی آدم“ میں کلام نہ تھا۔ میری مصلحت دید یہ ہے کہ جب علم کو تم نے شروع کیا ہے تو نا تمام نہ چھوڑو، بس چھ مہینے یا ایک سال میں کتب باقیہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر تمہیں یہی اضطراب و تکون تھا تو پھر تم سے کہا کس نے تھا کہ تم علم کو یکھنا شروع کرو۔“ الخ

حکیم صاحب کے اشعار میں حضرت مولانا نانوتویؒ کا ذکر:

آپ نے اپنے اشعار میں اپنے استاذ و مرشد حضرت مولانا نانوتویؒ کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں کیا ہے۔ ذیل کے تین اشعار ملاحظہ فرمائیے:

ما غلام قاسم فرزانه ام اے قاسمی ☆ نظم خو بم آب نظم قاسم دیوانہ ریخت
بے چون قاسم دیوانہ رافرزانہ می سازد ☆ یہ بین صدیق فیض قاسم فرزند مارا
فیض قاسم الخیرات راصدق می نازم ☆ رود دیوانہ گردد بزم او فرزانه می آید
حضرت گنگوہیؒ سے تعلق:

حضرت نانوتویؒ کے وصال کے بعد جب حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ مراد آباد شریف لائے تو حکیم صاحب نے عرض کیا کہ شیخ الشارح حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر تومکہ معظمہ میں ہیں بذریعہ عریضہ بھی وہاں اپنے حالات بھیجنا اور وہاں سے جواب آنا معمولی بات نہیں۔ اب ہم ”وابستگان دامن قاسمی“ کو کیا کرنا چاہئے؟ حضرت مولانا محمد یعقوبؒ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہندوستان میں ہم سب کے اقام دیوانہ فارسی کے ایک مشہور شاگرد رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اپنے شعروں میں حکیم صاحب نے اپنے استاذ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کو قاسم فرزاند کہا ہے اور کس مدگی سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ (فریدی)

بڑے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ ہیں۔ اُن کی خدمت میں حاضر ہونا چاہئے۔ چنانچہ حضرت مولانا اپنے ہمراہ حکیم صاحبؒ کو دیوبند تک لے گئے۔ حکیم صاحبؒ دیوبند سے گنگوہ گئے اور کچھ دنوں حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں رہے۔ حضرت گنگوہیؒ نے بہت کچھ توجہات اور عنایات فرمائیں اور حکیم صاحبؒ سے براہ راست یوں فرمایا: ”مجھ کو مولوی محمد قاسمؒ کے خدام اپنے لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں۔“

ایک مرتبہ حضرت گنگوہیؒ دیوبند تشریف فرما ہوئے۔ حکیم صاحبؒ مراد آباد سے دیوبند گئے وہاں مظفر نگر کے ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب مرحوم سے (جو حضرت نانوتویؒ کے خدام میں سے تھے) مولانا گنگوہیؒ نے حکیم صاحبؒ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: ”ڈاکٹر صاحب مولوی محمد صدیق صاحب سے ملیجئے یہ مولوی محمد قاسمؒ (صاحب) کے نمونہ ہیں اور اُن کی یادگار۔“

ایک بار حضرت گنگوہیؒ نے حکیم صاحب کی موجودگی میں یہ رباعی پڑھی

مارا نہ مُرید دردِ خواں می باید ☆ نے زاہد و حافظ قرآں می باید
صاحبِ دروے سوختہ جاں می باید ☆ آتشِ دہ بختان و ماں می باید
مولانا محمد فاروق صاحبؒ نے اس رباعی کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ مولانا محمد حسن صاحبؒ مراد آبادی ساکن محلہ نواب پورہ (جو دورہ حدیث میں حضرت گنگوہیؒ کے شاگرد تھے) ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہم نے حضرت گنگوہیؒ سے سوائے اس ایک شعر کے کوئی شعر نہیں سنا

از ادب دور است رفتن بے طلب در بزم شاہ ☆ ورنہ پائے شوق رامانح درو دیوار نیم

اس کے ساتھ ہی ساتھ مولانا محمد فاروق نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت والد ماجد صاحب (مولانا محمد صدیق صاحبؒ) نے (ایک دن) فرمایا کہ حضرت گنگوہیؒ و حضرت نانوتویؒ وغیرہما تلامذہ مولانا مملوک علی صاحبؒ کو دہلی کے شعراء ذوق، مومن، غالب اور امام بخش صہبائی وغیرہم کے مشاعرے کے مشاعرے یاد تھے۔ یہ ان حضرات کی عالی ظرفی ہے کہ زبان پر شعر کا نام تک نہیں آتا۔ فرماتے تھے کہ مولانا محمد فاروق صاحبؒ نے اس رباعی پر ایک نوٹ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حفظ قرآن وغیرہ یقیناً امور محمودہ ہیں لیکن رسول الی اللہ کے لئے جتنابی، بے قراری اور سوز و گداز زیادہ درکار ہے۔ (فریدی)

مولانا مملوک علی صاحب مع اپنے تمام شاگردوں کے دہلی کے مشاعروں میں جایا کرتے تھے تاکہ طلباء میں جولانی طبع پیدا ہو۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت گنگوہی سے اور اشعار بھی تمہائی میں سنے ہیں، اُن میں سے ایک یہ بھی ہے

عقل گوید شش جہت حدیث بیروں راہ نیست ☆ عشق گوید ہست راہے بارہا من رفتہ
شیخ المشائخ سے اجازت بیعت:

کب طریقت میں شیخ المشائخ حضرت حاجی امدا اللہ مہاجر کی سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہے۔ اپنے حالات حضرت حاجی صاحب کو لکھتے رہتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے بھی بلا طلب آپ کو اجازت بیعت مرحمت فرمائی۔

آپ کے اساتذہ کی فہرست:

قرآن شریف اور ابتدائی تعلیم کے اساتذہ کے علاوہ آپ کے اساتذہ کرام حسب ذیل ہیں:

تجوید: قاری محمد تقی صاحب پھراپونی (شاگرد حضرت قاری نجیب اللہ) سے حاصل کی۔ خوشنویسی: میں دو استاد تھے (۱) مولوی محمد عنایت حسین خوشنویس ساکن محلہ نواب پورہ، مراد آباد (۲) مولوی الہی بخش صاحب مرجان رقم رامپوری۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا محمد یعقوب صدر مدرس اور مولانا سید احمد دہلوی مدرس دوم کے علاوہ مولانا فتح محمد اور مولانا محمد فاضل محلمان دارالعلوم سے بھی پڑھا۔

میرٹھ میں: حضرت قاسم العلوم والمعارف سے اور خورجہ میں حضرت محدث امر وہی سے پڑھا۔ علم حدیث کی سند آپ کو حضرت مولانا سید عالم علی (تکلیف مولد امر آبادی مسکن امد فنا) سے بھی ہے جو کہ شاگرد خاص تھے۔ حضرت مولانا شاہ محمد اہلق محدث دہلوی مہاجر (نوائے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی) کے مولانا سید عالم علی صاحب نے حکیم صاحب کو ان کی تائینائی کی حالت میں ہی وصیت فرمائی تھی کہ تفسیر و حدیث ہمیشہ پڑھاتے رہنا۔ حکیم صاحب نے اس کی حتی الامکان تعمیل کی اور تا آخر عمر جب تک قوی نے

کام دیا اپنے یہاں سہ پہر کو خالصاً لوجہ اللہ تفسیر و حدیث کا درس دیا۔

نظم فارسی میں آپ کے پہلے استاذ سید عبدالرشید غازی پوری ثم مراد آبادی تھے جن کو ایرانی استاذ سے تلمذ تھا۔ آخر میں آغا کمال الدین سبخر طہرانی سے رامپور میں ملاقات ہوئی اور فتح یونان کی مبارک باد اور خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید خان صاحب کی تعریف میں جو تازہ قصیدہ لکھا تھا آغا صاحب کو سنایا یہ (۱۰۳) اشعار کا قصیدہ تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ اپنا کل کلام حکیم صاحب نے آغا صاحب کو بنظر اصلاح دکھایا۔ مراد آباد سے کچھ حصہ نقل کر کے آغا صاحب کے پاس بھیج دیا جاتا تھا اور وہ اس کو دیکھ کر اور کہیں کہیں تغیر فرما کر واپس کر دیتے تھے۔ آغا صاحب نے بہت سے اشعار پر صادق بنائی بہت سے شعروں پر بسیار خوب لکھا۔ کسی کسی شعر پر تحریر کیا ”ہم نہایت“۔ بہت جگہ حکیم صاحب کا مضمون اعلیٰ و ارفع تھا اور آغا صاحب کی اصلاح سے مضمون پہلے کے مقابلے میں گر گیا جس سے سمجھا گیا کہ آغا صاحب کا خیال اصل معنی تک نہیں پہنچا۔

حافظہ:

آپ کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ حضرت حکیم صاحب کا حافظہ بہت قوی اور بہترین تھا۔ آپ جب رات کو بستر خواب راحت پر لیٹتے تھے تو جس زمانہ میں آپ کی طبیعت نظم کی طرف متوجہ ہوتی تھی دس پندرہ اشعار سوتے وقت کہہ لیتے تھے اور صبح کو بغیر سوچے ان کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے بیس بیماریوں کی نبض دیکھی اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حال سنا، مرض بھی سب کے مختلف تھے۔ مکان پر آ کر بلا تکلف ترتیب وار ہر ایک کو نسخہ لکھا اور غذا بتائی۔ جب کبھی کسی نے کوئی شعر یا بات دریافت کی کہ کہاں ہے اور کس نے ایسا لکھا ہے فوراً بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں صاحب نے فلاں کتاب میں، فلاں صفحہ و سطر میں لکھا ہے۔ حکمت کے متعلق کوئی بیان دیکھنا ہوا یا کوئی نسخہ نکالنا ہوا تو فرمایا کہ فلاں کتاب لاؤ اور میرے

۱۔ یونان کی فتح پر حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امروی نے بھی خلیفۃ المسلمین کو مبارک باد کا تار بھیجا تھا۔ (محب الحق)

سانے سیدھی کر کے رکھ دو، انداز سے اُسے کھولا اور فرمایا کہ اول سطر سناؤ۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہی صفحہ نکل آتا ورنہ داہنے اور بائیں ایک آدھ ورق لوٹا اور فرمایا کہ یہاں فلاں سطر پڑھو جو بات دیکھنی ہوتی وہیں نکلتی تھی۔ یہ اُس وقت کا حال ہے جبکہ آپ کی نظر کو گئے ہوئے چالیس پچاس سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔

مثنوی مولانا رومؒ:

مثنوی مولانا رومؒ ایک بحرِ ذخار ہے۔ آپ کی یہ کیفیت تھی کہ کسی نے مثنوی کا پہلا مصرعہ کہیں سے پڑھ دیا تو آپ نے دوسرا مصرعہ پڑھ دیا اور دوسرا پڑھا تو آپ نے پہلا پڑھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے اشعار مثنوی کے ترتیب وار سنا دئے۔

دیوان حافظ اور مثنوی پڑھانا بھی آپ کا حصہ تھا۔ مولوی محمد دین صاحب پنجابی ایک جامع منقول و معقول شخص تھے۔ ان کو مثنوی پڑھنے کا شوق ہوا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ مولانا محمد صدیق صاحب مراد آبادی سے بہتر اس وقت ہندوستان میں کوئی مثنوی پڑھانے والا نہیں۔ وہ صرف مثنوی پڑھنے مراد آباد آئے اور تمام حواشی اور شرح بحر العلوم کا لفظ بلفظ مطالعہ کر کے مثنوی پڑھا کرتے تھے۔ انھوں نے بارہا فرمایا کہ مولانا بحر العلومؒ مولانا محمد صدیق کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جب یہ مطلب بیان کرتے ہیں تو اکثر مواقع میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا بحر العلومؒ مطلب کو پہنچے ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بحر العلومؒ بہت بڑے شخص ہیں۔ مگر تصوف میں مولانا محمد صدیقؒ صاحب سے پیچھے ہیں۔

معمولات:

مولانا محمد فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ:

”آپ نے بچپن ہی سے شرک و بدعت کے خلاف جہاد شروع کر دیا تھا۔ توحید و سنت کے رواج دینے کی طرف مائل تھے۔ ”لا یسألونک لوما لایم“ کے مصداق تھے۔ اذکار و اشغال اور تہجد کے لئے رات وقف تھی۔ علاوہ فرائض و واجبات اور سنن موکدہ کے بعد مغرب بیس رکعات نفل پڑھتے

تھے اور نماز اشراق و چاشت تک قضا نہ ہوتی تھی۔“

مطب:

اپنے نانا حکیم محمد عطا حسین صاحبؒ کے انتقال کے بعد سے الترتیباً صبح کے وقت مطب کرتے تھے۔ اس سے پہلے خورج ضلع بلند شہر میں مطب کیا تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آپ کے مطب میں مشکل مشکل امراض کے مریض دہلی و کھنؤ جیسے مرکزی مقامات سے مایوس ہو کر آتے اور آپ کے ہاتھ سے بفصل الہی شفا یاب ہوتے تھے۔ آپ کے طبی کمالات لکھنے کے لئے ایک مستقل دفتر چاہئے۔ مولانا محمد فاروقؒ نے اس سلسلے میں بہت سے حیرت انگیز واقعات لکھے ہیں۔ نبض میں آپ کو خاص مہارت حاصل تھی جو کرامت کے درجے پر پہنچی ہوئی تھی۔ حکیم اجمل خاں صاحب دہلوی مرحوم سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو انھوں نے فرمایا کہ: ”میں نے آپ کی نباضی کی بہت تعریف سنی ہے۔ فن طب میں کمال حاصل ہونا بھی پیر و مرشد کی توجہ کا نتیجہ تھا۔ آپ نے خورج میں حضرت محدث امرتسی سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے قیام فرمایا تھا وہاں مدت تک کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ آپ کو طب میں دخل ہے۔ آخر بعض معرکہ آراء علاج کرنے کی وجہ سے آپ کا تمام میں شہرہ ہو گیا مگر تعلیم میں حرج واقع ہونے کے خوف سے آپ مستقل مطب نہیں کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت قاسم العلومؒ خورج تشریف لائے، بعض لوگوں نے حضرتؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولوی محمد صدیق صاحب بہت اچھے حکیم ہیں مگر مطب نہیں کرتے۔ اگر حضرت حکم دے دیں تو مخلوق خدا کو بہت نفع پہنچے۔ حضرتؒ نے حکیم صاحب سے فرمایا کہ آپ جب طبیب ہیں تو مطب کیوں نہیں کرتے، مطب کیا کیجئے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی، پھر تو حکیم صاحب کی طرف خلقت بہت زیادہ رجوع ہوئی۔

نبض دیکھ کر حالات سننے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ اکثر سابقہ اور آئندہ کے حالات بیان کر دیتے تھے۔ آپ کا قاعدہ آج کل کے سے معالجوں کا سا نہ تھا کہ مریض کے سامنے دیکھ کر باتیں جالب منفعت کے لئے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی تشخیص نہ ہوتی کہ مریض بچے کا نہیں تو اپنے احباب

سے فرمادیا کرتے تھے (مریض اور مریض کے تیمارداروں سے نہیں) اگر مرض توجہ کے ساتھ علاج کرنے کے قابل ہوتا تو آپ علیحدہ مریض کے تیمارداروں اور سنجیدہ احباب و اعزاء سے فرمادیا کرتے تھے کہ اس کو فلاں مرض (مثلاً دق یا سل) ہے اور ابھی قابل علاج ہے، بہت خیال کر کے علاج کرنے سے آرام ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت غفلت ہوئی تو پھر مرض قابل علاج نہ رہے گا۔ مقصود علاج کی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ جو شخص تمہارے پاس بغرض علاج آئے تو چاہے وہ تمہارا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کا علاج بہت غور سے اس طرح کرنا جیسا کہ کسی خاص دوست کا کر سکتے ہو۔ اگر اس کے خلاف کیا تو خداوند عالم کے دربار میں گرفت کی جائیگی اور مواخذہ ہوگا۔

نباضی کے دو محیر العقول واقعات:

(۱) ایک شخص نے آپ کو نبض دکھائی آپ نے فرمایا تمہاری نبض میں نکھیا کا اثر ہے۔ اُس نے کہا کہ نکھیا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا کہ نبض میں تو اثر ہے، غور کرو۔ انھوں نے بہت سوچا اور سوچ کر اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا کہ سر پر درم ہو گیا تھا اور اُس کو آرام نہ ہوتا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے سر پر شکاف دیا۔ اندر کیڑے نکلے، صاف کر کے زخم میں نکھیا بھر دیا تھا۔ اُس سے آرام ہوا تھا۔ دیکھئے بچپن کے جلدی اثر کو مریض کی عمر کے آخری حصے میں آپ نے نبض سے کس طرح شناخت کر لیا۔

(۲) مراد آباد محلہ کسرول کے ایک صاحب پولیس ٹریننگ اسکول میں ماسٹر تھے۔ ایک شہر پر گھوڑی پر سوار جا رہے تھے کہ اُس نے ایک موٹر پر اُن کو گرا دیا۔ اُن کو فوراً مکان پر لایا گیا اور وہ قتل مغرب انتقال کر گئے۔ رات کو جب اُن کو غسل دینے کے لئے تختے پر اتارا تو بعض اعضاء میں حرکت سی معلوم ہوتی تھی۔ فوراً ایک شخص سول سرجن کو لینے گیا اور ایک آدمی حضرت حکیم صاحب کے لینے کو آیا۔ جب حکیم صاحب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ سول سرجن ابھی ابھی دیکھ کر چلا گیا ہے اور یہ کسی نے نہ بتایا کہ سول سرجن نے کیا کہا ہے؟ حکیم صاحب نے نبض دیکھی اور فرمایا کہ ضرب داہنی طرف ہے اور اب ان میں کچھ نہیں رہا۔ سب ششدر رہ گئے کہ مردے کی نبض دیکھ کر یہ بتا دیا کہ اس سمت میں ضرب آئی ہے۔

دیکھا گیا تو اسی سمت میں ضرب تھی ہاتھ میں کہیں دور تک ضرب کے آثار نہ تھے۔ اُس وقت لوگوں نے کہا کہ دیکھئے حکیم صاحب نے سول سرجن سے بھی زائد بتا دیا۔ سول سرجن نے آنکھوں سے دیکھا، آلات سے دیکھا اور آپ نے فقط نبض دیکھی اور یہ بھی بتا دیا کہ ضرب اس سمت میں ہے۔

نظم میں قادر الکلامی:

حضرت شیخ الہند کے والد ماجد حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی نے مولانا محمد فاروق صاحب سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ”مولانا محمد قاسم صاحب میں بہت سے کمالات تھے اُن کو نظم سے بھی غایت درجہ طبعاً دلچسپی تھی۔ اُن کا یہ کمال تمہارے والد میں آیا ہے۔“

حضرت مولانا فضل الرحمن دیوبندی (مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے والد ماجد) نے بھی مولانا محمد فاروق صاحب سے ارشاد فرمایا تھا کہ ”مولانا محمد قاسم صاحب کا سوز و گداز آپ کے والد کے حصے میں آیا ہے۔“

آپ کا کلام اُردو میں کم اور فارسی میں زیادہ ہے۔ جس شاعر کے طرز پر آپ نے لکھا ہے اُس کا رنگ آپ کے کلام میں ایسا موجود ہے کہ واقف کاروں کو دونوں کلاموں میں فرق کرنا دشوار ہوتا ہے۔ خاقانی، حافظ، خسرو، عرفی، نظیری، قدسی، کلیم، مرزا جلال اسیر، مرزا صائب، مرزا بیدل، مرزا غالب کی غزلوں پر غزلیں کہیں اور کامیاب طریقے پر۔

مولانا محمد فاروق صاحب نے لکھا ہے کہ ”حکیم صاحب کے استاد فارسی مولوی سید محمد عبدالرشید مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ مولوی محمد صدیق صاحب کی طبیعت شاہ نصیر کی سی مشکل پسند واقع ہوئی ہے۔ جتنی مشکل زمین ہو۔ اتنی ہی کلام بہترین اور بلند ہوتا ہے۔

جو قافیہ کسی استاذ نے ایسا بہتر باندھا ہے کہ وہ اُس کا حصہ ہو گیا ہے وہ قافیہ یا تو آپ نے باندھا ہی نہیں اور باندھا تو اُس کے ہم پلہ یا اس سے بہتر قدسی کا مشہور شعر ہے۔

دل دادن و نگاہ نمودن گناہ من ☆ دل بردن و نگاہ نہ کردن گناہ کیسے

اس ”گناہ من“ اور ”گناہ کیست“ پر بہت سے شعراء نے طبع آزمائی کی ہے مگر مسلم یہ ہے کہ قدسی کا حصہ ہو گیا ہے، قدسی کو کوئی نہ پہنچ سکا، حتیٰ کہ مرزا غالب جیسے قادر الکلام فارسی گو شاعر نے بھی توسن طبع کو اس میدان میں دوڑایا ہے اور اپنی شوخی اور جدت کا کمال دکھایا ہے مگر وہ بھی شاہراہ قدسی سے بچکر نکل گئے اور قدسی کے مضمون کا مقابلہ نہ کر سکے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

بجنود بوقت ذبح طہیدن گناہ من ☆ دانستہ دشمن تیز نہ کردن گناہ کیست
خوبی یہ ہے کہ دوش بدوش رہتے ہوئے سبقت کی جائے۔ یہ میدان حکیم صاحب نے سر کیا ہے۔ دیکھئے کتنا میساختہ شعر ہے۔

بے اختیار روئے تو دیدن گناہ من ☆ بے باک رخ ز پردہ نمودن گناہ کیست
آپ کے صاحبزادے تحریر فرماتے ہیں کہ حاجی امیر شاہ خاں صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ”مولوی محمد صدیق صاحب کے کلام میں اول اول بہت شوخی تھی۔ مولوی سید محمد عبدالرشید صاحب مرحوم کے جب یہ شاگرد ہوئے تو انھوں نے ان کی شوخ طبیعت کو اپنی پیرانہ سالی کے تابع کر لیا اور ان کے کلام کو بڑھوں کا سا کلام بنا دیا۔ آخر میں مولوی صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد کلام پھر اصلی رنگ پر آ گیا۔

نمونہ کلام اردو:

تکلم معنوی ہے مجھ کو حستان بن ثابتؓ سے ☆ نہیں میں خوشہ چمن خاقانی و بابا فغانی کا
آسمان علم و معرفت کے آفتاب و ماہتاب حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کی شان میں ایک
مشرک قصیدہ لکھا ہے، اس میں کمال عقیدت، جذبات قلبیہ اور روانی طبع کے خوب جوہر دکھائے ہیں، اس کے چند شعر یہ ہیں:

چمن آرا تھا وہ کیسا کہ چمن سے اُس کے ☆ ہیں رشید احمد و قاسم گل خنداں دونوں
جیتا اللہ انہیں کہنے تو لاریب ہے راست ☆ کیوں کہ ہیں دعویٰ توحید کے نہاں دونوں
ہیں یہ وہ گھبر کنوں کہ خریدار ان کے ☆ دیکے کو نین جو لیس تب بھی ہیں ارزاں دونوں

علم و حکمت کے یہ میزاب ہیں بہرِ طلباب ☆ رشد اور فیض کے ہیں قلزم و عہماں دونوں نور سے اُن کے منور:۔ ہوں کیوں دونوں جہاں ☆ چرخ ارشاد کے ہیں نیرِ تاباں دونوں ٹحرمی کو مد اُن سے نہ ہو کیوں عالم میں ☆ باغِ لہاؤ کے ہیں سرو خراماں دونوں فخر مرشد ہوئے فارغ جو سبق سے یہ ہوئے ☆ فخر استاد تھے جب تھے یہ سبق خواں دونوں ان بزرگوں کی شا مجھ سے بیاں ہو کیوں کر ☆ جن کے استاد ہوں اور پیرِ شا خواں دونوں جن کی تحریر سے قاصر ہے زبانِ خامہ ☆ رکھتے ہیں ایسے یہ اوصاف فراواں دونوں آتا ہے عیادت کو طیب دل و جاں پھر ☆ یہ مژدہ کوئی عشق کے پیار سے کہدو ۔ الہی دکھا دے فضائے مدینہ ☆ وہ روضہ وہ دولت سرائے مدینہ ایک نعت کے چند شعر یہ ہیں:

ہم روئے نبیؐ کو ماہ انور نہ کہیں گے ☆ خورشید کو ذرے کی برابر نہ کہیں گے
 ذرہ در اقدس کا ہے تاج سر خورشید ☆ اے ماہ اُسے ہم کبھی اختر نہ کہیں گے
 تاج سر جبریل ہے نعلِ شہ دارین ☆ ہم اُس کو کبھی تاجِ سکندر نہ کہیں گے
 اُس در کے گدا کا ہے یہ رتبہ کہ فرشتے ☆ رضواں کو بھی اُس کا کبھی ہمسر نہ کہیں گے
 میلاد کا جلسہ ہے کہاں و عظ کی محفل ☆ بدعات کو سنت کے برابر نہ کہیں گے
 پھر کون ہے کہلائے جو عالم میں سخور ☆ صدیق کو گر لوگ سخور نہ کہیں گے

اس روایہ و قافیہ میں مولانا سید احمد حسن محدث امرتسری نے بھی دونوں صاحبان کی شان میں تعہدہ لکھا ہے۔ جس کے آٹھ شعر ہیں۔ اس میں سے دو شعر پیش خدمت ہیں:

مدح لکھ ان کی جو ہیں حافظہ قرآن دونوں ☆ حامی بیتِ حرم صاحبِ عرفاں دونوں
 احمد خستہ جو ہے محو کمالِ قاسم ☆ اُس پہ ہو لطفِ نبیؐ رحمت بڑاں دونوں
 اس زمین میں حضرت شیخ الحداد و ذاکر عبدالرحمن مظفر مگرمی مرحوم نے بھی طبع آزمائی کی ہے۔ (محب الحق)

نمونہ کلام فارسی:

پہلے نعت کے چند کیف آور اشعار پڑھیے:

تا کے نشوم بادیہ پیائے مدینہ ☆ دل میکدم شوق تماشائے مدینہ
 برترز عرش ذر وہ شان محمد است ☆ ازلا مکان بلند مکان محمد است
 تاجتہ خون کند جگر سر کشان دہر ☆ تیریکہ از قضا بکمان محمد است
 شان خداست جلوہ گر از روئے مصطفیٰ ☆ عین عطاست جنبش ابروئے مصطفیٰ
 ایک اور نعتیہ رباعی بھی پڑھیے جو جذبات محبت سے لبریز ہے:

این ہفت فلک ہفت اختر نازد ☆ این ہفت زمیں ہفت کشور نازد
 بر جام جم و بآئینہ اسکندر ☆ صدیق حضرت پیبر نازد
 چند شعر اور پڑھیے اور جان و دل کو دعوت کیف و نشاط دیجئے:

گو باد صبا پیغام ما جانانہ مارا ☆ کہ خرم از قدم خود نماید خلفہ مارا
 چوں سر شکم بیجاں گوہر شہوار کجاست ☆ دارم این گوہر نایاب خریدار کجاست
 خواب و خور جملہ زمن رفت بظارۃ دوست ☆ روز عیدم برکات رمضانے دارد
 ہر قطرۃ اشک مرا صد جوش طوفاں در بغل ☆ صد کوہ غم بالائے سر صد دشت حرماں در بغل
 مذموم گر چہ بیری نزد جہا نیانت ☆ بیری یکہ عشق دارد بہتر ز صد جوانست
 اے کہ در محفل دلدار رسیدن خواہی ☆ نری، ہاں مگر از یمن مددگاری دل
 چہ بیری می کشد عہد شباب آہستہ آہستہ ☆ ہمائے زندگی گرد و خراب آہستہ آہستہ
 ابر لطف چو کند قطرہ فشانے یا رب ☆ باز سر سبز شود باغ و بہار دہلی
 حافظ اینجا اگر آید طلبہ اے صدیق ☆ ساغر فیض "مصلائے" دیار دہلی

قیامت را نسجم با قیامت تا قیامت ہم ☆ کہ شرمندہ نماید یک قیامت صد قیامت

وقت کم ہونے کی وجہ سے اور طوالت کے خوف سے میں حکیم صاحبؒ کے کلام فارسی کا بہت کم انتخاب کر سکا ہوں، کاش حکیم صاحبؒ کا پورا دیوان شائع ہونے کی کوئی صورت نکل آئے تاکہ ان کے بہترین فارسی کلام سے اہل ذوق استفادہ کر سکیں اور ان کے تمام جگر پارے گوشہٴ غمول سے نکل کر جریدہٴ عالم پر عیبت ہو جائیں اور سند دوام حاصل کریں۔

حضرت سید احمد شہید کی شان میں:

حکیم خاقانی کا مشہور قصیدہ کا ایک مصرعہ یہ ہے۔ ع

دل من پر تعلیم است من حفل وبتانش

اس پر آپ نے تقریباً تین سوشعر کا ایک بہترین نعتیہ قصیدہ لکھا ہے۔ جس میں ضمناً حضرت سید احمد شہیدؒ، حضرت حاجی امداد اللہؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی مدح بھی آگئی ہے۔ درحقیقت یہ قصیدہ حکیم صاحبؒ کا زبردست شاہکار ہے۔ ۱۳۰۹ھ میں مطبع گلزار ابراہیم مراد آباد میں ”گلستان مناقب“ کے اندر یہ قصیدہ شائع ہوا ہے۔ اس قصیدہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ شیخ المشائخ حضرت امداد اللہ مہاجرگیؒ کے مطالعہ سے گزر چکا ہے۔ اب ”گلستان مناقب قریب قریب نایاب ہے۔ اس کا ایک نسخہ اپنے کتب خانہ سے بڑی تلاش کے بعد حکیم محمد عمر صاحب مدظلہ نے احقر کے لئے برآمد کیا۔ اس قصیدہ کا مطلع یہ ہے:

دل من نختہ دیں شرح بسم اللہ عنوانش ☆ بہار گلشن توحید و سنت خط ریحانش
اس قصیدے کے چند اشعار جو حضرت سید احمد شہیدؒ کی شان میں ہیں، پیش کرتا ہوں۔

مجدد سید احمدؒ شد صدی عشر و ثالث را ☆ کہ حق در کشور تحقیق حق بخید سلطان
زیاد تند باطل دو شبستان جہاں مردے ☆ چراغ دین حق گر خود نہ بودے زیر دامانش

آغا کمال الدین بخرطہرانی نے اس شعر کی ان الفاظ میں تحسین کی ہے: ”خوب است“ فریدی

بیمیں تفسیر آیات کلام اللہ گفتارش ☆ ہمیں شرح احادیث رسول اللہ تیباش
 زہے ماہے کہ شد اسلام روشن از جبین او ☆ خجے مہرے کہ ظلم و کفر رفت از روی تابانش
 سریر آزلے ملک شرع احمد افتخار دیں ☆ کہ زیب فرق باشد خاص تاج لطف یزدانش
 ازو در ہر طرف توحید و سنت جلوہ آما شد ☆ زعالم شرک و بدعت رخت بر بستہ بدو رانش
 بگنزلہ رسول اللہ این گلبن جمید الحق ☆ کہ مغز عارفان را عطر پرور کرد سبحانش
 زعہد تمد ہی آملہ بزرگی بر جبین او ☆ بزرگش داشتے ہر کس کہ میدید از بزرگانیش
 بہ دیوان عدالت پیش حق دستان و حق جو یاں ☆ بدعوائے لامت خود شہادت ہست برہانش
 زبالاسحار ہم بستغفرون رمزے شنید ازوے ☆ کہ مولائے اسماعیل آمد از مریدانش
 ہزاراں سنت مرہ ازو شد زندہ در عالم ☆ بہ احیاء یکے سنت ثواب صد شہید انش
 تاریخ گوئی کے چند نمونے:

میں نے اس ضمن میں چند ایسی شخصیتوں کے متعلق قطعات تاریخ و فوات منتخب کئے ہیں جو
 مشاہیر ملت اور اکابر دیوبند میں سے ہیں یا اکابر دیوبند سے ان کا گہرا تعلق رہا ہے۔ حضرت مولانا سید
 عالم علی محدث مراد آبادی کا قطعہ تاریخ و فوات حکیم صاحب نے لکھا ہے جس کے پہلے مصرعہ میں وقت دن
 تاریخ اور مہینہ ہے اور آخری مصرعہ بلا تسمیہ و تخریجہ مادہ تاریخ ہے۔ قطعہ

بعد عصر از پنجشنبہ بستم از ماہ صیام ☆ شد زور و واقع جانگاہ عالم مصلی
 سال و حال آں ز صدیق حزین باید شنید ☆ ہائے رحلت کرد سید مولوی عالم علی
 ۱۲۹۵ھ

قطعہ تاریخ و فوات مولانا ذوالفقار علی صاحب دیوبندی:

ذوالفقار آن صاحب فضل و کمال ☆ آنکہ خلق از و فائش بے خود است
 سفرے بشکشد از آب حیات ☆ موت کزوے عالمے را لا بدست

در حیات خود چو آں نیکو خصال ☆ ہم نشین حضرت قاسمؑ بدست
یافت نزدش جائے ہم بعد از وفات ☆ آن ہم از آثار پنهان و دست
ساش از روئے یقین صدیق گفت ☆ چاکریں در پہلوئے قاسم شدست

$$\frac{1312}{1322} = \frac{10}{1322}$$

$$\frac{51322}{1322}$$

دیگر بلا تفسیر:

ذوالفقار دینی سر فتر ارباب دیں ☆ ناظم و ناظر دیر معنی آفریں
آنچنان کارند معانی و بیایں بمثل بود ☆ در ریاضی دستگاہے داشت کامل بچہیں
شہز تسہیل سہاںش عالمے راہل کار ☆ تذکرہ اندر بلاغت یادگار ہو بہیں
بازبان حال از صدیق سال نقل جست ☆ گفتش۔ در پہلوئے قاسم شدستی جاگریں

$$\frac{51322}{1322}$$

قطعه تاریخ وفات مولانا فضل الرحمن دیوبندیؒ

فضل سر حلقہ ارباب ذکاء ☆ شہز دنیا چو بسوئے عقبی

اس قلعہ پر مولانا محمد فاروق صاحب مراد آبادی نے ایک تشریحی نوٹ بزبان فارسی لکھا ہے۔ ناظرین کے اضافہ معلومات کے لئے
پیش نظر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولانا ذوالفقار علی نے وصیت کی تھی کہ مجھ کو حضرت مولانا نانوتویؒ کے پائیں سمت مشرق دفن
کیا جائے۔ حضرت نانوتویؒ کے پہلوئے مزار میں مشرق کی طرف اُن کے برادر عم زاد مولانا محمد احسن صاحب نانوتویؒ کی قبر اس
طرح متصل تھی کہ دونوں قبروں کے درمیان بظاہر کسی قبر کی جگہ نہیں تھی۔ مولانا محمد فاروق جیسے ثقہ بزرگ کا بیان ہے کہ دیوبند کے
ہزار ہا باشندے اور ہیر و نجات کے حضرات اس امر سے واقف ہیں اور میں نے خود بھی حرار حضرت نانوتویؒ پر حاضری دی ہے اور
مولوی محمد احسن صاحب نانوتویؒ کی قبر کو حضرت نانوتویؒ کے مزار پاک سے متصل دیکھا ہے لیکن جب بعد وفات مولانا ذوالفقار علیؒ
لوگ قبر کی جگہ جو بزرگ کرنے کے لئے قبرستان گئے تو دیکھا گیا کہ مابین حرار حضرت قاسم العلوم و قبر مولانا محمد احسن فراخی بقدر ایک قبر
ظاہر ہو گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ "اس از کرامات حضرت نانوتویؒ است" (فریدی)

گفت تاریخ وقاش صدیق ☆ فضل رحمن بسینو بادا

۱۳۲۵ھ

دیگر تاریخ صوری:

مولوی فضل رحمن دہشتی ☆ ناظم و ناٹر دبیر بذلہ سنج
چوں ز دنیا جانب عقبی برفت ☆ جان پاک اور میدازد رد و رنج
گفتش صدیق صوری سال نقل ☆ بر ہزار و سہ صد افزا بست و بیخ

۱۳۲۵ھ

قطعہ تاریخ وفات حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری:

شہ رائے پور شاہ عبدالرحیم ☆ چو خواندہ بدرگاہ خویش کریم
بجسم ز صدیق سال و صالح ☆ بگفتا نقد فاز فوزا عظیما

۱۳۲۶ھ

قطعہ تاریخ وفات نواب محمد محمود علی خاں مرحوم:

فرشتہ خصلت محمود علی خاں نواب ☆ چو جان پاک بجان آفرین پاک سپرد
سروش بلہم غیبی بسال رحلت گفت ☆ زہائے ہائے گذر گو کہ مرد خیر نمود

۱۳۲۸ ۱۹۱۶
۳۲ ۳۲
۱۳۱۶ ۱۳۱۶
۱۳۱۶ھ

قطعہ دیگر:

آنکہ چمتاری ازو مرجع آفاق بود ☆ برزخ شوق دلش چوں در جنت کشود
ہاتف ازیں واقعہ سال ز صدیق گفت ☆ بے سرو پاشد ہمہ بذل و سخا خیر وجود

ذ ۶۰۰
ح ۶۰۰
ی ۱۰
و ۶
۱۳۱۶ھ

وفات:

۳۱ شوال ۱۳۳۲ھ کو (شب جمعہ میں ساڑھے دس بجے) عمر چودھری سال حضرت مولانا حکیم محمد صدیق قاسمی مراد آبادیؒ کا وصال ہوا۔ بعد نماز جمعہ مسجد شاہی مراد آباد میں آپ کے جنازے کی نماز مولانا نواب قاضی محی الدین احمد خاں فاروقی مراد آبادیؒ (تلیف حضرت مولانا نوتوتویؒ و خلیفہ حضرت حاجی صاحبؒ) نے پڑھائی۔ بعد نماز جنازہ لوگوں کے اصرار پر آپ کا چہرہ دکھایا گیا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ تیس فرما رہے ہیں۔ اپنے مکان کے قریب محلہ بنیہ میں اپنے خاندانی قبرستان کے متعدد دفن کئے گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اولاد:

حضرت مولانا محمد صدیق مراد آبادی کے دو صاحبزادے تھے: (۱) مولانا حکیم عبدالرحمن صاحب (۲) مولانا حکیم محمد فاروق صاحب۔ مولانا محمد فاروق نے آپ کی تمام کتابوں اور علمی تبرکات کو محفوظ رکھا۔ خود عالم، طبیب اور خوشنویس تھے۔ ایک ضخیم بیاض میں اپنے والد ماجد کا کلام فارسی بڑی محنت سے نہایت خوش خط طریقے پر نقل کیا اور ایک مفصل مقدمہ لکھا۔ تقریباً ایک سال کے بعد اپنے بزرگ باپ سے جا ملے۔ ان کے صاحبزادگان یہ ہیں: (۱) جناب محمد احسن صاحب (۲) جناب محمد محسن صاحب (۳) حکیم محمد عمر صاحب (۴) حکیم صلاح الدین صاحب (۵) پروفیسر محمد عثمان صاحب لیکچرار شعبہ انجینئرنگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

اذی الحجہ ۱۳۳۲ھ میں شب جمعہ کو حضرت قاضی نواب محی الدین احمد خاں فاروقی نے بھی وصال فرمایا، ان کے بعد صلح مراد آباد میں ہوائے مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب صدیقی مفسر اردوئی کے کوئی اور عالم ایسا باقی نہ رہا تھا کہ جو براہ راست حضرت قاسم العلوم والعارف سے فیض یاب ہو۔ ۱۳۶۶ھ میں وہ بھی عالم آخرت کو سدھار گئے۔ (فریدی) محمد محسن صاحب کا وصال ۲۲ جون ۱۹۷۳ء میں ہوا، محمد احسن صاحب کا وصال ۱۸ اکتوبر ۱۹۸۰ء میں ہوا، حکیم صلاح الدین صاحب کا وصال یکم جنوری ۱۹۸۳ء میں ہوا، حکیم محمد عمر صاحب کا وصال ۱۸ اپریل ۱۹۸۵ء میں ہوا، پروفیسر صاحب کا وصال ۲۲ جون ۱۹۸۶ء میں ہوا۔ (محبت الحق)

حضرت نانوتوی کی آخری یادگار

مفسر قرآن مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی امروی:

مفسر جلیل حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی امروی کے حالات و ملفوظات مرتب کرنے کا کئی سال سے ارادہ تھا لیکن یہ ارادہ ہنوز عملی شکل میں متشکل نہیں ہوا تھا۔ اتفاقاً بات صاحبزادہ مولوی سید محمد زہر شاہ قیصر مدیر رسالہ دارالعلوم دیوبند نے مجھے اس طرف توجہ دلائی اور میرے مضمون کے لئے یہی موضوع مقرر کیا۔ تعمیل کے بغیر چارہ کار نہ تھا اپنے پاس ایک مختصری یادداشت تھی جو حضرت کی زندگی میں بغیر کسی خاص اہتمام کے ضبط تحریر میں لائی گئی تھی اس کو سامنے رکھ کر کچھ حافظے پر زور ڈال کر نیز حضرت مولانا عبدالقدوس صدیقی دامِ فہلم سے مراجعت کر کے یہ چند صفحات لکھ رہا ہوں جو ایک رسالہ کے لئے کافی سے زائد ہیں توفیق الہی شامل حال ہوئی تو حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امروی اور حضرت حافظ صاحب کی مبسوط و مفصل سوانح عمریاں ان کی شان علم و علوئے مرتبت کے مطابق ملک کے سامنے پیش کجائیں گی۔

حضرت ایک علمی خاندان کے فرد، دارالعلوم دیوبند کے قدیم ترین فرزند نحمدہ قاسمی کے جرعہ کش رشحات رشیدی سے بہرہ یاب، فیوض امدادیہ سے مستفیض اور فیضان محدث امروی سے فیض یاب تھے۔ قرآن منہی کی خداداد دولت سے حصہ وافر ملا تھا۔ اعلیٰ بصیرت اور بے انتہا ذہانت و ذکاوت قدرت کی جانب سے ان کو ودیعت کی گئی تھی ساٹھ سال سے زائد وہ مندرس پر متمکن رہے ہزار ہا شاگردان علوم کو سیراب کیا ان کی محفل میں اللہ و رسول کا ذکر بزرگان دین کے تذکرے سن کر دل کو نشاط اور روح کو سرور حاصل ہوتا تھا۔ وہ اکابر دیوبند کی زندہ یادگار اور ناطق تاریخ تھے جب وہ اکابر کے چشم دید حالات اور ان کے ملفوظات سناتے تھے تو ستر اسی سال پیشتر کے قدسی صفات جسے بغایت شان زیبائی نظروں کے سامنے جلوہ گر ہو جاتے تھے افسوس کہ اچھا خاصہ موقع ملنے کے باوجود وہ سب واقعات من و عن قلم بند نہ

کئے جاسکے۔ احقر نے حافظ صاحبؒ کو بعد انتقال ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ پھر بقیہ حیات ہو کر تشریف لے آئے ہیں معاً یہ تہیہ کیا۔ بس اب ان کی تمام باتیں ایک ایک کر کے لکھوں گا لیکن یہ خواب میں خیال کی کرشمہ آرائیاں تھیں۔

تھا خواب میں خیال کو ان سے معاملہ ☆ جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھانہ سود تھا
اگر چہ فرمائش کے ساتھ ساتھ مجھ سے کہا گیا ہے بچپن خاندان وغیرہ عنوانات قائم کر کے نہ لکھا
جائے پھر بھی اجمالاً ان باتوں پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔

حضرت حافظ صاحبؒ کا سلسلہ نسب شیخ شہاب الدین سہروردیؒ سے متصل ہو کر رفتی و جانشین مصطفیٰ حضرت صدیق اکبرؓ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا آبائی وطن سندیلہ تھا آپ کے والد ماجد مولانا عنایت اللہ صاحبؒ سندیلہ ہی میں ۱۲۰۶ھ میں پیدا ہوئے۔ عالم شباب میں وطن کو خیر باد کہہ کر بمبئی کو اپنا مستقر بنایا یہاں وہ ریاست بھوپال کی جانب سے محافظ تھاج تھے۔ اہلنا پر وہ اکابر جو حج بیت اللہ کو گئے تھے ان سے متعارف تھے مولانا نانوتویؒ، مولانا گنگوہیؒ، مولانا محمد یعقوب صاحبؒ، مولانا عبدالحی صاحبؒ فرنگی مہلی نواب صدیق حسن خاں صاحبؒ وغیرہم بمبئی پہنچ کر ان ہی کے مکان پر فروکش ہوتے تھے ۱۳۰۲ھ میں مولانا عنایت اللہ کا بمبئی میں انتقال ہوا۔

حضرت حافظ صاحبؒ کے ۱۲۷۷ھ میں بمبئی میں پیدا ہوئے آپ کے دو بھائی اور تھے فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترتیب پر نام رکھے گئے تھے سب سے بڑے بھائی کا نام (مولوی) عبداللہ تھا، پچھلے خود (مولانا عبدالرحمنؒ) اور چھوٹے (حافظ) عبدالرحیم تھے۔

پانچ چھ سال کی عمر تھی کہ اپنی بہن کے ہمراہ مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں اپنے بہنوئی (عبدالعزیز ساجھی) کے پاس رہے مکہ میں اپنے ایک ہم نام حافظ صاحبؒ سے قرآن حفظ کیا یہ حافظ صاحبؒ گمینہ کے باشندے تھے۔ عبید الرحمن صاحب معلم الحجاج انھیں کے پوتے ہیں۔ "حفظ قرآن کے بعد پہلی محراب مسجد الحرام میں سنائی ۱۲۹۰ھ میں مکہ سے بمبئی واپس آئے، ابتدائی تعلیم کے بعد ۱۲۹۲ھ سے ۱۲۹۷ھ تک دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پائی وہاں کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کے

ساتھ ساتھ ترمذی شریف مولانا نانوتوی سے ان کے آخری دور میں پڑھی حضرت مولانا نانوتوی کی وفات کے بعد دیوبند سے مراد آباد آگئے اور یہاں سید العلماء حضرت مولانا امر وہی سے ۱۳۰۱ھ میں سند فراغ حاصل کی جو ان کا ایک کتاب کے اندر موجود محفوظ ہے۔

گنگوہ میں حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ سے بھی حدیث پڑھی۔ بھوپال میں قاضی محمد ایوب صاحب اور حسین بن محسن یعنی خزر جی سے جو بیک واسطہ علامہ شوکانی کے شاگرد تھے اور ان سے سند حدیث حاصل کی۔

گنگوہ میں حضرت حافظ احمد صاحب ابن حضرت قاسم العلوم اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دیوبندی آپ کے ہم درس تھے بعد فراغت چند سال مدرسہ شامی مراد آباد میں مدرس رہے پھر مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امر وہہ سے تعلق ہو گیا اور اپنے استاد حضرت محدث امر وہی کے وصال کے بعد ۱۳۳۰ھ سے مستقل طور پر بعدہ صدر مدرس و شیخ الحدیث و التفسیر فائز ہوئے۔ درمیان میں کچھ ماہ ریاست مینڈھو میں اور وفات سے چند سال پیشتر کچھ عرصہ ڈابھیل میں بعدہ دارالعلوم دیوبند میں درس دیا پھر امر وہہ تشریف لے آئے اور آخر وقت تک باوجود ضعیفی کے درس قرآن و حدیث دیتے رہے۔

۲۳ جمادی الثانیہ ۱۳۶۱ھ کی صبح کو یہ آفتاب علم و عرفان اپنی پوری پوری تابانیوں اور ضو فشانوں کے بعد غروب ہو گیا، محسن جامع مسجد امر وہہ کے جنوبی گوشہ میں حضرت محدث امر وہی کے بالکل قریب جگہ پائی۔

امروہہ آپ کا وطن ثانی بن گیا تھا مگر آخر وقت تک کوئی مکان آپ نے اپنے لئے تعمیر نہیں کرایا۔ عمر کے آخری چند سال مدرسہ کی چہار دیواری میں گزارے یہاں پر کئی وقت آپ کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں۔

آپ نے ایک بیش قیمت کتب خانہ جن میں چند نوادرات بھی ہیں مدرسہ امر وہہ کو وقف کر دیا تھا حضرت گودری مشاغل کی وجہ سے تصنیفات کا زیادہ موقع نہیں ملا: بیضاوی شریف کامل، مطول اور مختصر المعانی کے حواشی آپ کے علمی آثار ہیں آپ کے شاگرد کثیر تعداد میں ملک کے ہر حصہ میں موجود ہیں

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مدظلہ نے بھی مدرسہ شاہی مراد آباد میں آپ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کے صاحبزادگان میں ایک صاحبزادے مولانا عبدالقیوم شفق تھے۔ جو بہترین مناظر اور ملک کے مشہور قادر الکلام شاعر تھے۔ نوجوانی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت مولوی عبدالحی صاحب، مولانا عبدالقدوس صاحب، حافظ عبدالسلام صاحب اور مولانا عبدالمومن صاحب چار صاحبزادے موجود ہیں۔ مولانا عبدالقدوس صاحب مدظلہ مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امر وہہ کے صدر مدرس اور اپنے والد ماجد کے جانشین ہیں حضرت کے مریدین و مسترشدین بھی کافی تعداد میں ہیں۔

اب میں آپ کے چند ملفوظات پیش کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ ناظرین ان ملفوظات سے محظوظ ہوں گے اور ان کو پڑھ کر ان کی معلومات میں ایک مفید اضافہ ہوگا۔
حضرت مولانا نانوتویؒ سے متعلق!:

ایک مجلس میں فرمایا کہ ہم نے مولانا نانوتویؒ سے ایک مرتبہ علم لدنی کے معنی دریافت کئے تو فرمایا تم تو کھنکھل ہو آئے ہو وہاں پر تم نے دیکھا ہو گلہ کہ گزگا سے نہر کاٹ کر نکالی گئی ہے بس یوں ہی سمجھ لو کہ جس طرح اس نہر کا پانی گزگا سے متصل ہے یہی صورت علم لدنی کی ہے کہ علم الہی سے اس کا اتصال ہو جاتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا نانوتویؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا نے دہلی کے مطبع مجبائی اور میرٹھ کے مطبع ہاشمی میں تصحیح کا کام کیا ہے دس روپے سے زائد تنخواہ نہیں لیتے تھے دو آدمیوں کے لئے جو ساتھ ہوتے تھے (غالباً طالب علم ہوتے ہوئے) کھانے کی بھی شرط کر لیتے تھے۔

لیا کستان کے مشہور و معروف مفتی اور صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ مفتی محمود بھی آپ کے شاگرد تھے۔ کچھ عرصہ مدرسہ جامع مسجد امر وہہ میں پڑھ کر آپ سے حدیث کی سند حاصل کی۔ مراجعت کی جائے مولانا عبداللہ کھنکھل کا مضمون مفتی صاحب پر ماہنامہ الفرقان لکھنؤ۔
مولانا عبدالقیوم شفق ۱۳۱۵ھ میں پیدا ہوئے۔ جملہ علوم دینیہ عربیہ کی تحصیل و تکمیل جامع مسجد امر وہہ میں کی۔ نہایت ذہین و ذکی تھے۔ حافظہ غیر معمولی تھا۔ ذہانت میں ابو الفضل اور فیضی کے مثل تھے۔ شاعری میں کم عمری کے باوجود یہ طویل حاصل کر لیا تھا۔
صرف ۲۳ سال کی عمر ہوئی۔ ۱۳۳۹ھ میں انتقال ہوا۔ ۳۰ سال آپ کا ۹۶ جون ۱۹۶۷ء میں انتقال ہوا۔ اپنے والد کے قریب دفن ہوئے۔
باقی تین صاحبزادوں کے انتقال کی تاریخ معلوم نہ ہو سکی۔ (محب الحق)

فرمایا کہ میرٹھ میں مولانا احمد علی صاحب سہارن پوری نے بخاری کے تحشیہ کا کام مولانا نانوتوی کے سپرد کر دیا تھا اس پر بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ایک لڑکے کے سپرد اتنا بڑا کام کر دیا ہے یہ کیا حاشیہ لکھیں گے اس کی اطلاع جب مولانا احمد علی صاحب کو ہوئی تو انھوں نے معترضین سے فرمایا کہ تم لوگ بخاری کے جتنے مشکل مقامات ہوں ان پر نشان لگا لو پھر ان سے (مولانا نانوتوی سے) دریافت کر لو۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا پھر ان مقامات کا حاشیہ منگوا کر دکھایا تو مولانا نانوتوی نے جو جو احتمالات پیدا کر کے ان کے جوابات دیے تھے وہ احتمالات اور شبہات ان حضرات کے احتمالات سے بھی زیادہ تھے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ مولانا کے بحر علمی کو مان گئے۔

اسی موقع پر فرمایا کہ جہاں مولانا کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ مجھے عالم سمجھنے لگے ہیں بس انھوں نے کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر کی جس سے عام رجحان ان کی طرف نہ ہونے پائے، چنانچہ میرٹھ میں جب ان کے عالم ہونے کا پتہ چلا تو وہ ایک کتاب لیکر مولانا احمد علی سہارن پوری کے پاس آجاتے اور بازاروں میں سے ہو کر گزرتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ ایک طالب علم ہیں۔

فرمایا کہ مولانا کا لباس بہت سادہ تھا ایک کرتہ ہوتا جس کو دھو کر پہن لیا کرتے تھے۔

احقر نے دریافت کیا کہ نیلی چادر کا جو کہیں کہیں ذکر آتا ہے اس کی کیا نوعیت تھی فرمایا کہ مولانا چھتری تو رکھتے نہیں تھے دھوپ سے بچنے کے لئے نیلا کپڑا سر پر ڈال لیتے تھے، یہی چھتری کا کام دیتا تھا۔ فرمایا۔ مولانا کے پاس (زیادہ) کتابیں نہیں تھیں صرف قرآن مجید ان کے پاس رہتا تھا اور ایک چٹائی پر بیٹھے رہتے تھے یہ سنا تھا کہ گھر میں مکھڑو شریف بھی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ مطبع احمدی میرٹھ کی مطبوعہ بخاری شریف کے حواشی کا کچھ حصہ مولانا نانوتوی کے دست خاص کا لکھا ہوا ہے (کاتب کی غیر حاضری کی وجہ سے کچھ حصہ کی خود ہی کتابت کی) فرمایا کہ مولانا نانوتوی کی ناک پر گولی کا نشان تھا (جو خفیف تھا اور جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جہاد حریٹ ۱۸۵۷ء میں گولی لگنے کی وجہ سے ہوا ہے)۔

ایک مجلس میں فرمایا کہ مولانا نانوتوی ایک دن مکان کے اندر سے مٹھائی لے کر آئے اور مجھ کو دی۔ عادت اس طرح کی تھی آج یہ نئی بات دیکھ کر میں نے عرض کیا یہ مٹھائی کیسی ہے فرمایا کہ ایک مٹھنص

بیعت ہوا ہے اس کی مٹھائی ہے میں نے عرض کیا کہ حضور مجھ کو بھی اس شرف سے محروم نہ فرمائیں بیعت کر لیں فرمایا بیعت کا تعلق اصل میں تو عقیدت اور محبت سے ہے اور تم کو یہ بات حاصل ہے رکھی بیعت کی ضرورت نہیں ہے جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ جاؤ میں نے تم کو بیعت کر لیا فرمایا کرتے تھے اس طرح مجھے زبانی بیعت مولانا سے حاصل ہے یہ بھی فرمایا کہ مولانا بہت کم بیعت فرماتے تھے لیکن عورتوں کو بیعت سے منع نہیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ بیعت ہونے کی درخواست کرتی تھیں تو بے تامل و بے اصرار بیعت فرمایا کرتے تھے۔

دارالعلوم کا دور اول:

ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جب دیوبند پڑھنے کے لئے آیا ہوں تو وہاں شروع شروع میری طبیعت نہیں لگی میں رویا کرتا تھا مولانا رفیع الدین صاحب عثمانی مہتمم تھے انھوں نے اپنی فراست سے کام لیا اور مجھ کو ہم عمروں میں کھیلنے کی اجازت دیدی اس طرح میری طبیعت بہلی (کچھ عرصے بعد) میں نے مولانا نانوتوی سے ترمذی شروع کی ان کی طرز تقریر کے متعلق فرمایا کہ ایک ایک حدیث پر ایسی تقریر فرماتے تھے کہ سننے والے کو حیرت ہوتی تھی اس وقت تو سب باتیں سمجھ میں آ جاتی تھیں پھر کسی سے اس تقریر کو دریافت کرو تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی تھی فرمایا جس زمانے میں میں دیوبند گیا تھا مدرسہ کو قائم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا نو درابھی تعمیر نہیں ہوا تھا چند جھونپڑیاں پڑی ہوئی تھیں اس زمانے میں مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس مولانا سید احمد صاحب دہلوی ملا محمود صاحب مولانا منفع علی صاحب مدرس تھے اور مولانا رفیع الدین صاحب مہتمم تھے۔ احقر کے سوال کے جواب میں کہ کیا مولانا نانوتوی نے بھی مدرسہ دیوبند میں درس دیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں وہ دیوبند میں رہتے کب تھے کبھی آٹھ دس دن کو آگئے میں نے ان سے ترمذی دیوبند میں پڑھی اس کی صورت یہ ہوئی کہ مولانا بیمار ہو گئے تھے اور اس وجہ سے دیوبند ہی میں رہنے لگے تھے اور زیادہ عرصے تک رہے اس دوران میں ترمذی شروع کرادی میں بھی شریک ہو گیا۔

ترمذی کے درس کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں ترمذی کی قرآت زیادہ تر کرتا تھا ایک مرتبہ

ایک حدیث میں بے خیالی سے ستر (بالتشدید) کو ستر (بغیر تشدید) پڑھ گیا۔ مولانا نے ایک خاص انداز سے آواز بلند فرمایا ستر۔ فرماتے تھے وہ آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔
 فرمایا اس زمانے میں دیوبند میں ۳۶ سیر کے گیسوں ملتے تھے اور ۱۷-۱۸ سیر کا دودھ تھا میرے والد دس روپیہ ماہوار مجھے بھیجتے تھے جس میں سے پانچ روپے میں تمام کھانا ناشتہ، دودھ، چائے وغیرہ ہو جاتا تھا فرماتے تھے کہ دودھ اتنا اعلیٰ درجہ کا ہوتا تھا کہ اُس کی رنگت اوٹ کر سرخ ہو جاتی تھی۔
 فرمایا کہ مولانا رفیع الدین عثمانی دیوبندی صبح کے وقت طلبا کو نماز کے لئے یہ کہہ کر اٹھایا کرتے تھے۔ نختواٹھو (نختن مصدر فارسی سے مشتق کر کے)

فرمایا کہ مدرسہ اسلامیہ امر وہہ کی بنیاد مولانا نانوتویؒ کے ایما سے رکھی گئی ہے۔ حکیم عبدالصمد صاحب مرحوم نے (جو کے حضرت شاہ عبدالہادی قدس سرہ کی اولاد سے تھے) بیان کیا تھا کہ جب مولانا نانوتویؒ امر وہہ تشریف لائے تو فرمایا کہ تمہارے یہاں سے توفیض کا چشمہ جاری ہوا ہے اب بھی تم کو اجراء فیض کا انتظام کرنا چاہئے چنانچہ اسی زمانے میں مشورہ کر کے ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی جو مختلف محلوں میں رہا آخر میں جب مولانا امر وہی شاہی مدرسہ مراد آباد سے چلے آئے تو اہل امر وہہ نے اُن کو یہیں روک لیا اور مدرسہ جامع مسجد میں قائم ہو گیا۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ حدیث جبرئیلؑ میں جبرئیلؑ نے جو حضور ﷺ سے مالا ایمان، مالا اسلام اور مالا احسان یہ تین سوال کئے ہیں اس میں ایمان سے متعلق جتنے شعبے ہیں اُن کو مولانا نانوتویؒ نے بیان کر دیا ہے اُن کی قوت، بیانیہ اور علم کلام کا یہ کمال تھا کہ آدم سے لے کر دورے محمدؐ کی تک جتنے شہادت ڈالے جاسکتے ہیں اُن سب کا ازالہ اپنی تصنیفات میں فرما دیا ہے۔ مولانا گنگوہیؒ نے

الاسلام کی تشریح کی ہے اور اُن کی تصنیفات میں یہی رنگ غالب ہے اور مولانا نانوتویؒ نے احسان کے مرتبہ کو

مولانا محمد طاہر صاحب قاسمی کہتے تھے کہ یہی قصہ حضرت مولانا عبدالرحمن نے مجھ سے بھی بیان فرمایا تھا مولانا طاہر صاحب کی روایت کے مطابق اس وقت مولانا امر وہی کے الفاظ یہ تھے کہ مولانا نانوتویؒ نے بے ہرجوش آواز میں فرمایا کہ ستر اور مولانا کی آواز کی دھک میں اب تک اپنے سینہ میں محسوس کرتا ہوں۔ (قیہ)

واضح کیا ہے ان کے یہاں اسی کا غلبہ ہے اصلاح باطن اور تہذیب اخلاق کا سبق اُن کی ہر کتاب سے ملتا ہے۔
دیوبند سے مراد آباد:

فرمایا کہ جب مولانا نانوتوی کا انتقال ہو گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا دیوبند کی زمین مجھے
پھاڑے کھاتی ہے میری طبیعت وہاں نہ لگی، امیر شاہ خاں صاحب کے ذریعہ میں وہاں سے مراد آباد مولانا
امروہی کی خدمت میں آ گیا۔

فرمایا ادھر میرا مراد آباد آنا ہوا ادھر میری شکایات میرے والد صاحب کے پاس
پہنچیں ایک خط ایسا بھی پہنچا تھا جس پر مدرسہ کی مہر لگی ہوئی تھی میں نے اس امر کی مولانا رفیع الدین
عثمانی مرحوم سے شکایت بھی کی تھی۔

ان شکایتوں کو پڑھ کر والد نے مجھے مراد آباد ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا کہ تم نے مجھ کو بڑا
سخت صدمہ پہنچایا ہے والد صاحب کی عادت اس قسم کے جملے لکھنے کی نہ تھی یہ انتہائی افسوس اور صدمہ کی
وجہ سے لکھا تھا۔

اسی دوران میں مولانا عین القضاة صاحب کے چچا مولوی امیر علی صاحب مجھ سے ملنے کے
لئے دیوبند آئے (مولوی امیر علی صاحب مکہ معظمہ رہتے تھے میرے قیام مکہ کے زمانہ سے وہ مجھ سے
واقف تھے) وہاں انھوں نے مجھے نہ پایا تو لوگوں نے اُن سے بھی میری شکایتیں کیں وہ والد کے ملنے
والے تھے انھوں نے بھی والد کو خط لکھا کہ آپ کے لڑکے سے ملنے کے لئے میں دیوبند آتا اُن کو نہ پایا اور
ان کی شکایتیں سن کر افسوس ہوا اتفاق کی بات اسی زمانے میں دہلی کے ایک صاحب جن کا نام محمد یوسف تھا
جو نقشہ نویس تھے اور بہت ہوشیار اور قابل آدمی تھے مراد آباد آئے شاہی مدرسہ میں بھی آئے جب وہ
ایر فرماتے تھے کہ میں نے دیوبند میں مولانا نانوتوی کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں ”تمہارا انتظام میرا احمد حسن کے یہاں کر دیا
ہے۔“ ادھر اسی زمانہ میں مولانا امروہی نے استاذ کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے یہاں محی الدین پڑھنے کو
آئیں گے۔ مولانا امروہی کو اس کا برابر خیال تھا کہ محی الدین سے کون مراد ہیں۔ رہے خواب محی الدین مراد آبادی وہ میرے مدرس
ہیں۔ جب حافظ صاحب مراد آباد پہنچے اور انھوں نے اپنی ایک اور روپائے صادق کا تذکرہ مولانا امروہی سے کیا تب ان پر
مکشف ہوا کہ محی الدین یہ تھے۔ (فریدی)

مولانا امروہی کے درس میں آئے تو حدیث کا سبق ہو رہا تھا مولانا امروہی مجھ کو اپنے پاس منہ کے متصل بٹھایا کرتے تھے اُن صاحب نے کہا مجھ کو ایک حدیث میں شبہ ہو گیا ہے آپ کے طلبا اس کو حل کر سکیں تو اچھا ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ میں زیادہ انعام تو نہیں دے سکتا اس لئے کہ مسافر ہوں اور ابھی سفر کرنا ہے البتہ ایک بھنی اُس صاحب موانعام دونگا جو میرے شبہ کو دور کر دے اُن کا شبہ اس حدیث پر تھا۔

وليضع يديه قبل ركبتيه شبه كى تقرير و معنى مشهور تقرير ہے کہ اُس کہ شروع میں تو منع فرمایا جا رہا ہے اونٹ کی طرح سے سجدے میں نہیں جانا چاہئے ظاہر ہے کہ اونٹ پہلے اپنے اگلے قدم بچھاتا ہے جو بجز لہ ہاتھ کہ ہیں اور بعد کو پچھلے پاؤں بچھاتا ہے آگے جس چیز کا امر ہے وہ عینہ وہی صورت ہے جس سے منع کیا گیا ہے اس شبہ کو دور کرنا تھا۔ فرمایا کہ شرح نے اس کے بہت سے جوابات دئے ہیں میں نے اس وقت تک کوئی جواب نہیں دیکھا تھا، اس وقت مولانا نانوتوی کی ایک بات یاد آگئی کہ اصل حدیث پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا ہے انسان خود ایک معنی پیدا کر کے اس میں اعتراض وارد کرتا ہے اسی اصول پر میں نے غور کیا تو بات سمجھ میں آگئی اب یہ سوال ایک طرف سے شروع ہوا پورا حلقہ تھا۔ میرا نمبر سب سے آخر میں تھا جب سب طلباء جواب دے چکے تو مجھ سے دریافت کیا گیا کہ تم بولو میں نے کہا کہ حدیث پر کوئی شبہ وارد نہیں ہو سکتا شبہ اس وجہ سے ہے کہ ولیضع میں جو وضع ہے اس کو رکھنے کے معنی میں لے لیا ہے حالانکہ یہاں پر ہٹانے اور دور رکھنے کے معنی ہیں، عن صلہ مقدر مانا جائیگا تو مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کی بیٹھک نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہٹائے رکھے گھٹنوں سے پہلے۔ یعنی پہلے گھٹنے رکھے بعد کو ہاتھ رکھے پس جس چیز سے شروع میں منع فرمایا ہے اسی سے ولیضع بیدہ میں بھی منع کیا گیا ہے قرآن مجید میں وضع عنک ہے جس کے معنی دور کرنے کے ہیں بغیر صلہ کے بھی اسی معنی میں آیا ہے ولیضع العجز یہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جزیہ موقوف کر دیں گے۔

یہ جواب سن کر محمد یوسف صاحب دہلوی خاموش ہو گئے مولانا امروہی نے اُن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ فرمائیے آپ کا شبہ کہاں گیا انھوں نے کہا جی ہاں شبہ تو بالکل اُڑا دیا مولانا نے فرمایا اب وہ چونی انعام کی دلوائیے انھوں نے جیب سے چونی نکالی مولانا امروہی نے چونی لے کر مجھے دی میں نے اُس

کے لینے میں تامل کیا اس پر مولانا نے فرمایا اس کو رکھ لو یہ انعام کی ہے میں نے حسب ارشاد رکھ لی اب مولانا نے محمد یوسف صاحب دہلوی سے (یہ بھی والد صاحب کے ملنے والوں میں تھے) فرمایا کہ آپ یہ کام کریں کہ ان کے والد کو ایک خط لکھیں چنانچہ انہوں نے والد صاحب کو ایک خط لکھا جس میں اُن کو مبارکباد لکھی کہ آپ کا لڑکا بہت قابل ہے اس خط کے پہنچنے پر والد صاحب کو اطمینان ہوا اور اُن کی رضامندی کے خطوط آئے۔

مولانا گنگوہیؒ سے متعلق!:

ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے مولانا گنگوہیؒ کے یہاں چودہ دن میں بخاری شریف جلد ثانی پڑھی تھی۔ ایک مجلس میں مولانا گنگوہیؒ کے علم و کمال اور اُن کے تجر اور بروقت رفع اشکال کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک استفتا مولانا کی خدمت میں آیا کہ نابالغ کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ مولانا نے جواب دیا کہ ناجائز ہے۔ طلبا نے دلیل دریافت کی۔ تو فرمایا دلیل ”الامام ضامن“ ہے جو تم حدیث میں پڑھ چکے ہو۔ تجھ ضامن نہیں ہو سکتا، امام بھی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے تھے کہ یہ دلیل منکر حیرت ہوگئی کہ یہ حدیث تو دیکھی اور سنی ہوئی تھی مگر اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہوئی کہ اس میں سے یہ مضمون نکلتا ہے۔ فرمایا خود میں نے مکہ معظمہ میں جو پہلی مرتبہ قرآن شریف تراویح میں سنایا تو میں نابالغ تھا۔

مولانا گنگوہیؒ کے تذکرے میں ایک اور واقعہ کا بھی ذکر فرمایا۔ صورت واقعہ یہ تھی کہ دہلی میں پنجابیوں میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے غالباً چار بیٹے تھے جن میں سے ایک خفی تھا اور باقی اہل حدیث تھے مولانا نذیر حسینؒ کا زمانہ تھا۔ ان متوفی کے تر کے میں کچھ مکانات چاندنی چوک میں بھی تھے اور ان مکانات میں کسبیاں رہتی تھیں، خفی بھائی نے اپنے حصہ میں وہ مکانات نہیں لئے بلکہ اُن کی بجائے دوسرے مکانات لئے۔ اہل حدیث بھائیوں نے شوق سے وہ کسبیوں والے مکانات اپنے حصہ میں لگا لئے اور اپنے خفی بھائی کو طعنہ دیا کہ میاں! ابو حنیفہ نے تمہارا دین تو خراب کیا ہی تھا دنیا بھی خراب کر دی۔ اچھے خاصے مکان زیادہ کرائے والے چھوڑ کر کم کرائے والے مکانات لے لئے اب جب کبھی

وہ حنفی بھائی نظر پڑتا تھا یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اس امر کی کوئی حدیث لاؤ کہ یہ کرایہ حرام ہے اس نے ایک دن حضرت مولانا گنگوہیؒ کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ یہ صورت ہے، میرے بھائی مجھے طعنہ دیتے ہیں اور حرمت کے ثابت کرنے والی حدیث طلب کرتے ہیں میں بہت پریشان ہوں اُن کے سامنے پڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، گھر میں ایسے وقت جاتا ہوں کہ وہ سو رہے ہوں یا کہیں دوسری جگہ ہوں۔ اس کے ساتھ غم و غصہ کے کلمات بھی لکھے اور لکھا کہ آپ ہی میری تسلی فرمائیں گے۔ دہلی میں کسی نے تشفی نہیں کی جب یہ خط گنگوہ پہنچا مولانا نے اس خط کو سنایا اور فرمایا کہ تعجب ہے۔ دہلی تو علم کا منبع ہے وہاں کے علماء نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا۔ ان اہل حدیث کا حرمت کی حدیث طلب کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ”الناچور کو تو ال کو ڈانٹے“ یہ تو الٰہی بات ہوگئی، حدیث اُن کو حلت کی پیش کرنی چاہئے تھی۔ ہماری دلیل تو یہ ہے جو حدیث میں موجود ہے ”مہر البغی حرام“ اب وہ حلال بتاتے ہیں تو حدیث سے ثابت کریں یہی جواب خط میں لکھ دیا۔ جواب کا پہنچنا تھا کہ اس حنفی بھائی نے اپنے اہل حدیث بھائیوں کے سامنے آکر کہا کہ میاں! ہمارے پاس حرمت کی یہ دلیل موجود ہے ”مہر البغی حرام“ اب تم حلال سمجھتے ہو تو اس کی دلیل حدیث سے پیش کرو، کوئی حدیث ہوتی تو پیش کرتے آخر خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے، حنفی کو موقع ہاتھ آ گیا جب وہ بھائی سامنے آتے یہ (زور سے) کہتا ”مہر البغی حرام“ ان کو سخت ندامت ہوتی تھی بالاخر انہوں نے وہ طعنہ دینا موقوف کر دیا۔

حنفی نے مولانا گنگوہیؒ کو شکریے کا خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ایسا جواب مرحمت فرمایا ہے کہ میرا کام چل گیا اب وہ سب بھائی خاموش و شرمندہ ہیں کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔
حضرت حاجی صاحبؒ اور حضرت مولانا گنگوہیؒ کی اجازت:

حضرت مولانا گنگوہیؒ اور شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ صاحبؒ مہاجر کی کی اجازت کا بھی ذکر فرمایا کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا گنگوہیؒ کے یہاں جس زمانہ میں دورہ حدیث میں شامل ہوا گنگوہ میں ایک صاحب کا انتقال ہوا جن کا نام مولانا عبدالرحمن تھا اور جو حضرت مولانا گنگوہیؒ کے خلیفہ تھے، اُن کے انتقال کے بعد ان کا سامان نیلام ہوا۔ میں نے اُن کے سامان میں سے ایک لٹاؤ جس میں

چند کاغذات تھے نیلام میں خریدا۔ اس کو جب کھول کر دیکھا تو ایک سند حدیث تھی جو مولانا نے اُن کو دی تھی اور اس میں ان تمام کتابوں کے نام درج تھے جو انھوں نے مولانا سے پڑھی تھیں۔ دوسرا کاغذ اجازت بیعت کا تھا۔ میں نے اُن کاغذات کو پڑھا اور پڑھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت نے اُن کو ملاحظہ فرمایا۔ سند حدیث کو تو حضرت نے رکھ لیا اور جس کاغذ میں بیعت کی اجازت تحریر تھی وہ مجھے واپس دے دیا چونکہ میرا نام اور ان مرحوم کا نام ایک تھا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے گویا مجھ کو اشارۃً بیعت کی اجازت دی سند حدیث والا کاغذ یہ کبکر واپس لے لیا کہ تم نے اس میں لکھی ہوئی سب کتا ہیں مجھ سے نہیں پڑھی ہیں، دوسرا کاغذ (اجازت والا) تم رکھ لو۔ فرمایا اس سے پہلے میں دیوبند میں حضرت مولانا گنگوہیؒ سے بیعت ہو چکا تھا بیعت کرنے کے بعد مولانا نے فرمایا کہ جس طرح میں نے بیعت کی ہے اور جس طریقہ سے تمہارے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہیں حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اسی طرح لکھا ہے۔

حضرت حاجی صاحبؒ کی اجازت کا واقعہ اس طرح سنایا کہ جب امیر شاہ خان صاحب مرحوم حج کو تشریف لے گئے تو واپسی کے وقت حضرت حاجی صاحبؒ سے انھوں نے عرض کیا کہ میں ہندوستان واپس جا رہا ہوں وہاں میں اپنے دوستوں کو تحفہ لیکر جاتا وہ مجھ سے نہ ہو سکا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے چند دوستوں کے لئے (جو آپ کے سلسلے کے ہیں) میں آپ سے اجازت نامہ حاصل کر لوں تاکہ اُن کو یہ تحفہ پیش کر سکوں۔ حضرت نے وہ فہرست لے لی جس میں خان صاحب موصوف نے اپنے دوستوں کے نام لکھے تھے اس میں ایک میرا نام بھی تھا۔ اس فہرست میں بہت سے نام تھے، حاجی صاحبؒ نے دوسرے وقت ان میں سے چند نام (غالباً تین چار) انتخاب کئے جن کو اجازت دی اُن میں سے ایک میرا نام بھی تھا خان صاحب نے وہ اجازت نامہ مجھے لا کر دیا اور سب واقعہ بیان کیا فرمایا کہ میں حاجی صاحبؒ سے مکہ کے قیام کے زمانہ میں ملتا رہتا تھا اس زمانہ میں، میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ قیامت آگئی ہے میری زبان پر استغفار جاری ہے، سخت خوفناک سماں ہے پھر ایک مکان دیکھا جس میں آنحضرت ﷺ تشریف فرما ہیں، وہاں تجلی باری تعالیٰ بھی دکھلائی گئی۔ جبریل اور صحابہ کرام کی بھی اس

خواب میں زیارت ہوئی، اُس مکان میں پہنچ کر وہ خوف و ہراس دور ہوا۔ اسی مجلس میں حاجی صاحب کو بھی بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس خواب کو میں نے حاجی صاحب سے بیان کیا تھا، انھوں نے فرمایا تھا کہ تم کو ہمارے یہاں سے قہقہہ ہوگا، اس کے ایک عرصے کے بعد یہ اجازت نامہ جس کا ذکر ہوا حاصل ہوا۔

فرمایا کہ میرے زمانہ میں عبداللہ مکہ کے شریف تھے اور سلطان عبدالعزیز سلطان ترکی تھے۔

ایک پیر صاحب کا واقعہ:

ایک پیر صاحب کا واقعہ بتلایا کہ وہ پونہ میں آیا کرتے تھے اُن کے مریدین خلاق توحید احمد کے مرتکب ہوتے تھے۔ میں نے ان مریدین کے سامنے تین آیتیں رکھیں اور کہا کہ تم جو شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارتے ہو اس کے متعلق قرآن کا فیصلہ سنو! (۱) انما یستجیب الذین یسمعون للآیۃ (انعام) (۲) وما انت بمسمع من فی القبور (فاطر) (۳) ومن اضل ممن یدعو امن دون اللہ من لا یتجیب لہ الی یوم القیمة (احقاف)

ان تینوں آیتوں سے بطور صغریٰ و کبریٰ نتیجہ صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ جو سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں اور جو قبروں میں ہیں ان کو سنا نہیں سکتے پس نتیجہ نکلا کہ قبروں والے جواب بھی نہیں دے سکتے اب جو ایسوں کو پکاریں کہ جواب نہ دے سکیں اس سے زیادہ گمراہ کون؟ ان آیتوں کو پیر صاحب کے سامنے رکھا گیا اُن سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔

شیخ طیب کی نے (جو مشہور ادیب تھے اور ریاست رامپور میں رہتے تھے) ان آیتوں کو اس ترتیب سے سنا تو فرمایا کہ میں نے بہت سی آیتیں توحید کے مضمون کی جمع کی تھیں مگر ان تین آیتوں نے بہت ہی زبردست طریقہ سے مقصد واضح کر دیا۔

فرمایا کہ توحید کے بارے میں یہ آیت بھی جامع ہے والذین تدعون من دونہ (الی) ولا یشک مثل خبیر۔ (فاطر)

ایک مجلس میں فرمایا کہ اجعلو اللہم ما استطعتم من قویہ من رباط الخیل۔ میں توتہ کو کمرہ لایا گیا ہے جو اشارہ ہے اس طرف کہ قوت ہر زمانہ میں بدلتی رہے گی ایک زمانہ میں تیر و کان تھے پھر کچھ

اور اور آج کچھ اور لیکن رب ساط الخیال اسکو کمرہ نہیں لایا گیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا کے علم میں تھا کہ قیامت تک گھوڑے سے میدان جنگ میں کام لیا جاتا رہے گا، پہلے اونٹ ہاتھی بھی جنگ میں ہوتے تھے اب دونوں کا رواج ختم ہو گیا نچر کا کام بھی گاڑیوں نے اور بار برداری کے ذرائع نے لے لیا، لیکن گھوڑا آج بھی اسی طریقہ سے رکھا جاتا ہے جس طرح پہلے رکھا جاتا تھا گھوڑے کا رسالہ ضرور ہوتا ہے، وجہ یہ کہ میدان جنگ میں گھوڑا جو کام کر لیتا ہے وہ کسی اور ذریعہ سے نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے الخیل معقودہ بنوا صیہا الخیر الی یوم القیامۃ، فرمایا کہ رسول ﷺ کا کلام اللہ ہی کا کلام ہے اس کلام سے بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ گھوڑا قیامت تک میدان جنگ میں کام دیکھا پھر یہ شعر پڑھا۔

گفت الگفت زبان محمد است ☆ آرے زبان حق بدہان محمد است

عربی زبان ام الہیہ ہے:

ایک دن فرمایا کہ بمبئی میں عبداللہ احمد نام کے ایک صاحب رہتے تھے ان سے ایک شخص آکر ملا جو کئی زبانیں جانتا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں سب عربی سے نکلی ہیں، عبداللہ احمد سے وہ شخص حج کے سلسلہ میں کچھ ہولتیں چاہتے تھے انھوں نے اس کی سفارش کمشنر سے کی، اتفاق سے جس وقت وہ کمشنر سے سفارش کر رہے تھے وہ شخص آتا ہوا دکھائی دیا، عبداللہ احمد نے کمشنر سے کہا کہ اس شخص کا کمال یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عربی تمام زبانوں کی اصل ہے خواہ کوئی سی زبان کیوں نہ ہو کمشنر نے کہا اچھا، اس شخص کو جلد بلاؤ چنانچہ بلایا گیا، کمشنر نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارا کہنا ہے کہ تمام زبانیں عربی سے نکلی ہیں اچھا یہ بتلاؤ کہ ”اندھے“ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس نے کہا ”بلاسنڈ“ کمشنر نے کہا یہ بتلاؤ کہ یہ لفظ عربی سے کیسے نکلا اس شخص نے جواب دیا کہ عربی میں ”بلامین“ (بے آنکھ والا) تھا اس کو ”بلاسنڈ“ کر لیا کمشنر حیران رہ گیا اور اس کے کام کو پورا کرنے کا وعدہ کر لیا۔

اس بات کا چرچا عبداللہ احمد کی مجلس میں ہوا اور ہندوستانیوں نے آپس میں کہا کہ میاں! بلاسنڈ کو تو بتلا دیا اگر لفظ ”اندھا“ کے متعلق پوچھا گیا تو کیا جواب دیکھا شیخ عبداللہ احمد نے کہا ٹھہر جاؤ جب وہ شخص آجائے خود اسی سے سوال کرنا، چنانچہ اسی دن یا کسی اور دن وہ شخص ملنے آیا تو اس سے حاضرین محفل

نے سوال کیا کہ میاں! لفظ ”اندھا“ کے متعلق جو اردو ہے کیا کہو گے؟ اس شخص نے بے ساختہ کہا کہ عربی میں ”عین ضاع“ (آنکھ ضائع ہوئی) تھا اس سے اندھا بن گیا ہے۔

زمانہ کا تفاوت اور موجودہ دور میں غفلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ہمارے بچپن میں عورتیں جھولا جھلاتے وقت یہ کہتی جاتی تھیں۔

جل جلالک یا مولانا ☆ نحن عبیدک لا تنانا
اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ پہلے طوطوں تک کو یہ کلمات سکھائے جاتے تھے۔
حق اللہ پاک ذات اللہ صحیح ہے ☆ خدا اور اس کا رسول غافل نہ ہو
خدا کو نہ بھول

(آج لوگ اپنے بچوں کو بھی کلمہ اور نیک بات نہیں سکھاتے)

حضرت بعض اسفار میں حضرت مولانا نانو توئی کے ہمراہ گئے ہیں، مظفرنگر، روڑکی، میران کلیر کے سفر میں کئی مرتبہ اپنی ہمراہی کا ذکر فرمایا ہے۔
حضرت مولانا نانو توئی کا ایک قطعہ:

حضرت مولانا نانو توئی کی سخن نوازی پر ایک مستقل مقالہ لکھ چکا ہوں اُس میں وہ اشعار بھی درج کر دئے ہیں جو حضرت حافظ صاحب کی زبانی سنے تھے اس لئے اُن کا اعادہ نہیں کرتا یہاں پر ایک قطعہ پیش کرتا ہوں جس کے متعلق حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت مولانا نانو توئی پنڈت دیانند کے مقابلہ کیلئے روڑکی تشریف لے گئے تھے یہ قطعہ تحریر فرمایا تھا۔

ہم وہ نہیں ہیں دور سے باتیں کیا کریں ☆ ہم وہ نہیں ہیں دون کی بیٹھے لیا کریں
اپنا یہ قول ہے کہ ہم آئے ہیں آئیے ☆ دعویٰ اگر کیا ہے تو کچھ کر دکھائیے

ایک مرتبہ جزیرہ انڈمان کے اسیروں میں سے ایک اسیر مجاہد کی نعتیہ نظم کا یہ درد انگیز شعر سنایا۔
اے فخر نوح کیا کہیں پوجھے اگر کوئی ☆ کشتی یہ ڈوبتی ہوئی کس نا خدا کی ہے
حضرت کولسان العصر اکبر الہ آبادی کا کلام بہت پسند تھا ان کے بہت سے منتخب اشعار اپنی

بیاض میں درج فرمائے تھے یہ دو شعر اُن کے بہت پسند تھے۔

اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں ☆ اللہ کے بندوں نے نصیحتیں اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا
جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا ☆ جب مر مر عصیاں چلنے لگیں اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا
حکیم مومن خان مومن کے کلام سے بہت ربط تھا غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ مومن خاندان ولی
اللہی سے تیز اندازہ تعلق رکھتے تھے اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کے خاص آدمی تھے۔ ایک دن ایک موقع پر
مومن کا یہ شعر پڑھا۔

وہ چلا، جان چلی، دونوں یہاں سے کھسکے ☆ اس کو تھا مومن کہ اُسے پاؤں چڑوں کس کس کے
اپنے اکابر کے علاوہ، دیوبند، امر وہہ، راجپور، مراد آباد، بمبئی وغیرہ میں جن جن علماء مشائخ،
اطباء و ادباء اور ہر فن کے ماہرین سے جو ملاقاتیں ہوئیں اُن کا تذکرہ بڑے دلچسپ پیرایہ میں کیا کرتے
تھے، گنجائش نہیں ورنہ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلیؒ، شاہ ابوالخیر دہلویؒ، مولانا عین القضاۃ لکھنویؒ، مولانا
عبدالحق صاحب خیر آبادیؒ، نواب صدیق حسن خان لہور جامی و ارث علی شاہ صاحبؒ (جو آپ کی نانی کے
حقیقی بھائی اور آپ کے نانا مولانا خادم حسین صاحبؒ کے مرید تھے) کی ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں کی دل
آویز باتیں جو کچھ یاد تھیں سب لکھتا۔

آپ کا طریقہ درس، طریقہ وعظ، قرآن و حدیث کے علمی نکات یہ سب پہلو باقی رہ گئے۔ اور
مضمون قدرے طویل ہو گیا۔

ایک بزرگ کی بزرگانہ باتیں روح کو غیر فانی لذت اور دل کو لازوال سرور بخشتی ہیں آج
حضرت حافظ صاحبؒ ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کے کلمات طیبات، ان کے نکات علیہ یاد آ کر
ان کی مجلس کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ ع

ہوئے گل راز کہ جویم جز گلاب

اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے اساتذہ کرام کی مغفرت بظلیل سرور کائنات ﷺ فرمائے اور ان کی

قبروں کو نور سے معمور کرے۔ آمین۔

”آزاد کی کہانی“ نقد و نظر کی کسوٹی پر

مولانا آزاد مرحوم جنہیں دنیا سے رخصت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ علم و فکر اور فہم و نظر کے اعتبار سے ہندوستان ہی کی نہیں تمام دنیائے اسلام کی ایک قابل فخر شخصیت تھے۔ ان کا علمی شغف و انہماک، ان کی وسعت نظر، ان کا حافظہ، ان کی تاریخی معلومات، ان کا نہ ختم ہونے والا شوق مطالعہ، ان کی قوت اخذ و استنباط اللہ کا ایک ایسا عطیہ تھا جس کا فیضان ان کی تمام تحریروں اور تقریروں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنی خداداد ذہانت و فطانت، ذکاوت و فراست اور تجربہ و مہارت کی مدد سے سیاسیات ہی میں نہیں بلکہ تاریخ و ادب کلام و عقائد میں بھی بہترین قلمی شاہکار چھوڑے اور اردو زبان کو ایسے علمی و ادبی خزانے سے مالا مال کیا جس سے ہر دور کا مورخ و ادیب فیض یاب ہوتا رہے گا۔ انہوں نے ”ترجمان القرآن“ لکھ کر اردو کی پر شکوہ تفسیر اور شاندار ترجمہ کے ذریعہ قرآن کی شوکت و عظمت کا اور اس کے معانی و بیان کی سر بلندی کا بہترین انداز میں اظہار کیا۔ غرض کہ وہ نصف صدی تک علم و ادب، خطابت و بیان سیاست و فراست کی مملکت کے فرماں روا رہے اور چار داگ عالم میں ان کے علمی کمالات کی شہرت ہوئی۔ لیکن ان کے منصل اور مکمل سوانح حیات نہ تو ان کے قلم سے ان کی حیات میں شائع ہوئے اور نہ کسی اور ہی نے اب تک یہ کام انجام دیا۔

البتہ ان کی وفات کے معابد مولانا عبدالرزاق طبع آبادی نے ”آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے۔ جس کے متعلق ان کا بیان ہے کہ آج سے ۳۷ سال پہلے ۱۹۲۱ء میں جب مولانا نظر بند کئے گئے اور طبع آبادی صاحب کو بھی ان کی رفاقت میسر آئی تو جیل کی اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مولانا سے خواہش کی کہ وہ اپنے حالات قلمبند کرادیں اور پھر مولانا جو کچھ اٹھاتے گئے یہ اس کو لکھتے گئے۔ اس طرح ایک نامکمل ”سوانح عمری“ انہوں نے مرتب کر لی جیسا کہ کتاب کے دیباچہ میں طبع آبادی صاحب لکھتے ہیں:

”آزاد کی کہانی کی شان یہ ہے کہ ۱۹۲۱ء میں ہم سب جیل کے چرند پرند بن چکے تھے۔ جیل کی عجیب زندگی کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو جیل میں رہ چکے ہیں میں نے مولانا کو اکسانا شروع کیا کہ

مولانا عبدالرزاق صاحب طبع آبادی کا بمبئی میں ۲۳ جون ۱۹۵۹ء کو انتقال ہوا۔ تدفین طبع آبادی میں ہوئی۔ (محبت الحق)

تذکرہ کی دوسری جلد لکھا دیں۔“

ہفتوں میرے بھائی میرے بھائی کہہ کر ٹالتے رہے مگر میں بھی بھلا پیچھا چھوڑنے والا..... تقاضا جاری رکھا آخر راضی ہو گئے اور کتاب لکھنا شروع کر دی۔ بولتے جاتے تھے اور میں پینسل سے گھسیٹتا جاتا تھا۔ رات کو مسودہ صاف کر لیتا تھا۔ مولانا نے یہ کتاب اس طرح لکھوادی کہ سامنے نہ کوئی نوٹ ہوتا تھا اور نہ کبھی مجھ سے پوچھا کل کیا لکھوایا تھا۔ (ص ۱۸، ۱۹)

اس کے بعد لکھتے ہیں:

”یہ کتاب خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مولانا نے اپنے والد مرحوم کے حالات بھی لکھوادیے ہیں اور خود اپنے حالات بھی چار سال کی عمر سے۔ (ص ۲۱) اسی صفحہ پر لکھتے ہیں: اس کتاب کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ مولانا کی روزمرہ کی بات چیت قلمبند ہو گئی ہے۔“ ایک جگہ دیا پیچہ میں لکھتے ہیں: ”تو میں نے مولانا کو پھلانا شروع کیا۔ پھلانا کا لفظ جان بوجھ کر لکھا ہے۔ بھلا مولانا کو کون پھلا سکتا تھا۔ مگر دل کی محبت کا عالم اور ہی ہوتا ہے۔ آخر راضی ہو گئے اور تذکرہ میں جن معاملات کا اجمال ہے ان کی شرح بھی آگئی مگر ہوا کیا دوسرے دن صبح ہی مسودہ لوٹا لیا گیا۔ فرمایا نظر ثانی کر لوں۔ عرض کیا آپ کی نظر ثانی کا حال معلوم ہے یعنی مسودہ غائب اور ہوا بھی یہی۔ (ص ۲۰، ۲۱)

ایک جگہ لکھتے ہیں:

”اس کتاب میں بعینہ وہی کچھ ہے جو مولانا کی زبان سے نکلا تھا۔ میں نے اس میں کسی قسم کا بھی تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خلاف دیانت سمجھا ہے۔ عجائبات روزگار میں سے یہ کتاب بھی اس لحاظ سے ایک عجوبہ ہے کہ مولانا اپنی پوری زندگی میں شاید کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بھولے نہیں۔ مگر لکھا دینے کے بعد اس کتاب کو بالکل ہی بھول گئے۔ مجھے حق الیقین ہے کتاب یاد آجاتی تو ”نظر ثانی“ کے بہانے ضرور چھین لیتے اور کتاب ان کے بیٹا مسودوں میں ہمیشہ کے لئے غائب ہو جاتی..... ہر ملاقات پر دل دھڑکتا کہیں کتاب مانگ نہ بیٹھیں۔ خود میں بھی اپنی جگہ بڑا ”کائیاں“ تھا۔ کتاب کا معاملہ اس طرح غائب رکھا جیسے موجود ہی نہیں۔ آپ کو کوئی جگہ حاشیے میں نظر آئے گا مسودے میں جگہ خالی ہے۔ اسی لئے کہ مولانا کو یاد ہوا نہیں اور کتاب دنیا سے محروم ہو گئی۔ (ص ۲۲)

میں نے اس کتاب کو جو بقول مولانا طبع آبادی عجائبات روزگار میں سے ایک عجوبہ

ہے۔ ذوق و شوق کی نظر سے دیکھا، کتاب واقعی بڑی دلچسپ ہے اور ایک تاریخی عظمت رکھنے والے انسان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس میں ایک خاص دلکشی بھی ہے۔ لیکن تنقید کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مولانا آزاد ہی کی لکھائی ہوئی اور بعینہ انھیں کے الفاظ میں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مولانا نے یہ کتاب اس طرح لکھوائی کہ کوئی نوٹ تک اُن کے سامنے نہ ہوتا تھا۔ لیکن مولانا کے خداداد حافظہ کے پیش نظر جس کا مولانا طبع آبادی نے بھی ذکر کیا ہے اور خود مولانا نے بھی اپنے بعض مضامین و خطوط میں اللہ کے اس انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات مستبعد نظر آتی ہے کہ مولانا کو اپنی ذات یا اپنے بزرگوں کے حالات، واقعات لکھواتے وقت ایسا تسامح ہوا ہو جس سے واقعہ کا وقوع ہی تاریخی و تحقیقی حیثیت سے ناممکن ہو جائے یا واقعات کے ضبط سنن میں ایسا تضاد و تناقض ہو کہ جس سے واقعہ کے وقوع ہی کی نفی ہوتی ہو۔ اس کتاب میں جو بہت سی تاریخی غلطیاں ہیں وہ تسامح اور سہو کے ذیل میں نہیں آتیں اور نہ اسماہ رجال، اسماہ کتب اور اسماہ آثار کی بعض اغلاط کو کاتب کے سر ڈالا جاسکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ مولانا آزاد کے ایک استاذ کا نام تک بار بار غلط آتا ہے۔

اس کتاب کو برادر م حکیم سید حسن ثنی صاحب رضوی ندوی مدظلہ نے بھی غور و خوض کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ جنھیں مولانا آزاد سے اجراء "الہلال" کے زمانے سے ہی غیر معمولی عقیدت پیدا ہوئی تھی

مولانا حکیم سید حسن ثنی صاحب رضوی ان گناہ علم اور اعلیٰ فکر و نظر میں سے ہیں جو اپنی خداداد ذہانت و ذوق صحیح و وسیع مطالعہ اور سلامت فکر کے لحاظ سے بڑے بلند مقام کے حامل ہیں لیکن اپنی گوش نشینی اور خاموشی کی وجہ سے بہت کم معروف ہیں۔ مولانا کا دادھیال امر وہد کا مشہور رضوی سادات کا خاندان ہے اور نانیہال خانوادہ سید احمد شہید ہے۔ ان کے دادا مولانا حکیم علی حسن صاحب نامور طبیب حضرت مفتی صدر الدین خاں آزر وہد ولہوئی کے شاگرد رشید تھے اور نواب سید صدیق حسن خاں وغیرہ کے ہم سبق تھے۔ بیعت کا تعلق حضرت مولانا فضل الرحمن گجراتی سے تھا۔ مولانا کے والد حکیم سید عزیز الرحمن صاحب امر وہی بڑے مازق طبیب اور بڑے ذہین تھے۔ حکیم حسن ثنی صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء ککنوٹ میں تعلیم پائی۔ ان کو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی سے بھی کمزور شرف حاصل ہے۔ تاریخ و انساب پر ان کی بڑی وسیع اور گہری نظر ہے اور کم لوگ اس موضوع پر ان کے پایہ کے ہیں۔ عربی اور اردو ادب اور شعر و سخن کا بھی بڑا بلند اور پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں۔ اپنے بعض عوارض اور امراض کی وجہ سے وہ عرصہ سے گوش گیر ہیں۔ اگر وہ تصنیف و تالیف کا کام کرتے تو ہندوستان کے صف اول کے مصنفین میں ان کا شمار ہوتا۔ (فریدی) مولانا رضوی صاحب کی ولادت ۳ رمضان ۱۳۱۱ھ موافق ۱۸۹۳ء میں ہوئی۔ سیاست میں بھی دخل تھا۔ امر وہد کا مگر جس کے سب سے پہلے صدر اور ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۵ء تک امر وہد میونسپل بورڈ کے چیئر مین رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پورٹی سے بیعت تھے۔ ۲۸ رجب ۱۳۸۲ھ موافق ۱۹۶۲ء میں وفات ہوئی۔ (محبت الحق)

اور بعض اہم علمی اور تاریخی موضوعوں پر ان کی مکاتبت بھی رہی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ انھوں نے بعد مطالعہ اس کتاب کے قابل تحقیق اور لائق تنقید مقامات کی نشاندہی کی اور اجمالی طور پر کچھ زبانی تبصرہ فرمایا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ ان مقامات کو دیکھا اور متعدد کتابوں اور بعض اہل تحقیق اُدباء سے ان کے بارے میں رجوع کیا۔ میں نے جتنا جتنا اس کتاب کے قابل تنقید مقامات پر غور کیا میرے دل نے بے ساختہ یہ کہا: کاش یہ کتاب صرف ”کہانی“ نہ ہوتی۔ مولانا آزاد کی شان کے مطابق ان کی زندگی کی آئینہ دار ہوتی۔ اس میں حقائق ہوتے، صحیح واقعات ہوتے۔ مجھے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی دشواری پیش آرہی ہے۔ ادھر مولانا آزاد کی کہانی اور بقول طبع آبادی صاحب انھیں کی زبانی میرے سامنے ہے۔ اور دوسری طرف تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کچھ کی کچھ ہے۔

مولانا طبع آبادی صاحب پر (جن کی حیثیت محض ناشر و کاتب کی ہے) خیانت و عدم دیانت کا الزام بلا دلیل لگایا نہیں جا سکتا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں کسی قسم کا تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خلاف دیانت سمجھا ہے۔ بلکہ ایسا گمان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لئے کہ مولانا طبع آبادی کا مولانا مرحوم سے جیسا تعلق ہے وہ اس طرح کی کسی بات کے بالکل منافی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا آزاد ایسی صریح غلطیاں کریں اور ایسی ہوائی باتیں انڈا کرائیں جیسی اس کتاب میں موجود ہیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر مولانا طبع آبادی جرأت و ہمت سے کام لے کر مولانا کی زندگی ہی میں اس کہانی کو شائع کر دیتے۔ اب کس سے دریافت کیا جائے کہ حقیقت کیا ہے؟ اور کون جواب دے۔ تسوید و ترتیب کے ۳۷ سال بعد اور مولانا کی وفات کے معاً بعد اس کا منصف شہود پر آنا پتہ نہیں کس مصلحت پر مبنی ہے؟ مولانا طبع آبادی مجھے معاف فرمائیں میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہی ہوتا کہ ”ترجمان القرآن“ کا مؤلف جلیل ”الہلال“ کا مدیر اعلیٰ اس کہانی کے پورے مسودے کو غائب کر دیتا اور اس ”عجوبہ روزگار“ کے مطالعہ کا موقع کسی کو نہ ملتا۔ بہر حال اب جب کہ یہ کہانی سامنے آچکی ہے تو یہ فیصلہ تو وہ لوگ کریں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں اور جن کے پاس اس باب میں کچھ معلومات ہوں کہ اس کہانی کی اصلیت کیا ہے۔ میں نے تو محض سامنے آئی ہوئی ایک کتاب پر تنقید کی حیثیت سے اس کے کچھ واقعات اور بیانات کو تاریخی اور تحقیقی نقطہ نظر سے پرکھا ہے اور وہی قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس تبصرہ سے میری غرض تاریخی حقائق کا اجاگر کرنا ہے اور بس۔۔۔۔۔ میں مولانا آزاد کی علمی اور ادبی بلندی کا قائل اور

مترکف تھا اور ہوں۔ ان کی محبت اور ان کی تحریروں سے قلبی تعلق مجھے شروع ہی سے ہے۔

میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے اس تبصرے میں کتاب کے تمام گوشوں کو لے لیا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تنقید کرتے وقت خود مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ مگر جہاں تک میری استطاعت کا تعلق ہے میں نے خوب تلاش و جستجو کر کے یہ مختصر تبصرہ لکھا ہے۔ میرے اس تبصرے میں خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے واقعات پر دوسرے واقعات کے مقابلہ میں کچھ زیادہ تفصیل ملے گی۔ اور سچ پوچھے تو اس تبصرے کا خاص محرک بھی یہ جذبہ ہے کہ خاندان ولی اللہی کے صاف و شفاف دامن پر جو غلط دھبے لگائے گئے ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ قلت فرصت کے باعث اس نقطہ نظر سے بھی کچھ گوشے تشہہ تنقید رہ گئے ہوں تو بعید نہیں۔

سب سے پہلے اسمائے رجال اور اسمائے کتب وغیرہ کو لیجئے۔ اور ملاحظہ فرمائیے یہ تسامحات مولانا کی مشہور و مسلم توت حافظہ سے کس قدر بعید معلوم ہوتے ہیں:

(۱) ص ۴۴، ۴۵ پر مولانا منور الدین کے مشاہیر تلامذہ کے نام گناتے ہوئے لکھا ہے:

مولوی محبوب علی جو ندر سے پہلے دہلی کے مشہور عالم تھے۔ مولوی فضل امام جو فضل حق کے والد تھے مولوی فضل رسول بدایونی اور مولانا محمد علی گوپاموئی صاحب کشف اصطلاحات الفنون وغیرہ۔

اس جگہ صرف آخری شاگرد کے متعلق عرض کرتا ہے (مولانا منور الدین کے دوسرے شاگردوں کی بحث آگے آرہی ہے) ”صاحب کشف اصطلاحات الفنون“ کا اسم گرامی تو قاضی محمد علی تھانوی ہے جو تھانہ بھون ضلع مظفرنگر کے ساکن تھے۔ مولانا محمد علی گوپاموئی (بشرطیکہ اس نام کے کوئی مشہور عالم گوپاموئی میں گذرے بھی ہوں) صاحب ”کشف اصطلاحات الفنون“ نہیں ہیں۔ کہانی کے ص ۲۶۲ پر ان صاحب کو مولوی علی تھانوی فرمایا ہے۔ ”ایک عجیب رسالہ مولوی علی تھانوی صاحب اصطلاحات الفنون کا بھی ملا۔“ ص ۲۶۲۔ اس جگہ نسبت مکانی صحیح ہے نام پھر غلط ہے۔

(۲) ص ۶۷ پر مشہور مناظر وادیب مولانا رشید الدین خاں دہلوی شاگرد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو مولانا رشید الدین معقولی صاحب رشید یہ لکھا ہے۔ حالانکہ رشید یہ کے مصنف دوسرے ہیں۔ ان کا نام نامی شیخ محمد رشید جو پورٹی ہے جو گیارہویں صدی ہجری کے مشہور و جلیل القدر عالم اور شیخ طریقت تھے یعنی شاہ عبدالعزیز سے بھی حقدم!

(۳) قصبہ نیسی ضلع عظیم آباد (پنڈ) کے مشہور محدث وادیب جو خود مولانا آزاد کے اردو

شاعری میں استاد ہیں یعنی ابوالخیر مولانا محمد ظہیر احسن شوق نیوی نقشبندی، مجددی ان کا نام مختلف جگہ مختلف ہے۔ ایک جگہ ہے۔ مولوی ظہیر الحسن مرحوم جن سے میں نے شاعری میں اصلاح لینی شروع کی تھی۔ ص ۲۱۲ دوسری جگہ ہے۔ اس زمانہ ایسا ہوا کہ شاعری کے متعلق کتابوں کی جستجو میں اصلاح اور ازادہ الاغلاط لکھنؤ سے منگوا یا۔ یہ دونوں رسالے مولوی ظفر احسن شوق نیوی کے تھے۔ ص ۲۳۱

(۳) عہد بہادر شاہ ظفر کے مشہور درباری طیب حکیم احسن اللہ جو بعض سیاسی خصوصیات کی بنا پر ۱۸۵۷ء کی تاریخی شخصیت ہیں ان کا نام ص ۵۱ پر دو جگہ احسان اللہ کر دیا گیا ہے۔

(۵) مولانا اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان اور جلال العینین وغیرہ میں لکھا ہے: آزاد کی کہانی ص ۱۶۵ مولانا اسماعیل شہید کی جلال العینین کوئی کتاب نہیں ہے، غالباً یہاں علامہ نعمان آلوسی کی کتاب جلال العینین فی محاکمہ الامحدین کا تشابہ لگ گیا۔ البتہ مولانا شہید کی ایک کتاب کا نام تنویر العینین ضرور ہے۔ (۶) ”اسی زمانہ میں معیار الحق دیکھی اور اس کا جواب ارشاد الحق مولانا ارشاد الحق کا..... اور صاحب ارشاد الحق کا علمی ضعف صاف صاف نظر آ گیا۔

معیار الحق مؤلفہ مولانا نذیر حسین مرحوم کے جواب میں ارشاد الحق کوئی کتاب نہیں ہے۔ انتصار الحق ہے جو مولانا ارشاد الحق رامپوری کی نہیں مولانا ارشاد حسین مجددی رامپوری کی ہے۔ تذکرہ کاملان رامپور میں مولانا ارشاد حسین کی تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”تصانیف میں ایک ضخیم کتاب انتصار الحق بزبان اردو و بجاوب میعار الحق مولانا نذیر حسین محدث دہلوی تصنیف کی ہے اور مطبوعہ ہے۔ یہ کتاب دوبارہ طبع ہو چکی ہے۔“ (تذکرہ کاملان رامپور ص ۲۳)

(۷) فقہ کی مشہور کتاب الجواہرۃ النیرہ کو ص ۳۵۵ پر جواہر نیرہ لکھا ہے۔

(۸) ”چنانچہ بیگم“ اورنگ کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد

کے نمونے پر ہے..... شاہ عبدالقادر مترجم قرآن اس کے منتظم تھے۔ ص ۴۷

اول تو اس نام کی کوئی مسجد دہلی میں نہیں ہے۔ دوسرے شاہ عبدالقادر کا قیام جس مسجد میں رہتا

تھا وہ اکبر آبادی مسجد تھی جس کو اکبری مسجد بھی کہہ دیتے ہیں۔ (۹) زماں شاہ ابن احمد شاہ ص ۳۸

حالانکہ زمانہ شاہ تیمور شاہ کا بیٹا اور احمد شاہ ابدالی کا پوتا ہے۔

مولانا آزاد کا خاندانی سلسلہ

شیخ جمال الدین:

”میرے خاندانی سلسلہ میں سب سے پہلے شیخ جمال الدین معروف.... بہ بہلول و ہلوی کا نام بہت ممتاز نظر آتا ہے۔ ان کا وطن دہلی مرحوم تھا اور عہد اکبری کے مشاہیر علماء اور اصحاب سلوک و طریقت میں سے تھے۔ ص ۲۵

شیخ جمال الدین و ہلوی کا ذکر کرتے ہوئے منتخب التواریخ، تذکرۃ الواصلین اور اخبار الاخیار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ منتخب اور تذکرۃ الواصلین تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے البتہ اخبار الاخیار (مؤلف شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کو دیکھا تو عجیب حیرت انگیز انکشاف ہوا وہ یہ کہ شیخ جمال الدین و ہلوی کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کہانی میں شیخ عبدالحق دہلوی کی جو شہادتیں بحوالہ اخبار الاخیار پیش کی ہیں وہ شیخ جمال الدین کے بارے میں نہیں ہیں دوسرے بزرگوں سے متعلق ہیں۔

اخبار الاخیار میں شاہ قیس کا تذکرہ ہے۔ اس میں شیخ محدث دہلوی ارقام فرماتے ہیں:

”وازا انجملہ شیخ عبدالرزاق المشہور ریشیح بہلول مرید و خلیفہ اوست جامع است میان علم شریعت و طریقت از اول فطرت بر نشاۃ عبادت و تقویٰ و صلاح برآمدہ و بر عصمت ذاتی نشو و نما یافتہ۔ بعد تحصیل علوم دینی بہ تہذیب اخلاق و تبدیل صفات موفق شد۔ و الحق دریں زمان روزمرہ درویشاں و ساکاں اچکنیں مردم در سلوک ایں طریق و رسوخ قدم و اتباع سنت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نادر و عزیز الوجودند“ اخبار الاخیار ص ۱۹۹ مطبوعہ محمدی پریس دہلی۔

کہیں کہیں ایک دو لفظوں کا فرق کر کے بعید یہی عبارت آزاد کی کہانی میں شیخ جمال الدین کے بارے میں ملے گی۔ ص ۳۲ غالباً شیخ جمال الدین کی عرفیت شیخ بہلول و ہلوی اسی لئے تجویز کی گئی ہے کہ شیخ عبدالرزاق المشہور ریشیح بہلول کا خلعت کمال بان کے جسم زیبا پر چھین نہ کچھ درست آجائے۔ مگر اس کا کیا علاج کہ شیخ بہلول کا نام عبدالرزاق ہے اور اتفاق سے سکونت بھی دہلی کی نہیں ہے۔ کہانی کے ص ۳۱ پر انہیں شیخ جمال الدین کے حق میں اخبار الاخیار کی یہ عبارت بھی بتائی گئی ہے۔

”شیخ قطب عالم می گفت کہ چون ملازمت اور سیدم بوجبت غلبہ و حظ و نصیحت بہ سابقہ

تقریب سر بر آوردہ فرمود مہدویہ فرقہ ضالہ اند۔

حالانکہ یہ عبارت شیخ داؤد دومرید و خلیفہ مخدوم شیخ حامد الحسنی البیلانی کے بارے میں ہے۔

شیخ قطب عالم شیخ داؤد کے پاس پہنچے تھے نہ کہ شیخ جمال الدین دہلوی کے پاس (دیکھئے اخبار الاخیار ص ۱۹۹)۔ کہانی میں صاحب تذکرہ کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول بھی شیخ جمال الدین کے بارے میں درج ہے کہ: "وازن تصنیفات اوست شرح اصول بزودی" ص ۳۲

مگر شیخ محدث نے تو اخبار الاخیار میں شرح بزودی کو قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تصنیف بتایا ہے اور دو جگہ اس کا ذکر کیا ہے ایک تو خود قاضی دولت آبادی کے تذکرہ میں دوسرے شیخ محمد عینی جو پوری کے ذکر میں کہ شیخ جو پوری کی خاطر شرح اصول بزودی قاضی صاحب نے لکھی ہے۔ (ملاحظہ کیجئے اخبار الاخیار ص ۱۷۲، ۱۷۳) شیخ محمد:

شیخ جمال الدین کے لڑکے شیخ محمد تھے..... ان پر تصوف و سلوک کا غلبہ تھا اور دہلی میں حضرت سید (؟) احمد سرہندی مجدد کے خلیفہ تھے..... مجدد صاحب کے مکتوبات کے تیسرے حصہ میں ان کے نام دو خط ہیں۔ ایک فارسی میں دوسرا عربی میں۔ ص ۳۳

زبدۃ المقامات میں مولانا ہاشم کشمی نے حضرت مجدد کے قریب قریب تمام خلفاء کا ذکر کیا ہے۔ احقر کا ایک مقالہ جو تذکرہ خلفاء مجدد الف ثانی کے عنوان سے الفرقان کے مجدد الف ثانی نمبر میں شائع ہوا ہے۔ اسی سے ماخوذ ہے۔ اس میں کہیں شیخ محمد دہلوی کا نام حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ کی حیثیت سے نہیں اور نہ کسی اور کتاب میں ان کی یہ حیثیت معلوم ہوئی اور نہ مکتوبات کی تیسری جلد بلکہ ہر جلد میں ان کے نام کے دو خط ملے جو فارسی و عربی میں ہوں۔

شیخ محمد احسن کے صاحبزادے:

شیخ محمد احسن کے تین لڑکے تھے۔ سب سے بڑے شیخ محمد یوسف تھے جنہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے علوم کی تکمیل کی تھی۔ غدر سے سات آٹھ سال پہلے جب شاہ محمد اسحاق و شاہ محمد یعقوب نے ہجرت کی تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ ص ۶۳

شاہ عبدالعزیز کے تلامذہ میں سے شیخ محمد یوسف نام کے کوئی بزرگ کسی کتاب میں نظر سے نہیں

گذرے۔ تعجب ہے کہ یہ دہلی کے باشندے تھے اور معمولی خاندان کے آدمی بھی نہ تھے پھر ذاتی حیثیت سے بھی ان کی یہ خصوصیت تھی کہ آفتاب علم و عمل حضرت شاہ عبدالعزیز کی شاگردی کا فخر حاصل تھا پھر بھی دہلی اور بیرون دہلی کے کسی مورخ اور تذکرہ نگار نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ علاوہ ازیں شاہ محمد اسحاق دہلوی اور ان کے برادر خورد شاہ محمد یعقوب محدث دہلوی نے ۱۲۵۸ھ میں ہنگامہ ۱۸۵۷ء، تقریباً چندہ سال پہلے ہجرت کی ہے نہ کہ سات آٹھ سال پہلے۔ میر ظہور علی صاحب نے ان کی تاریخ ہجرت یوں لکھی ہے:

مولوی اسحاق صاحب با کمال ☆ ترک خانہ کرد سوائے کعبہ رفت
سال تاریخش چہنیں گفتہ ظہور ☆ یک ہزار و دو صد و پچاہ و ہشت

۱۲۵۸ھ

(احکام العیدین مؤلف نواب قطب الدین خاں دہلوی)

اس موقع پر اتنا عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ شیخ محمد اور شیخ محمد احسن کے درمیان جو چھ سات بیڑھیاں ہوں گی ان میں سے کسی کا ذکر نہیں ہے یہ کیوں کر باور کیا جائے کہ مولانا کو اپنے ان درمیانی اجداد کے نام معلوم نہ تھے اور اس وجہ سے یہ سلسلہ غیر متصل رہ گیا..... یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ شیخ جمال الدین دہلوی کا خاندان دہلی کے کس محلے میں بود و باش رکھتا تھا حتیٰ کہ خود مولانا کے دادا اور والد کے متعلق اس کتاب سے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ دہلی کے کس محلے میں رہتے تھے۔

شیخ منور الدین:

اس کتاب میں سب سے زیادہ معرکہ الآراء شخصیت مولانا منور الدین کی ہے۔ جو مولانا آزاد کے والد (مولانا خیر الدین) کے نانا تھے۔ ان کے متعلق مولانا آزاد کی زبانی تفصیلی حالات درج کئے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے ابتدائی تعلیم علماء لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر دہلی آ گئے اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔

دہلوی بشر نے دار الحکومت دہلی میں اور جناب غلام رسول مہ نے بنامت مجاہدین میں شاہ محمد اسحاق محدث کی تاریخ ہجرت ۱۲۵۷ھ (۱۸۴۰ء) لکھی ہے۔ مولانا سید محمد میاں صاحب، عہدہ بنی مضاف شاند ارنامی نے المرقان نے شہید نہہ میں ۱۲۶۲ھ میں ان کی ہجرت تحریر کی ہے۔ حیات ولی میں ۱۲۶۲ھ تاریخ وفات بتائی ہے اور تاریخ ہجرت کا ذکر نہیں کیا۔ نواب قطب الدین خاں دہلوی مؤلف مظاہر حق نے جو کہ حضرت شاہ محمد اسحاق سے شاعر تھے احکام العیدین کے دیباچہ میں ۱۲۵۸ھ میں ان کی ہجرت کی درج کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا صحیح سال ہجرت ۱۲۵۸ھ ہے۔ (فریدی)

۱۸۰۳ء کو یہ دہلی پہنچے تھے۔ چھ سال تک تحصیل علم میں مشغول رہے۔ مکان پر کسی کو اپنے دہلی آنے کی اطلاع نہیں دی۔ شاہ صاحب کے اولین تلامذہ مولانا رشید الدین، مولوی برہان الدین، مولانا محمد اسماعیل شہید، شاہ احمد سعید اور مولانا محمد وجیہ وغیرہ ان کے ہمدرس تھے۔ چھ سال کے بعد جب ان کے والد کے شہید ہونے کی خبر آئی تو یہ ”قصور“ چلے گئے اور وہاں سے اپنے اعزاء کو لاکر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اپنا ایک مستقل حلقہ درس قائم کیا۔ بنگال اور دیگر اطراف ہند سے طلباء جوق در جوق مولانا منور الدین کے پاس آنے لگے۔

مولانا سدید الدین، مولوی محبوب علی، مولوی فضل امام جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے والد تھے۔ مولوی فضل رسول بدایونی اور صاحب کشاف اصطلاحات الفنون مولانا منور الدین کے شاگرد تھے۔ (دیکھئے ص ۳۱ تا ۳۵)

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مولانا منور الدین نام کی دہلی میں کوئی ایسی شخصیت ہوئی بھی ہے جس کی یہ امتیازی خصوصیات ہوں؟ مجھ کو باوجود تلاش بسیار اس نام کا کوئی ایسا شخص نہ ملا جو شاہ صاحب کی شاگردی کا شرف بھی رکھتا ہو اور اطراف ہند سے طلباء جوق در جوق اس کے حلقہ درس میں آتے ہوں حیات عزیزی، حالات عزیزی تذکرہ علمائے ہند نیز اس زمانے کے فتاویٰ اور ان کی مہروں کو دیکھا۔ کہیں اس عظیم الشان شخصیت کا نام و نشان نہ ملا۔ ذرا غور تو فرمائیے مولانا منور الدین ۱۸۰۳ء میں دہلی پہنچے ہیں۔ چھ سال (۱۸۰۹ء تک) تعلیم میں مشغول رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کو فارغ ہوئے کئی سال گذر گئے تھے۔ کیونکہ حضرت شہید سولہ سال کی عمر میں فارغ ہوئے ہیں۔ ۲۹ اپریل ۱۷۷۹ء آپ کا سال پیدائش ہے ۱۸۰۳ء میں جب مولانا منور الدین نے دہلی آکر پڑھنا شروع کیا ہے مولانا شہید کی عمر تقریباً ۲۳ سال ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کو درس دیتے ہوئے بھی چھ سات سال ہو چکے تھے اور ۱۸۰۹ء میں جب مولانا منور الدین فارغ ہوئے (جیسا کہ کہانی میں مذکور ہے) اس زمانے میں تو شاہ صاحب کا آفتاب علم نصف النہار پر چمک رہا تھا پھر مولانا منور الدین کا شاہ صاحب کا ہمدرس ہونا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ مولانا رشید الدین دہلوی بھی شاہ صاحب کے قدیم ترین تلامذہ میں سے ہیں اور وہ یقیناً مولانا محمد اسماعیل شہید سے بھی پہلے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کا مولانا منور الدین کا ہمدرس ہونا اور بھی بعید ہے۔

شاہ احمد سعید دہلوی مہاجر نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے نہیں بلکہ ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے۔ وہ کہاں سے ہم درس ہو سکتے ہیں۔ رہ گئے مولوی برہان الدین اور مولانا محمد وجیہ ان سے مجھے کوئی واقفیت نہیں اور پتہ نہیں کہ یہ کس کے شاگرد تھے۔

سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا منور الدین کے تلامذہ کی فہرست میں مولانا محبوب علی، مولانا فضل امام، مولوی فضل رسول بدایونی اور صاحب کشاف اصطلاحات الفنون نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان میں مولانا محبوب علی تو حضرت شاہ صاحبؒ کے مشہور شاگرد ہیں۔ رہے مولانا فضل امام وہ ایک علمی خانوادے کے بانی اور حضرت شاہ صاحبؒ کے معاصرین میں سے ہیں اور مولانا سید عبدالواجد کرمانی خیر آبادی کے شاگرد رشید ہیں اور مولانا منور الدین کے دہلی آنے سے مدتوں پہلے دہلی کے صدر الصدور تھے۔ مولانا فضل حق مرحوم کا ہی شاگرد مولانا منور الدین کو ثابت کرنا مشکل ہے چہ جائیکہ ان کے والد جو مولانا منور الدین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے صاحب درس و افتادہ اور مشاہیر علماء میں سے تھے۔ مولوی فضل رسول بدایونی کے متعلق سنیے وہ تحصیل علم کے لئے دہلی ہی نہیں آئے چہ جائیکہ مولانا منور الدین کے آگے زانوئے تلمذ طے کرتے۔ ان کے استادوں کی فہرست اکمل التواریخ جلد دوم مؤلف محمد یعقوب بدایونی میں حسب ذیل ہے:

- (۱) ان کے والد (۲) دادا (۳) مولانا نور الحق فرنگی محلی (۴) حکیم میر علی موہانی (۵) شیخ محمد عابد مدنی (۶) مولانا عبداللہ سراج کئی (اکمل التواریخ ص ۱۵ تا ۲۰)
- اس فہرست میں مولانا منور الدین کا نام کہیں بھی نہیں۔

اب رہ جاتے ہیں صاحب کشاف اصطلاحات الفنون قاضی محمد اعلیٰ تھانویؒ وہ حضرت شاہ صاحبؒ سے بھی عمر میں کہیں بڑے تھے۔ بھلا جو شخص شاہ صاحب سے بھی عمر میں بڑا ہوا اور جس نے انوار العارفین ص ۳۹۹ پر شاہ احمد سعید کے تذکرے میں ہے۔ علوم عقلیہ از مولوی فضل امام و مفتی شرف الدین وغیرہ ناخواندہ و حدیث شریف از تاسیذ حضرت شاہ عبدالعزیز رضوی رضید الدین خان وغیرہ ناخواندہ حضرت شاہ عبدالعزیز سے ان کے آخری دور میں صرف اجازت اسانیدم حدیث حاصل کی ہو تو ہمید نہیں جیسا کہ بعض اکتب سے ظاہر ہوتا ہے۔ (فریدی)

عقوب صدیق حسن خاں مرحوم نے سلسلۃ السیوف فی مشائخ الہند۔ آخر میں جو اپنے اکتب خانہ خاص فیہرست میں ہے اس میں کشاف اصطلاحات الفنون کا اندراج بھی ہے۔ انھوں نے اس کتاب کا من تا لیس ۱۵۸۱ء لکھا ہے۔ اس لحاظ سے قاضی محمد اعلیٰ تھانوی حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی پیدائش سے بھی پیشتر صاحب تصنیف و تصنیف تھے۔ ان کے نام حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک کتب (غیر مطبوعہ) دیکھنے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے ان کا زمانہ پایا ہے۔ (فریدی)

شاہ صاحبؒ کے پیدا ہونے سے بھی ایک سال پیشتر کشاف اصطلاحات الفنون جیسی معرکہ الآراء کتاب تالیف کی ہو، کوئی تک ہے کہ اس کو مولانا منور الدین صاحب کا شاگرد بتایا جائے۔ الغرض نہ تو مولانا منور الدین شاہ صاحبؒ کے اولین یا آخرین تلامذہ میں سے ہیں اور نہ ان کے شاگرد۔ یہ وہ اشخاص ہیں جو فہرست میں دکھائے گئے ہیں۔ مجھے تو ان بزرگوار کا وجود ہی دہلی کے علماء میں نہیں مل سکا۔ میں حیران ہوں کہ مولانا منور الدین کو کس کا شاگرد اور کس کا استاد قرار دوں۔

ایک اور تعجب انگیز بات ان بزرگ کے متعلق پڑھیے:

”بالآخر جب ان کی (مولانا منور الدین کی) شہرت بہت ہوئی اور علم کے علاوہ سلوک و طریقت میں بھی مشہور ہوئے جس کا سلسلہ انھیں اپنے والد اور شاہ عبدالعزیزؒ سے پہنچا تھا تو شاہ عالم ثانی کے عہد آخر میں ان کو مغلیہ سلطنت کا رکن المدرسین بنا دیا گیا۔“ ص ۲۵

قطع نظر اس بات کے کہ یہ بزرگ حضرت شاہ صاحبؒ سے علم باطن میں منسلک تھے یا نہیں؟ اور ان کے والد کون سے روحانی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے؟ غور طلب یہ امر ہے کہ شاہ عالم ثانی کے عہد آخر میں یہ رکن المدرسین کس طرح بنے جب کہ ۱۸۰۹ء میں فارغ ہوئے اور شاہ عالم کا انتقال (۱۷ رمضان ۱۲۲۱ھ مطابق ۱۸۰۶ء کو) ان کے فارغ ہونے سے تقریباً تین سال پیشتر ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں رکن المدرسین بھی عہد مغلیہ میں کوئی عہدہ تھا؟ جو ایک طرح کی وزارت تعلیم تھی۔ اس کو علم تاریخ کے ماہرین خصوصاً مغل سلاطین کے انتظام سلطنت اور قوانین مملکت سے واقفیت رکھنے والے ہی اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ کم از کم میری نظر سے تو عہد مغلیہ کے آئین و دستور میں اس نام کا یا ملک العلماء، نقیب الاولیاء اور ملک الاطباء کا کوئی عہدہ نہیں گذرا اور نہ وہ فرائض و اختیارات جو اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں نظر سے گذرے۔ آئین اکبری میں ان چاروں عہدوں میں سے کسی کا وجود نہیں ہے اور اگر اس کے بعد یہ عہدے قائم ہوئے تھے تو جہانگیر سے لیکر اکبر شاہ ثانی تک کی تاریخوں میں ان کا تذکرہ ہوتا۔ ماثر الامراء اور ماثر عالمگیری میں چھوٹے چھوٹے عہدے دار اور امراء تک کا بھی ذکر ہے مگر ان چاروں القاب میں سے کسی ایک لقب کے ساتھ بھی کسی عہدے دار کا ذکر نہیں۔

جامع مسجد دہلی کا مدرسہ نیز دیگر مدارس اور مولانا منور الدین:

”جامع مسجد کے مدرسے اور بعض اطراف کے مدرسوں میں تقریباً پانچو طلباء کی ضروریات کا

انتظام ہوتا تھا۔ شاہ صاحبؒ کے انتقال کے بعد انھوں نے (مولانا منور الدین نے) شاہ صاحبؒ کے بیچ کے حلقہ درس کو جو شاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا ایک باقاعدہ مدرسہ کی صورت میں ”مدرسہ عزیزیہ“ کے نام سے بنا دیا۔۔۔۔۔ مختلف مساجد جو غیر آباد تھیں انھوں نے ان میں مدرسے قائم کئے چنانچہ بیگم اورنگ کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو اب ”حصار“ کے متصل چھاوٹی میں آگئی ہے۔ یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد کے نمونے پر ہے۔ اس میں دورویہ تقریباً ساٹھ حجرے ہیں اور لکھا ہے کہ ان سب میں طالب علم تھے اور شاہ عبدالقادر مترجم قرآن اس کے منتظم تھے۔ جامع مسجد کے تینوں دروازوں کے بالائی حجروں میں شاہجہاں نے مدرسہ قائم کیا تھا اور اوپر کی گیلری بھی مدرسہ کے کام آتی تھی۔ شاہ عبدالرحیمؒ اس مدرسہ میں درس دے چکے ہیں لیکن تنزل حکومت کے بعد یہ مدرسہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ مگر انھوں نے (مولانا منور الدین نے) اپنے زمانہ رکن المدرسی میں از سر نو اسے جاری کیا اور مفتی صدر الدین جو اس وقت نئے نئے فارغ ہوئے تھے اس کے مہتمم و صدر مدرس قرار پائے۔ یہ درس گاہ غدر سے کچھ پہلے تک رہی۔“ ص ۷۷ تا ۷۸

اس بیان کے متعلق حسب ذیل گزارشات ہیں:

(۱) شاہ صاحبؒ کے انتقال کے بعد مولانا منور الدین نے شاہ صاحبؒ کے بیچ کے حلقہ درس کو جو شاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا مدرسہ عزیزیہ بنا دیا۔ یہ ایک ایسا نیا انکشاف ہے جو نہ واقعات دار الحکومت کے مؤلف کو معلوم نہ حیات ولی اور حیات عزیزی کے جامع و مرتب کو۔ کاش کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا کہ مدرسہ رحیمیہ کہاں تھا؟ اور یہ بیچ کا حلقہ درس کس محلے میں تھا؟ پھر مولانا منور الدین نے مدرسہ عزیزیہ کا سنگ بنیاد کس جگہ نصب کیا۔ (۲) جس مسجد میں شاہ عبدالقادرؒ رہتے تھے وہ اکبر آبادی مسجد تھی (اورنگ کی مسجد نہ تھی) شاہجہاں کی زوجہ فتحپوری بیگم کی مسجد فتحپوری جس طرح آباد رہی اس کی دوسری بیوی اکبر آبادی بیگم کی مسجد بھی ۱۸۵۷ء تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ گلزار بنی رہی۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اور حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے دور میں تو وہ مسجد ایک خاص تبلیغی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجاہدین کا جلاوطنی تھی۔ حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء کا مرجع و موقف تھی۔ ان حضرات کے بعد بھی اس مسجد کی مرکزیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ مسجد ۱۸۵۷ء تک کبھی غیر آباد نہیں رہی۔ اس مسجد کی مرکزیت ہی کو پیش نظر رکھ کر انگریزوں نے ۱۸۵۷ء میں اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا۔

(۳) ”جواب حصار کے متصل چھاوٹی میں آگئی ہے یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد کے

نمونے پر ہے۔ اس میں دورویہ تقریباً ساٹھ حجرے ہیں“ (آزاد کی کہانی)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد منہدم نہیں ہوئی۔ ابھی موجود ہے۔ چھاونی کے اندر آگئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا تذکرہ دارالحکومت دہلی یا آثارالصنادید میں ضرور ہوتا۔ لیکن دہلی مرحوم کا ہر تذکرہ اس مسجد کے تذکرے سے خالی ہے۔

دارالحکومت دہلی میں لکھا ہے کہ:

”فیض بازار دہلی میں یہ مسجد تھی جو غدر کے بعد ڈھایا ڈھوئی کی نظر ہوئی۔ محل و موقع اس کا موجودہ ایڈورڈ پارک ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے:

”جس وقت اس کے (پارک) لئے زمین ہموار کی جانے لگی تو مسجد کا چوترہ اور بنیادیں جوں کی توں مثل سنج نہاں کے زمین میں مدفون تھیں۔ ویسے ہی ڈھک دی گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خانہ خدا اور یہ بے نظیر عمارت نظروں سے پوشیدہ ہو گئی۔“

(۳) جامع مسجد دہلی کا مدرسہ تینوں دروازوں کے بالائی حجروں میں نہیں تھا بلکہ مدرسہ کی عمارت جامع مسجد کے نیچے تھی اور جامع مسجد دہلی کے ساتھ ہی ساتھ اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ اس مدرسہ کا نام دارالبقاء تھا۔

مرقع سلاطین مولفہ منشی محمد عبدالغفور دہلوی میں لکھا ہے:

”دارالشفاء دارالبقاء“ یہ دونوں مکان جامع مسجد کے ساتھ تعمیر ہوئے تھے اور بادشاہ کی طرف سے حکیم مقرر تھے۔ بیماروں کو (دارالشفاء میں) دوالتی تھی..... اور دارالبقاء مدرسہ ہے۔ ابتداء کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ وہاں اب صرف کنیر کے درخت ہیں (مرقع سلاطین ص ۲۲)۔

اتحاف النبلاء مولفہ نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے بھی تذکرہ مفتی صدرالدین دہلوی کے ضمن میں مدرسہ دارالبقاء زیر جامع مسجد دہلی لکھا ہوا ہے۔ (اتحاف النبلاء ص ۲۶۰)

الفرقان آثارالصنادید (مطبوعہ نول کشور پریس) حصہ سوم ص ۲۷ پر ہے ”مسجد پنجابی کڑہ“ کے نام سے ایک مسجد کا ذکر ہے۔ اس ذیل میں یہ بھی درج ہے کہ یہ مسجد اور گزب عالمگیری الہینوب اور گج آبادی بیگم نے بنوائی تھی۔ کہیں اسی مسجد کو تو ”کہانی“ میں اور گج کی مسجد سے نہیں تعبیر کر دیا گیا ہے۔ مگر شاہ عبدالقادر صاحب سے اس مسجد کے تعلق کا سلسلہ پھر بھی باقی رہے گا۔ (فریدی)

حالفرقان شاہ ولی اللہ خیر مقالہ مولانا سید مناظر حسن گیلانی، بحوالہ دارالحکومت دہلی۔ (فریدی)

(۵) شاہ عبدالرحیم دہلویؒ نے دارالبقاء میں کبھی درس نہیں دیا۔ انھوں نے تمام عمر میں صرف ایک مرتبہ اپنے ایک ہمدرس مولانا حامدؒ کے اصرار اور والدہ ماجدہ کے حکم سے فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب و تصحیح کے زمانہ میں عالمگیری کے یہاں ملازمت کر لی تھی۔ لیکن ان کے پیرومرشد خلیفہ ابوالقاسمؒ نے اس ملازمت سے منع کیا۔ اتفاق سے تصحیح فتاویٰ کے سلسلہ میں ایک ایسی بات پیش آئی کہ انھیں یہ ملازمت ترک کر دینی پڑی۔ عالمگیری نے ان کو جاگیر دینی چاہی مگر اس سے بھی انکار کر دیا۔ (انفاس العارفین ص ۲۴)

غرض کہ شاہ عبدالرحیمؒ کا اس شانسی مدرسہ دارالبقاء سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ وہ حکومت کے کسی شعبے میں سوائے ان چند ایام کے جو تصحیح فتاویٰ میں گزرے، ملازم رہے۔

(۶) مفتی صدر الدینؒ کے بارے میں نواب صدیق حسن خاں مرحوم (جنھیں مفتی صاحبؒ سے تلمذ کا شرف حاصل ہے) تحریر فرماتے ہیں:

”در عمر خود بیگانہ روزگار و تادیرہ عصر بود“ اس کے بعد لکھتے ہیں: ”ریاست درس و تدریس معقولات بالخصوص و افتائے ممالک محروسہ مغربیہ بلکہ شرقیہ و شمالیہ دہلی و امتحان مدارس و صدارت حکومت دیوانی ہوئے منتہی شدہ۔“

اس کے بعد رقمطراز ہیں: ”صاحب و جاہت بود نزد امراء و علماء و حکام و رعایائے شہر“ ان کے مکان کے متعلق کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

”سوائے بادشاہ وقت کے اعیان و اکابر دہلی و نواح دہلی میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے مکان پر حاضر نہ ہوتا ہو۔ طلباء اخذ علم کے لئے، اہل دنیا مشورہ معاملات کی غرض سے، انشاء نگار اصلاح انشاء کے واسطے اور شعراء برائے مشاعرہ ان کے مکان پر آتے جاتے ہیں۔“

ان کے اخلاق و احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اس سلوک کا ذکر بھی کیا ہے جو وہ طلباء دارالبقاء کے ساتھ طعام و لباس اور وظائف کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ (ماخوذ: از اتحاف النبلا ص ۲۶۰)

اس سے بھی بڑھ کر سرسید احمد خاں مرحوم سے سنیے! آثار الھنا دید میں ان کا تذکرہ شروع ہی اس شعر سے کرتے ہیں:

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ☆ ہنوز نام تو گفتن کلام بے ادبست (باب چہارم ص ۴۲)

اس کے بعد چار سطر کے القاب لکھ کر نام زبان پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں:

”قلم کو کیا طاقت کہ ان کے اوصاف حمیدہ سے ایک حرف لکھے اور زبان کو کیا یارا کہ ان کے محامد پسندیدہ سے ایک لفظ کہے۔ (ص ۴۳) پھر قلم بھی اٹھاتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں:

مجلس تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر ☆ ما بچناں در اول وصف تو ماندہ ایم (ایضاً)
آپ نے دیکھا کہ مفتی صدر الدین صدر الصدور کی علمی وجاہت و عظیم شخصیت کس قدر بلند نام اور عالی مقام ہے۔ وہ مفتی صدر الدین جو درس و تدریس کے علاوہ افتاء و امتحانات مدارس اور صدارت حکومت دیوانی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔

بادشاہ وقت کو چھوڑ کر تمام رؤساء اور اکابران کے مکان پر حاضر ہوتے تھے۔ جو اپنے وقت کے صاحب وجاہت عالم تھے۔ ان کو مولانا منور الدین ”رکن المدرسین“ کے مقابلہ میں نیا نیا فارغ التحصیل بتا کر مولانا منور الدین کا مقرر کردہ مہتمم و صدر مدرس بتایا جا رہا ہے! آخر یہ کیوں کر سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اور مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا منور الدین نے جو حضر . دانا محمد اسماعیل شہید کے سخت مخالف تھے صدر مدرس اس شخص کو بنایا جو حضرت شہید کی تعریف میں رطب اللسان رہتا تھا۔ نواب صدیق حسن خاں مرحوم لکھتے ہیں:

۴

”بارہا از باش ثنا و صفت مولانا محمد اسماعیل شہید و مولوی اسحاق دہلوی نزل مکہ مکرمہ شہید شد (اتحاف)
حیرت کی بات ہے کہ مولانا منور الدین جن کے توسط سے دہلی اور اطراف دہلی کے پچاس سے زائد مدارس کو قلعہ دہلی سے وظیفے ملتے تھے۔ (دیکھئے کہانی ص ۴۰) اور جنہوں نے مدرسہ شاہجہانی دارالبقاء کو از سر نو زندہ کیا ان کا کسی تذکرہ نویس نے ذکر نہیں کیا اور مفتی صدر الدین کا اس زمانے کے ہر تذکرہ نویس نے ذکر کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ دارالبقاء کو از سر نو آباد کرنے والے مفتی صاحب ہی تھے۔ وہی اس کے سرپرست اور وہاں کے طلباء کے کفیل تھے۔ سرسید احمد خاں آثار الصنادید میں لکھتے ہیں:

”یہ مدرسہ بالکل خراب و برباد ہو گیا تھا اور بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ جناب محمود (جناب

مولانا مولوی صدر الدین خاں بہادر صدر الصدور) نے اپنی عالی ہمتی سے اس دارالبقاء کو زخمیہ صرف آثار الصنادید کو ہی دیکھ لیجئے مفتی صدر الدین صاحب کا جیسا دلہانہ ذکر ہے وہ تو ہے ہی ان حضرات کا بھی تذکرہ اس میں ملتا ہے جن کو مولانا منور الدین کا شاگرد بنایا گیا ہے۔ مگر نہیں ملتا تو مولانا منور الدین کا تذکرہ۔ آخر ان سب تذکرہ نگاروں کو مولانا موصوف سے ہی ایسی کیا کہ ہوئی تھی؟ (فریدی)

کر کے از سر نو مرتب کیا ہے۔ اور شاہجہانی طور پر جو جو حجرے اس کے ٹوٹ گئے تھے ان کو نئے سرے سے بنایا ہے اور مدرس نوکر ہیں اور طالب علم پڑھتے ہیں۔ ان کی خبر گیری نان و پارچہ کی ان کی سرکار عالی سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ غور کرو کہ یہ کید شہید فیض ہے جو ان کی ذات فیض آیات سے جاری ہے۔“ (باب سوم ص ۱۲) ڈولے کی رسم اور مولانا منور الدین:

”بہر حال اکبر کے وقت سے یہ رسم جاری تھی اور بڑے بڑے بادشاہ اسی طرح پیدا ہوئے۔ اسی لئے معاملہ بہت نازک ہو گیا تھا کیونکہ اگر اس کے عدم جواز پر زور دیا جاتا تو یہ معنی تھے کہ جہانگیر، شاہجہاں، داراشکوہ، شجاع اور فرخ سیرکت کی پیدائش معرض بحث میں آجاتی۔ اسی لئے یہ ایک ایسا موضوع تھا کہ علماء دنیا کبھی اس طرف اشارہ تک نہ کرتے اور اپنے لئے موجب ہلاکت تصور کرتے تھے۔“ کہانی ص ۵۰

”مولانا منور الدین ڈولے کی رسم کی علانیہ مخالفت کرتے تھے اور اسے حرام بتاتے تھے۔ ص ۵۰-۵۱ معلوم نہیں کہ داراشکوہ اور شجاع کو ڈولے کی پیدوار کیسے قرار دے لیا گیا۔ حالانکہ یہ دونوں شہزادے اور نگزیب عالمگیر کے حقیقی بھائی اور ممتاز محل اور مرزا غیاث الدین کی پوتی تھیں اور شاہجہاں کی آصف خاں کی صاحبزادی نور جہاں بیگم کی بھتیجی اور مرزا غیاث الدین کی پوتی تھیں اور شاہجہاں کی سوائے ان کے کسی دوسری بیگم کے نطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جو اولاد ممتاز محل کے سامنے زندہ رہی وہ یہ ہیں: (۱) داراشکوہ (۲) شاہ شجاع (۳) مرزا مراد بخش (۴) اور نگزیب عالمگیر (۵) انجمن آرا (۶) گیتی آرا (۷) جہاں آرا (مخزورات تیمور یہ مولفہ سید ظہور الحسن دہلوی ص ۳۷) مولانا اسماعیل شہید اور مولانا منور الدین:

”مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا منور الدین کے بہادر تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انھوں نے تقویۃ الایمان اور جلا۔ العینین لکھی اور ان کے مسلک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں ہلچل پڑ گئی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی دوسرے مولانا منور الدین نے دکھائی، کتابیں لکھیں۔“ ص ۵۶ میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ مولانا منور الدین ہرگز مولانا شہید کے بہادر نہیں تھے اور جلا۔ العینین نام کی کوئی کتاب مولانا شہید کی تالیف یا تصنیف نہیں ہے۔ رہی مولانا منور الدین کی مخالفت شہید میں سرگرمی دوسرے مولانا منور الدین کے متعلق عرض ہے کہ مولانا منور الدین کا اول تو ان امتیازی خصوصیات کے ساتھ وجود ہی عنقا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت شہید کی علمی شخصیت اور خاندانی وجاہت کے آگے بڑے سے بڑے

مخالف کی جرأت نہ ہوئی کہ ان کی مخالفت میں سرگرمی دکھائے۔ اگر کسی معاصر نے علمی حیثیت سے تہذیب و متانت کے ساتھ بعض مسائل میں ان سے تحریری مناظرہ کیا ہے تو وہ مولانا فضل حق خیر آبادی تھے۔

تقویۃ الایمان کے متعلق اتنا عرض کر دوں کہ وہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کے زمانہ حیات ہی میں سید صاحب اور مولانا شہید کے سفر حج سے پہلے تصنیف ہو چکی تھی۔

مولانا منور الدین نے خدا جانے کون کون سی کتابیں لکھیں کاش ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا سراغ مل جاتا جو مولانا منور الدین نے حضرت شہید کی رد میں لکھی تھیں۔
جامع مسجد دہلی کا مباحثہ:

”مولانا منور الدین نے ۱۲۳۸ھ والا مشہور مباحثہ جامع مسجد میں کیا۔ تمام علماء ہند سے فتویٰ مرتب کرایا۔ پھر حریمین سے فتویٰ منگایا۔ ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ابتداء میں مولانا اسماعیل اور ان کے رفیق اور شاہ صاحب کے داماد مولانا عبدالحی کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہر طرح سمجھایا لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث ورد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا شہرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا۔ جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی۔ بحث ان تمام مسائل پر تھی جو تقویۃ الایمان کی وجہ سے چھڑ کے تھے“ ص ۵۶

جامع مسجد دہلی کا یقیناً یہ وہی مباحثہ ہے جس کی مفصل روداد مولوی فضل رسول بدایونی نے اپنی کتاب سیف الجبار میں (ص ۲۸۵ تا ۲۸۶) درج کی ہے۔ جس سے مندرجہ بالا بیان کے برخلاف یہ امور ثابت ہوتے ہیں: (۱) یہ مجلس مناظرہ ۱۲۳۰ھ میں منعقد ہوئی، ۱۲۳۸ھ میں نہیں۔ بھلا ۱۲۳۸ھ میں مولانا عبدالحی اور مولانا شہید کہاں تھے؟ مولانا عبدالحی ۱۲۳۳ھ میں وفات پا چکے تھے اور مولانا اسماعیل شہید ۱۲۳۶ھ میں جام شہادت پی چکے تھے۔ (۲) مولانا منور الدین کے نام کوئی صاحب اس مجلس مناظرہ میں معروف یا غیر معروف حیثیت کے موجود نہیں تھے۔ اگر وہ سرگرم مخالف، بانی مناظرہ اور سربراہ ہوتے تو مولوی بدایونی ان کا ذکر ضرور کرتے۔ خصوصاً جب کہ کہانی کے بیان کے بموجب مولوی فضل رسول مولانا منور الدین کے شاگردوں میں تھے۔ (۳) حریمین سے کوئی فتویٰ مخالفین نے نہیں منگایا تھا۔ دہلی ہی کے کچھ علماء کی مہر میں ایک استفتا پر تھیں۔ (۴) مناظرانہ گفتگو آخر تک صرف مولانا عبدالحی سے ہوئی تھی۔

اس مناظرہ کی صحیح روداد ماہنامہ انفرکان لکھنؤ کے فریدی نمبر میں ملاحظہ کریں (محب الحق)

رسالہ ما اھل بہ لغیر اللہ اور مولانا منور الدین:

”مولانا منور الدین کا ایک رسالہ ما اھل بہ لغیر اللہ کے جھگڑے کی نسبت ہے۔ اس میں انھیں بڑی مشکل پیش آئی۔ اس لئے کہ یہ مسئلہ دراصل شاہ عبدالعزیز کی وجہ سے چھڑا۔ انھوں نے تفسیر فتح العزیز میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاف لکھ دیا کہ اہلال سے مقصود خدا ہے نہ کہ عند الذبح اس کا منسوب کرنا۔ اگرچہ شاہ صاحب ان کے استاد ہیں تاہم اس مسئلہ میں بڑی سختی سے ان کا رد کیا ہے اور اپنے نزدیک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام مفسرین سلف کے خلاف انھوں نے تفسیر کی ہے۔ اس کے آخر میں بہت سے علماء کی تقریظیں و تحریریں ہیں جن میں ایک تقریظ مفتی صدر الدین کی بھی ہے۔ ص ۵۹/۵۸

اول تو اس معرکہ الآر سالہ کا وجود ہی مشتبہ ہے اور اگر ہو بھی تو جہاں تک مفتی صدر الدین دہلوی کی تائید و تقریظ کا تعلق ہے اس کے متعلق پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ منجی المؤمنین من کید الجاسدین (مولفہ قاضی محمد حسین مطبوعہ پونہ) کے ص ۸۵ پر ایک فتویٰ اسی مسئلہ سے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تائید میں درج ہے۔ اس پر مولانا محمد قطب الدین دہلوی، مولانا محبوب علی، مولانا محمد کریم اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا عبدالخالق، مولانا مخصوص اللہ، مولانا مملوک علی، مولانا حیدر علی اور مولانا احمد علی کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر مفتی محمد صدر الدین صدر الصدور کے دستخط بھی ثبت ہیں۔ اسی کتاب منجی المؤمنین کے ص ۱۱۶ پر مولانا عبدالقیوم صاحب صدیقی ابن مولانا عبدالحی بڑھانوی مفتی بھوپال کا یہ خط بھی نقل کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صدر الدین صاحب اس مسئلہ میں اپنے استاد کے مسلک پر تھے۔

مکر ما! ما اھل بہ لغیر اللہ نزد عاجز و اکثر علماء، بلاشبہ حرام است ذبیحہ باخلاف حرام و اگر کسے را اختلاف است در غیر ذبیحہ است نہ در ذبیحہ چنانچہ در ہمنامہ ایک رسالہ الموسوم بربطۃ النصح از تصنیف مولوی تراب علی صاحب لکھنوی کہ بہواہیر علماء، دہلی مثل مفتی صدر الدین صاحب و غیرہ مطبوع شدہ از ان وضاحت مسئلہ مذکور طلبہ ارند کہ ہمہ اقوال مختلف و غیر مختلف ہما متقدمین و متاخرین در ان مندرج اند و باقی توضیح و تنقیح معنی این آیت شریفہ آنچہ در تفسیر عزیز یہ مرقومہ است در دیگر کتاب از ان تشریحی خاطر خود خواہند ساخت کہ دقیقہ از دقائق در ان فرو گذاشت بگردیدہ واضح سامی باد۔ و السلام (۵ رمضان المبارک ۱۲۷۱ھ) ترجمہ: مکر ما! جو جانور غیر اللہ کا نام نہ ہو کر ذبح کیا جائے وہ میرے اور اکثر و بیشتر علماء کے نزدیک باخلاف

حرام ہے۔ کسی کو اگر اختلاف ہے تو غیر ذبیحہ کے بارے میں ہے نہ کہ ذبیحہ کے۔ اس مسئلہ میں ایک رسالہ زبدۃ النصارح نام کا ہے۔ جو مولوی تراب علی لکھنوی کی تصنیف ہے اور جس میں علماء دہلی مثلاً مفتی صدر الدین صاحب وغیرہ کی مہریں ہیں اور جو طبع ہو گیا ہے۔ اس رسالہ سے مسئلہ مذکور کی وضاحت معلوم کریں۔ اس میں علماء متقدمین و متاخرین کے تمام مختلف و غیر مختلف اقوال درج ہیں۔ رہی اس آیت شریفہ کی توضیح و تفسیح تو جو کچھ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے وہ دوسری کتابوں میں کمیاب ہے۔ اس سے اپنی تشفی خاطر کر لیں۔ اس میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا گیا ہے۔

پھر بھلا وہ کس طرح اپنی تحقیق، اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کے خلاف مولوی منور الدین کے رسالہ پر تقریظ لکھ سکتے تھے۔

نواب سکندر بیگم اور مولانا منور الدین:

بات یہیں ختم نہیں ہوئی کہ مولانا منور الدین شاہ عبدالعزیز صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے تھے یا نہیں؟ اور وہ رکن المدرسین کے بلند پایے عہدے پر فائز رہے یا نہیں؟ انھوں نے جامع مسجد دہلی میں مخالفین شاہ محمد اسماعیل شہید کے ہمراہ ہو کر مجلس مناظرہ میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا تھا یا نہیں؟ ان کے دیگر کارہائے نمایاں کی طرح ان کا سفر بھوپال بھی بڑا دلچسپ اور بڑا ہی حیرت انگیز ہے اور اس سفر کی داستان پڑھ کر ایک مستقل سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگوار نے سفر بھوپال کیا بھی ہے یا نہیں؟ ان کے بھوپال پہنچنے پر ”نواب سکندر بیگم“ کا ان کے ہاتھ پر تائب ہونا اپنے عیش محل کو مسجد بنانا۔ جہانگیر محمد خاں کا جو ”نواب سکندر بیگم سے غایت درجہ وابستہ تھا“۔ (یعنی شوہر نہیں تھے) بیگم کی نظر التفات سے محروم ہونے کی بنا پر ان سے حسد کرنا اور قاب میں زہر دینا خود ان کا بھی مولانا منور الدین کے ہاتھ پر تائب ہونا اور ان کی جوتیاں اٹھا کر پالکی کے ساتھ دوڑنا اور اسے اپنے لئے باعث سعادت سمجھنا یہ سب واقعات ص ۶۰-۶۱ کہانی کے اندر درج ہیں۔ پہلے اس سلسلہ کے کچھ ضروری اقتباسات پیش کر دوں پھر اس بارے میں عرض کروں گا۔

”ان کے بعد (مولانا محمد اسحاق کے بعد) مولانا منور الدین بھی ہندوستان سے برداشتہ خاطر ہو گئے اور ہجرت پر آمادہ ہوئے۔ ان کے مریدین و معتقدین تمام شمالی ہند و پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے۔ انھوں نے یہ سنا تو جوق جوق آنے لگے اور کچھ دنوں کے لئے دہلی کا یہ حال ہو گیا کہ ہزاروں آدمی

اس کی آبادی میں بڑھ گئے۔ اس نجوم کی وجہ سے وہ اس سال نہ جانکے اور دوسرے سال روان ہوئے۔۔۔۔۔ چنانچہ یہ بمبئی روانہ ہوئے۔ جب بھوپال پہنچے تو نواب سکندر بیگم کا زمانہ تھا۔ وہ ان کا ذکر خیر پہلے سے سن چکی تھیں۔ انھوں نے نہایت اصرار کے ساتھ کہا کہ چند دن بھوپال میں قیام فرمائیں۔ نواب سکندر بیگم کے حالات ویسے ہی ناخوشگوار تھے۔ جیسے عموماً امراء کے ہوا کرتے تھے۔ مولانا کو ان حالات کی اطلاع تھی۔ یہ شہر سے باہر رک گئے اور کہلا بھیجا کہ میں اس شرط سے آسکتا ہوں کہ بیگم صدق دل سے تائب ہو۔ بیگم خود شہر سے باہر آکر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس درجہ متاثر ہوئی کہ ان کے ہاتھ پر تائب ہوگئی اور شہر میں لا کر اسی محل میں ٹھہرایا جسے پہلے ایک تالاب کے وسط میں عیش و نشاط کے لئے بنایا تھا اور اب مسجد کر دیا تھا۔ چند دن کے بعد مولانا نے آگے بڑھنا چاہا مگر بیگم مانع ہوئی اور چندے توقف کرنے کی درخواست کی۔ اس پر انھوں نے مستعجل رفقاء کو سفر کی اجازت دیدی اور خود اس سال ٹھہر گئے۔ بھوپال میں ان کی وجہ سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ نواب بیگم کی بالکل کایا پلٹ ہوگئی اور ایک بڑی خلقت ان کے ہاتھ پر تائب ہو کر مرید ہوئی۔ قیام بھوپال کے زمانے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ نواب جہانگیر خاں جو نواب سکندر بیگم سے غایت درجہ وابستہ تھا۔ جب مولانا کے ہاتھ پر (بیگم کے) تائب ہونے کی وجہ سے بیگم کی نظر التفات سے محروم ہو گیا تو ان سے سخت حسد و رنج پیدا ہوا۔۔۔۔۔ نواب جہانگیر خاں نے انھیں زہر دیدینا چاہا۔ چنانچہ ایک روز جب بیگم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور متعدد امراء اور خود جہانگیر خاں بھی دسترخوان پر تھے اور بیگم خود اپنے سامنے سے کھانے کی قابیں اٹھا اٹھا کر مولانا کے سامنے رکھتی تھیں کہ ایک پلیٹ مزعفر کی بیگم نے ان کے سامنے اٹھا کر رکھی اسی میں درحقیقت زہر تھا۔ مولانا کو کسی طرح یہ مکیدہ معلوم ہو گیا اور انھوں نے وہ قاب اٹھا کر نواب جہانگیر خاں کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھائی نواب صاحب یہ آپ کے کھانے کی چیز ہے۔ نواب پر اس بات کا از حد اثر پڑا۔ اس نے اسے انکی کرامت تصور کیا۔ بے اختیار کانپنے لگا اور اسی وقت قدموں پر گر کر صدق دل سے تمام معاصی و فسوق سے توبہ کی۔ پھر تو اس کی یہ حالت ہوئی کہ ان کی جو تیاں اٹھا کر پانچلی کے ساتھ دوڑاتا اور اسے اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا۔ (کہانی ص ۶۲۳-۶۲۰)

اب تاج الاقبال تاریخ بھوپال مولفہ نواب شاہ جہاں بیگم سے حسب ضرورت کچھ اقتباس تحریر کرتا ہوں یہ اقتباس بھی ذہن نشین رہے:

(۱) غرہ رمضان ۱۲۵۳ھ کو نواب صاحب بہادر (جہانگیر محمد خاں) تجویز صدر صدر نشین ہوئے۔ ششم جمادی الاولیٰ ۱۲۵۴ھ کو اسلام نگر میں میری ولادت ہوئی۔ ۱۲۵۶ھ میں محلہ جہانگیر آباد آباد کیا۔ اٹھائیسویں ذی قعدہ ۱۲۶۰ھ کو چھبیس برس کی عمر میں ان کا (نواب جہانگیر محمد خاں) کا انتقال ہوا۔ نور باغ میں مدفون ہوئے۔ (تاج الاقبال دفتر الاول ص ۳۱ و ۳۲)

(۲) (نواب سکندر بیگم) ۱۲۳۳ھ میں پیدا ہوئیں۔ اٹھارویں ذی الحجہ ۱۲۵۰ھ کو ان کا نکاح (نواب جہانگیر محمد خاں سے) ہوا۔ پندرہویں محرم ۱۲۶۳ھ کو مختار ریاست ہوئیں۔ نویں شوال ۱۲۷۶ھ کو برضا مندی میری اور منظوری نواب گورنر جنرل بہادر نائب السلطنت فرماں روئے ہند صدر نشین بھوپال ہوئیں اور وہیں مستقل ٹھہریں۔ سیزدہم رجب ۱۲۸۵ھ کو اس دار فانی سے سرائے جاودانی کوچ کر گئیں۔ (تاج الاقبال دفتر دوم ص ۶) اس کے بعد یہ طے کرتا ہے کہ مولانا منور الدین نے یہ سفر کس سن میں کیا ہے؟ آزاد کی کہانی میں صراحتاً کوئی سن نہیں ملتا۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد اسحاق کی ہجرت کے بعد یہ بھی ہندوستان سے برداشتہ خاطر ہو گئے اور ہجرت پر آمادہ ہوئے۔ مگر جب ذرا غور کیا تو خود اسی کتاب سے ضمناً سفر ہجرت اور سفر بھوپال کا زمانہ نکل آیا۔۔۔۔۔ اگرچہ حساب لگانے میں رجعت قہقریٰ کرنا بڑی مگر تھکی سلجھ گئی۔ دیکھئے کہانی کے ص ۶۲ و ۶۳ پر ہے:

”ایک سال کے بعد (مولانا منور الدین) بھوپال سے بمبئی عازم ہوئے۔۔۔۔۔ یہاں (بمبئی میں) دو سال قیام رہا۔ تیسرے سال مکہ معظمہ پہنچے اور پانچ سال میں پانچ حج کر کے وہیں انتقال کیا۔ اسی سال ہندوستان میں نذر ہوا۔“

ہندوستان میں نذر ۱۲۷۳ھ میں ہوا ہے۔ اس میں سے پانچ سال قیام مکہ کے کم کئے ۱۲۶۸ھ برآمد ہوئے۔ اس میں سے دو سال قیام بمبئی اور ایک سال قیام بھوپال کے کم کئے۔ احتیاطاً ایک سال سفر حج کا بھی کم کیا تو تقریباً ۱۲۶۳ھ برآمد ہوئے۔ یہ زمانہ ان کے بھوپال آنے کا ہے اور اس وقت نواب جہانگیر محمد خاں کا انتقال ہوئے کم از کم چار سال گزر چکے تھے۔ خود کہانی کے اندر بھی موجود ہے کہ ”جب بھوپال پہنچے تو نواب سکندر بیگم کا زمانہ تھا۔۔۔۔۔ نواب سکندر بیگم پندرہ محرم ۱۲۶۳ھ کو مختار ریاست ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے اپنے شوہر نواب جہانگیر محمد خاں کے زمانہ حیات میں وہ مختار ریاست نہیں تھیں۔ خود ان کے شوہر والی ریاست تھے۔ جیسا کہ تاج الاقبال تاریخ بھوپال کے حوالے سے لکھا جا چکا ہے۔ اس

حقیقت کے بعد کیا اصل رہ جاتی۔ نہ نواب جہانگیر محمد خاں کے مولانا منور الدین سے حسد و رنج کرنے و زہر کھلانے کی کوشش فرمانے اور بہرمان کے ہاتھ پر توبہ کی اور ان کی پالگی کے ساتھ ان کی جوتیاں اٹھا کر دوڑنے کی؟ علاوہ ازیں نواب جہانگیر محمد خاں مرحوم تو نواب سکندر بیگم کے شوہر اور بھوپال کے فرماں روا تھے۔ وابستگی کے کیا معنی اور نظر التفات سے محروم ہونے کا کیا مطلب؟

مزعفر کی قاب میں زہر بھر دینے کا قصہ اگرچہ بین طور پر ختم ہو گیا لیکن قطع نظر تاریخی حقائق کے خود اس واقعے کے اجزاء اس کے عدم وقوع پر دلالت کر رہے ہیں۔

غور تو کیجئے بیگم جب مولانا منور الدین کے ہاتھ پر تائب ہو چکی تھیں تو نواب جہانگیر محمد خاں جو مولانا منور الدین کے مخالف تھے اور بیگم کی نظر التفات سے محروم بھی ہو چکے تھے پھر دعوت میں کس تدبیر سے آئے اور یہ زہر آلود پلیٹ بیگم کے دست خوان پر کس طرح پہنچی؟ علاوہ ازیں زہر کا علم رئیسہ کو تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو خود رئیسہ نے جہانگیر محمد خاں سے مولانا کی مخالفت میں سازش کر لی تھی؟ اگر علم نہ تھا تو پھر رئیسہ نے وہی قاب مولانا کے سامنے کیوں بڑھائی اس میں سے خود کیوں نہیں کھایا۔ کیا اس میں رئیسہ کی بھی کرامت شامل تھی؟ اور خود مولانا منور الدین کی مذہبی حمیت نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ ایک غیر محرم رئیسہ کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں؟ اور بعد میں جب نواب جہانگیر محمد خاں نادم و تائب ہو گئے اور مولانا کی جوتیاں اٹھائے اٹھائے پالگی کے ساتھ پھرتے تھے تو ان پر اور ان کے خاندان پر اور ان کے حلقہ اثر پر مولانا منور الدین کے خیالات و عقائد کا اثر کیوں نہیں پڑا؟

حقیقت یہ ہے کہ بھوپال میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور کیسے پیش آتا جب کہ مولانا مذکور کے بھوپال آنے کے وقت نواب جہانگیر محمد خاں کا دنیا میں وجود ہی نہ تھا۔

تاریخ بھوپال شاہد ہے کہ وہاں کبھی ایسے عالم کو جو قرآن و حدیث پر بطریق صحیح عامل نہ ہو خاندان ولی الہمی کے مسلک کا سخت مخالف ہو کوئی امتیاز نہیں ملا ہے۔ نواب جہانگیر محمد خاں مرحوم سے لے کر نواب سلطان جہاں بیگم تک سب کے سب بدعات سے نفور اور اہل حق کے معتقد رہے ہیں (اور آج بھی بجز اللہ یہ علاقہ شیوع بدعات سے محفوظ ہے) چنانچہ خود نواب جہانگیر محمد خاں کے عہد حکومت میں مولانا شریف حسین دہلوی قاضی ریاست تھے۔ نواب سکندر بیگم کے زمانے میں نواب صدیق حسن خاں مرحوم پہلے میرنشی رہے پھر مرحوم نے ان کے علم و فضل کو ملاحظہ فرما کر ریاست بھوپال کا مہتمم عمل

تاریخ نگاری مقرر کیا۔ پھر وہ افسر جملہ مدارس اسلامیہ بھوپال بنائے گئے۔ فشی جمال الدین مرحوم مدار الہمام بھوپال کو یہ عظیم الشان شرف حاصل ہے کہ انھوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجۃ اللہ الباقی اور ازالۃ الخفاء کو سب سے پہلے ہندوستان میں طبع کرایا۔

نواب سکندر بیگم ایک عفت مآب، عصمت شعار، پابند صوم و صلوة اور خوش عقیدہ رئیسہ تھیں۔ انھوں نے ۱۲۸۰ھ میں اس زمانے میں حج کیا جب ہندوستان کے نوابوں میں حج کا رواج نہیں تھا۔ حجاز میں انھوں نے ہزار ہاروپہ خیرات کیا۔ قیام حجاج کے لئے رباط بھوپال کو بنایا اور اس کے تمام مصارف ریاست سے ادا کرتی تھیں۔ جب حج کو گئیں تو مولانا عبدالحی بڈھانوی رفیق حضرت سید احمد شہید کے اکلوتے صاحبزادے مولانا عبدالقیوم محدث کو بھوپال تشریف لانے کی دعوت دی۔ چنانچہ مولانا عبدالقیوم صاحب انھیں کی درخواست پر بھوپال آئے اور یہاں بیٹھ کر تشنگان علم حدیث و قرآن کو مدتوں سیراب کیا۔

فشی جمال الدین مرحوم مدار الہمام ریاست بھوپال کے مختصر حالات آثر صدیقی (مولف صغی الدولہ حسام الملک نواب سید محمد علی حسن خاں ابن نواب سید صدیق حسن خاں مرحوم) میں اس طور پر درج ہیں: "فشی وحید الدین مرحوم بن محی الدین بن حسام الدین کے بیٹے تھے۔ سلسلہ نسب ان کا محمد بن ابی بکر پر مشتمل ہوتا ہے۔ قدیم وطن ان کا بوزیہ ضلع سہارنپور تھا۔ فشی جمال الدین خاں مرحوم ۱۲۱۶ھ میں پیدا ہوئے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو تحصیل علم کی غرض سے دارالسلطنت دہلی میں آئے۔ مولوی ملوک علی صاحب مدرس مدرسہ انگریزی کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مجالس و عطا میں شریک ہونا انھوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ تحصیل علم کا سلسلہ منقطع سا ہو گیا اور پھر ایک خاص واقعہ درج کر کے لکھا ہے کہ "تحصیل علم کا سلسلہ از سر نو شروع کیا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی کے حلقہ درس میں داخل ہوئے اور مولوی محمد اسحاق صاحب اور محمد یعقوب صاحب مہاجر مکہ معظمہ سے تعلیم کی تکمیل کی۔ اس کے بعد نواب سکندر بیگم صاحبہ کے عہد میں بھوپال پہنچنے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: "پہلے وہ محض ایک معمولی خدمت پر مامور ہوئے لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد ۱۲۶۳ھ میں نائب اول (مدار الہمام) کے منصب جلیلہ پر فائز ہو گئے۔ مدار الہمام صاحب اعتقاداً و عملاً موحد متبع سنت مدبر بیدار مغز اور بڑے راسخ الاعتقاد تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے ان کو خاص ارادت تھی۔ شاہ صاحب کی بہترین تصنیف حجۃ اللہ الباقی کی دست فاضی اور علم پروری سے پہلے سال ۱۲۸۶ھ میں چھپ کر شائع ہوئی۔ ۲۷ محرم ۱۲۹۹ھ موافق ۱۸۸۱ء کو مدار الہمام محمد جمال الدین خاں بہادر مرحوم نے شب کے گیارہ بجے رحلت کی۔ (آثر صدیقی حصہ دوم ص ۵۶۲۳) واضح رہے کہ آثر صدیقی کے مؤلف مدار الہمام مرحوم کے حقیقی نواسے تھے۔ (فریدی) ۲۷ تاریخ اقبال دفتر دوم۔ ۳ تاریخ اقبال دفتر دوم۔ جماعت مجاہدین ص ۲۹۳ (فریدی)

نواب سکندر بیگم کی صاحبزادی نواب شاہ جہاں بیگم جو پابندی احکام دین، عقل و فہم، عدل و انصاف اور انتظام سلطنت میں بے نظیر امتیاز رکھتی تھیں۔ انھوں نے اپنا نکاح ثانی نواب صدیق حسن خاں مرحوم سے کیا۔ ایک فرماں روادیر عیسہ کا زمانے اور ماحول کے رسم و رواج کے خلاف نکاح ثانی کر لینا ایک زبردست اصلاحی انقلاب تھا۔ جس کو شاہ ولی اللہ کے وصیت نامے اور حضرت سید احمد شہیدؒ کی جدوجہد کا زریں نتیجہ کہنا چاہئے۔

سلطان جہاں بیگم کی دینداری اور خوش عقیدگی بھی مسلم الثبوت ہے اور قطب الوقت عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہیؒ سے بوکالت و سفارت مولانا قاضی محی الدین فاروقی مراد آبادی رجب الثانی ۱۳۲۳ھ میں (حضرت گنگوہیؒ کی وفات سے تقریباً دو ماہ قبل) بیعت ہوئی تھیں۔

آخر میں اتنا اور عرض کر دوں کہ بھوپال کے تالاب میں کسی ایسی عمارت کا جو پہلے نواب سکندر بیگم کا "نشاط محل" ہو اور پھر مسجد میں تبدیل کر دی گئی ہو، کوئی نشان نہیں۔ نہ بھوپال کی تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے۔

نہرز بیدہ اور مولانا خیر الدین:

"ان کے (مولانا خیر الدین کے) زمانہ قیام حجاز کا ایک یادگار اور تاریخی واقعہ نہرز بیدہ کی مرمت بھی ہے..... اسی زمانے میں ایک سال کے حج میں پانی بالکل بند ہو گیا اور ہزاروں آدمی پیاس سے مر گئے۔ والد مرحوم نے یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اور منیٰ ہی میں ارادہ کر لیا تھا کہ دوسرے حج کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کار خیر کو کر کے چھوڑیں گے..... اس زمانہ میں ان کے مریدین میں حاجی عبدالواحد جو کلکتہ اور بمبئی میں "حاجی واحدنا" کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے شریک کار حاجی زکریا تھے..... اور یہ دونوں اس سال کے حج میں موجود تھے اور والد مرحوم کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب قسطنطنیہ کی طرف سے ناامیدی ہو گئی تو والد نے سب سے پہلے حاجی عبدالواحد اور حاجی زکریا سے تحریک کی اور انھوں نے دولاکھ کی پہلی رقم پیش کر دی۔

اس کے بعد والد نے سات آدمیوں کی ایک مجلس بنائی اور یہ فنڈ اس کے انتظام میں دیدیا..... لیکن افسوس ہے کہ روپیہ کی کمی کی وجہ سے یہ کام پورا نہ ہو سکا البتہ نہر کی اس درجے درستی ہو گئی کہ تیس برس تک پھر کسی طرح کی خرابی واقع نہ ہوئی۔ (آزادی کہانی ص ۹۴-۹۵)

حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں نہر زبیدہ کی مرمت کا ہونا مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی مہاجر مکہ ”صاحب اظہار الحق“ و بانی مدرسہ صولتیہ کا کارنامہ ہے۔ جن کا علاوہ ہندوستان کے حجاز و ترکی میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی سوانح عمری میں لکھا ہے:

”نہر زبیدہ امتداد زمانہ سے بہت زیادہ قابل مرمت و اصلاح تھی اور پانی کے لئے ساکنان حرم کو کافی وقت و زحمت پیش آتی تھی اسی زمانہ میں ”سینٹہ عبدالواحد عرف واحد ناسینٹہ“ مکہ معظمہ آئے اور اس سلسلہ میں ایک مشورتی اجتماعیہ مدرسہ صولتیہ میں منعقد ہوا۔ سینٹہ عبدالواحد صاحب باتوقی صاحب ہمت دولت مند تھے۔ حضرت مولانا مرحوم (مولانا رحمت اللہ صاحب) نے نہر زبیدہ کی از سر نو اصلاح و مرمت کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لئے حکومت کی اجازت و حالات کے لحاظ سے ایک مستقل مجلس قائم کی گئی۔ جس میں مہاجرین مکہ معظمہ کے ہر طبقے میں سے ہر قوم کے ممتاز افراد مجلس میں ممبر بنائے گئے۔ اس مجلس کی صدارت کے لئے حضرت مولانا مرحوم کو منتخب کیا گیا۔ مگر آپ نے اپنے شاگرد رشید فضیلت مآب مولانا شیخ عبدالرحمن سراج صاحب مرحوم مفتی احناف و شیخ العلماء مکہ معظمہ کو اس کے لئے موزوں سمجھا اور خود نائب صدر کی حیثیت سے اس عظیم الشان کام کی فہم داری اٹھائی۔ سینٹہ عبدالواحد صاحب نہر زبیدہ کے خزانچی اور تجویذ دار مقرر ہوئے۔ خدا کا شکر و احسان ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ان بزرگوں کی ہمت سے دوبارہ زندہ ہوا۔ (ایک مجاہد معمار ص ۵۳)

مولانا خیر الدین کا حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقا پر بہتان عظیم:

کہانی میں ہے: ”اس بارے میں ان کا (مولانا خیر الدین کا) بیان یہ تھا کہ جب شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی تمام جائیداد اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دی باقی کے لئے بھی وصیت نامہ لکھ دیا اور مولوی اسماعیل کے لئے کچھ بھی نہ رہا تو اب دنیا کی طلب دل میں سائی اور یہ ڈھنگ نکالا کہ بییری مریدی کا ایک نیا کارخانہ جمایا جائے۔ سید احمد بریلوی فوج میں ایک ان پڑھ سپاہی تھے۔ ان سے سازش کر کے انھیں پیر بنایا۔ مولوی عبدالحی شاہ صاحب کے داماد تھے وہ بھی بیٹی کے محروم رہ جانے سے برداشتہ خاطر تھے۔ وہ شریک سازش ہو گئے اور صورت یہ قرار دی کہ خدا کی دین میں کسی کا کیا لینا دینا ہے۔ ہم

ان کا قلع اس جماعت اہل حق سے ہے کہ جس کے مولانا خیر الدین سخت مخالف تھے چنانچہ کہانی کے ص ۸۷ پر لکھا ہے: ”نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد اچانک اس جماعت کے اکتیس آدمی گرفتار کر لئے گئے جن میں مولانا رحمت اللہ صاحب اظہار الحق بھی تھے۔“ (فریدی)

نوا سے (؟) اور داماد تھے مگر محروم رہ گئے اور شاہ صاحب کا تمام باطنی فیض ٹونک کے اس سپاہی کو مل گیا۔ آدمی (مولانا اسماعیل شہید) ذہین اور لسان تھا۔ بہت جلد لوگوں میں ایک غلغلہ مچا دیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک معمولی ان پڑھ آدمی کو شاہ صاحب کے نوا سے (؟) نے پیر مان لیا ہے۔ اس کی پانگی پکڑ کے جوتی بغل میں داب کے دوڑتا ہے اور علانیہ اپنی محرومی اور ان کی فیض یابی کا اقرار کرتا ہے تو اس سے لوگوں میں بڑا ہی رنگ جما اور ہر طرف سے چاندی سونے کی بارش ہونے لگی۔“ ص ۳۶۳

اس میں شک نہیں کہ مولانا آزاد اپنے والد کے اس قسم کے بیانات سے متفق نہیں تھے اور وہ حضرت سید صاحب اور ان کے رفقاء کے مداحوں میں سے تھے۔ ان کے والد کے اس قسم کے عالیانہ اور انتہا پسندانہ خیالات و عقائد نے ہی درحقیقت بطور رد عمل مولانا کو وادی مشکوک میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مولانا آزاد نے اس طرح کے بیانات پر بعض جگہ ریمارک بھی کئے ہیں اور بعض جگہ انھوں نے اپنے والد کی اس قسم کی باتوں کو فتنے سے تعبیر کیا ہے۔

اس مقام پر بھی خیریت سے بہتان عظیم کا عنوان موجود ہے لیکن بہت سے خلاف تحقیق اور سراسر لغو باتوں پر تنقید نہیں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا کے والد کی عظمت ان کے اخلاق عالیہ ان کے تزکیہ نفس اور روحانی کمالات کے اس قدر واقعات کہانی میں بیان کئے گئے ہیں جن کو سامنے رکھ کر بہت سے ناواقفوں کو شبہ ہی نہیں یقین ہو سکتا ہے کہ مولانا خیر الدین جیسا صاف باطن اور ”صاحب بصیرت“ شخص جو کچھ بھی مولانا اسماعیل شہید اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا۔ حالانکہ خاندان شاہ ولی اللہ اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں جو کچھ بھی انھوں نے ”گوہر افشانی“ کی ہے وہ سراسر بہتان ہی بہتان ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ ان بہتانوں کا سرچشمہ اور منبع مولوی فضل رسول بدایونی کی کتاب سیف الجبار ہے۔ یہ وہی مولوی فضل رسول ہیں جن سے مولانا خیر الدین کو بڑی مناسبت تھی چنانچہ مولانا آزاد فرماتے ہیں:

”ہندوستان کے گذشتہ علماء میں صرف مولوی فضل رسول بدایونی جنھوں نے تقویہ الایمان کے رد میں..... لکھی ہے ٹھیک اسی رنگ پر تھے جو اس بارے میں والد مرحوم کا تھا۔ (کہانی ص ۱۶۳)

حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خاں بریلوی جن سے مولانا خیر الدین کے اچھے تعلقات تھے اور جن کو صحیح الاعتقاد فرمایا کرتے تھے جب وہ کلکتہ میں ان سے ملے اور ایک مسئلہ میں اختلاف ہوا تو

”ان کے جانے کے بعد ہم سے کہا کہ اس شخص کے عقیدہ میں بھی فتور ہے۔“ (کہانی ص ۱۶۶)

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی بات پوری طرح یاد نہیں رہی تھی وہ تو یوں ”گل افشانی“ فرما رہے ہیں: (۱) شاہ عبدالعزیز صاحب نے آخر عمر میں اپنا تمام ملوکہ منقولہ کہ ہر جنس کثرت سے تھی حرم اور نواسوں وغیرہ کو ہبہ کر کے خالص کر دیا مگر مولوی اسماعیل کو کچھ نہ دیا۔ (سیف الجبار ص ۱۷، ۱۸) (۲) ”جب شاہ صاحب نے اپنے ساری ملوکات اوروں کو ہبہ کر دی مولوی اسماعیل گھبرائے اور مولوی عبدالحی شاہ صاحب کے داماد..... موقوف ہو کر دہلی میں آئے دونوں نے مل کر سید احمد نام..... شاہ صاحب کے مرید کو پیر بنایا اور ساتھ لے کر شہروں میں پھیری شروع کی اور در بدر گھر بہ گھر قرآن وحدیث کے درس کو وسیلہ ٹھہرایا۔“ (ص ۳۳)

کہانی میں: ساعلیہ اور اسحاقیہ کے عنوان سے ص ۱۶۵ پر مولانا خیر الدین کی بے نظیر تحقیق پیش کی گئی ہے۔ وہ بھی سیف الجبار ہی کے ص ۵۱، ۵۰ سے ناقص طریقے پر ماخوذ ہے۔

اب میں بہتان عظیم کا مختصر جواب دینے سے پہلے میاں سید احمد علی بجنوری (شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیز) کے خط کا اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں شاہ صاحب کی بیماری اور وفات کے چشم دید حالات بیان کئے گئے ہیں۔ اس خط کا ترجمہ مولانا ذوالفقار احمد بھوپائی نے اپنی کتاب الروض المبطور فی علماء شرح الصدور میں درج کر دیا ہے۔ اس خط کا فقط وہ حصہ جس سے مولانا خیر الدین کے ”بہتان عظیم“ کی جڑ کٹ جاتی ہے یہاں نقل کیا جا رہا ہے:

”حضرت شاہ عبدالعزیز نے) روز سہ شنبہ کہ دن درس کا تھا بکمال بے طاقتی منبر پر آرام کر کے تفسیر آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرما کر بس کیا۔ پھر دن باقی رہے۔ فقیر کو طلب فرما کے کاغذ وصیت نامہ مشتمل بر بہہ فروش و کتب خاص ذات خود بمولوی محمد اسحاق دام ظلم و دیگر امورات کا لکھوا کر مہر فقیر کی اس پر ثبت کرائی۔ من بعد مولوی رشید الدین خاں صاحب وغیرہ کو طلب کر کے ان کی مہر ثبت

۱۔ جس مسئلہ میں اختلاف ہوا تھا منہا اس کو بھی پڑھے: لکھا ہے اختلاف مولوی احمد رضا خاں صاحب کے ایک رسالہ پر پیدا ہوا جس میں انہوں نے عدم ایمان ابوین آنحضرت ﷺ اور ایمان ابو طالب پر زور دیا تھا۔ حالانکہ مولوی احمد رضا خاں صاحب کا مسلک اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ایمان ابوین اور عدم ایمان ابو طالب کے قائل ہیں۔ ان کی تصانیف و ملحوظات میں جابجا اس بارہ میں تصریحات ہیں۔ (فریدی)

کرائیں۔ اس دن حال بہت متغیر تھا..... جمعہ کے دن چاہا کہ موافق معمول کے مدرسہ میں آئیں نہ آسکے۔ درس موقوف ہوا مگر زیارت سب کو میسر ہوئی۔ وقت شام کے تفسیر مدارک و تفسیر رحمانی سنی۔ بعدہ جو کچھ نقدی تھی اس کو برادر زادوں اور ذوی الارحام حاضر و غائب کو تقسیم فرمایا۔ (اس کے دو دن بعد) بعد نماز فجر ساتویں ماہ شوال روز یکشنبہ ۱۳۳۹ھ داعی اجل کو لبیک اجابت فرمائی اور اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ (الروض الممطور ص ۲۰۱)

دیکھئے معتبر ترین شاہد کا بیان ہے کہ شاہ صاحب نے حاضر و غائب برادر زادوں اور ذوی الارحام کو..... جو کچھ نقدی ان کے پاس تھی تقسیم کر دی تھی۔ حضرت شاہ محمد اسماعیل جو شاہ صاحب کے برادر زادے تھے وفات شاہ صاحب کے وقت دہلی میں موجود نہ تھے۔ مگر حصہ ان کو بھی دیا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو محروم کر دیا گیا ہو۔ البتہ مولانا محمد اسحاق صاحب اپنے نواسے کو بحیثیت اپنے جانشین اپنی کتابیں اور فرش فروش ضرور ہبہ کئے۔

اس میں مولانا اسماعیل شہید کی تخصیص نہیں۔ مولوی محمد موسیٰ، مولوی مخصوص اللہ وغیرہما برادر زادگان کو بھی کچھ نہیں ہبہ کیا گیا۔ علاوہ ازین شاہ عبدالعزیز کے پاس جو ایک درویش صفت متوکلانہ زندگی بسر کرنے والے محدث تھے کونے ایسے خزانے اور کونسا ایسا مال کثیر رکھا ہوا تھا جس کا یہ پرو پگنڈہ کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد پر حضرت سید احمد شہید کی اصلاحی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش فرمائی جا رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کو کفن تک گاڑھے کا دیا گیا تھا اور وہ خود وصیت فرما گئے تھے کہ میرا کفن اس کپڑے کا ہو جو میں پہنتا ہوں۔

”کرتا آپ کا دھوتر کا اور گاڑھے کا پا جامہ ہوتا تھا۔“ (الروض الممطور و کمالات عزیزی)

اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید حضرت شاہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے مگر مولانا خیر الدین کے اس بہتان عظیم کو بیان کرتے ہوئے دو جگہ شاہ شہید کو نواسہ لکھا گیا ہے۔ علاوہ ازین مولانا عبدالحی کی اس زوجہ سے جو شاہ عبدالعزیز کی صاحبزادی تھیں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان صاحبزادی کا انتقال شاہ صاحب کے سامنے ہی ہو گیا تھا۔ پھر داماد کو شاہ صاحب کے مال میں آرزو کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ اور کتاب التوحید:

کہانی میں بیان کیا گیا ہے کہ ”شاہ ولی اللہ مرحوم کو جو عین محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ظہور و

شیوع عقائد کے زمانہ میں حریمین میں مقیم تھے۔ اس کی کتاب التوحید ملی اور اس کی وجہ سے ان کے خیالات میں بھی ایک گونہ فتور ہوا۔ وہ اس فتنہ کو اپنے ہمراہ ہندوستان لائے۔ ان کی کتابوں میں مولوی اسماعیل کو کتاب التوحید ملی۔“ (کہانی ص ۳۶۵)

یہ عظیم ترین بہتان بھی مولانا خیر الدین کے ”حقائق و معارف“ کا ایک نمونہ اور ان خیالات کی ایک جھلک ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ کے متعلق وہ رکھتے تھے۔ غور تو کیجئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے قیام حریمین کا زمانہ ۱۱۴۳ھ سے ۱۱۴۵ھ تک کا ہے۔ ۱۱۷۴ھ میں ان کا وصال ہو گیا اور مولوی فضل رسول بدایونی جو مولانا خیر الدین کے معتمد علیہ اور ”مولانا اسماعیل دشمنی“ میں ان کے خاص ہم مشرب و ہم مزاج ہیں سیف الجبار میں یہ ارقام فرما رہے ہیں کہ کتاب التوحید ۱۲۲۱ھ میں اواخر ایام سلطان سلیم ثالث میں مکہ معظمہ کے اندر آئی تھی۔ پھر قیام حریمین کے زمانے میں یہ کتاب حضرت شاہ ولی اللہ کے ہاتھ کیسے لگ گئی۔ اس موقع پر بھی اگر مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی پوری بات یاد رہتی تو وہ وہی کہتے جو انھوں نے سیف الجبار میں لکھی ہے۔ دیکھئے مولوی بدایونی کتنا عجیب انکشاف فرماتے ہیں۔

وہ حضرت شہید اور فقائے سید احمد شہیدؒ پوائز مات بیجا لگاتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں:

”ان ہی سامانوں سے یروسیاحت کرتے پھرتے تھے کہ تیسرا فساد ظاہر ہوا یعنی کتاب التوحید نجد یہ کی مراد آباد میں کہ وہاں پہلے سے کسی قدر اس مذہب کی گفتگو تھی۔ ہاتھ لگی۔ اس مذہب کو پسند کیا اور تقویۃ الایمان تصنیف کی گویا اسی کتاب التوحید کی شرح ہے۔“ (سیف الجبار ص ۴۳)

ایک غلط بات کتنے تک سے کہی گئی تھی کہ کتاب التوحید مراد آباد سے مل گئی تھی۔ مولانا خیر الدین نے اس کو تاریخی اعتبار سے خواہ مخواہ پیچیدہ اور درواز کار بنا دیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب حریمین سے کتاب التوحید لائے اور شاہ اسماعیل صاحب کو اپنے دادا کے کتب خانہ سے وہ کتاب ہاتھ لگ گئی۔ معاندین شاہ اسماعیل تقویۃ الایمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے رہے ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ سید صاحب اپنے رفقاء کے ساتھ حج کو گئے تو وہاں یوں سے متاثر ہوئے اور وہاں کتاب التوحید مل گئی اور تقویۃ الایمان لکھی۔ کوئی کہتا ہے مراد آباد سے کتاب التوحید مل گئی تھی۔ اس کا دوسرا ایڈیشن تقویۃ الایمان ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ دادا کے کتب خانہ سے کتاب التوحید برآمد کر لی تھی اور اس کا چرہ تقویۃ الایمان ہے۔ ٹھکانہ ہے ان محققین کی ژولیدہ بیانی اور اختلاف رائے کا۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی سجادہ نشینی:

اب اس سے بھی بڑا بہتان جس کو سن کر روکتے گھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھ لیجئے: ”والد مرحوم (مولانا خیر الدین) کہتے تھے کہ جب ان کے (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے) انتقال کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی سجادہ نشینی کی مجلس ہوئی اور شاہ فخر الدین مرحوم نے ان کے سر پر پگڑی رکھی تو کان میں کہا تھا تمہارے خاندان کی چادر پر ایک دھبہ لگ چکا ہے۔ اپنی سعی و ہمت سے اسے دھو ڈالنا۔ یہ شاہ ولی اللہ کی طرف اشارہ تھا اور مشہور تھا کہ ان کو اپنے ذوق تفتن میں اعتزال کی طرف میلان رہا ہے۔ (۳۶۷-۳۶۸)

مولانا منور الدین نے تو حضرت مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ اور حضرت مولانا عبدالحی کے عقائد پر مصنوعی فضا میں ہوائی حملے کئے ہی تھے اور آگے بڑھ کر اپنے فرضی استاد حضرت شاہ عبدالعزیزؒ پر بھی ہاتھ صاف کیا تھا اور ان کی تفسیر اور ان کے فتویٰ کو عالم خیال میں مضبوط دلائل سے رد کر دیا تھا۔ اب ان کے نواسے مولانا خیر الدین کا زمانہ آیا تو انہوں نے باوجود اس ادعا کے کہ وہ خاندان ولی المہدی سے رشتہ تلمذ رکھتے ہیں شاہ عبدالعزیزؒ کا رد بقول مولانا آزاد (بروایت کہانی) ”تفسیروں“ کے حوالوں سے ما اہل بہ لغیر اللہ کے مسئلہ میں کیا اور جب اس سے بھی تسکین خاطر نہ ہوئی تو صاحب حجۃ اللہ الباقی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اول محمد بن عبدالوہاب کی کتاب التوحید کا خوشہ چھیں بتایا اور پھر معتزلی بنا کے چھوڑا..... اور کتنے مقدس انداز میں اپنے دل کی بات شاہ فخر الدین کی زبان سے شاہ عبدالعزیزؒ کے کان میں چپکے سے کہلوادی..... شاہ فخر الدین نے چپکے سے جو بات شاہ صاحب کے کان میں کہی تھی وہ مولانا خیر الدین کو غالباً مولانا منور الدین کے واسطے سے معلوم ہوئی ہوگی۔ مولانا منور الدین ہی ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہیں جو اپنے استاد شاہ عبدالعزیزؒ کی دستار بندی کے وقت بھی موجود ہو سکتے ہیں۔

میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دستار بندی کی داستان محض بے اصل ہے۔ حضرت عبدالعزیزؒ کی سجادہ نشینی کی کوئی تقریب نہیں ہوئی جس میں حضرت شاہ فخر الدین چشتی نے دستار باندھی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو شاہ عبدالعزیزؒ اپنے ملفوظات میں اس کا ذکر فرماتے۔ کوئی تذکرہ نویس لکھتا، خود شاہ فخر الدین کے ملفوظات میں اس کا ذکر ہوتا..... علاوہ ازیں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اپنے والد ماجد کی حیات ہی میں فارغ التحصیل ہو کر منازل سلوک طے کر چکے تھے۔ وہ عملاً اپنے والد کے جانشین ان کی

زندگی ہی میں ہو چکے تھے۔ پھر کیا ضرورت تھی جشنِ سجادہ نشینی منعقد کرنے اور شاہِ فخر الدینؒ سے ایسی بات سننے کی؟ اور کمال یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنے باکمال باپ پر جو استاد اور پیر و مرشد بھی تھا اور جس سے غایتِ درجہ تعلق تھا جیسا کہ شاہ عبدالعزیزؒ صاحب کی تحریروں سے ظاہر ہے۔ اتنا بڑا بہتان سنا اور وہ چمیں بہ جہیں نہ ہوئے۔

اس قسم کی باتوں سے کہانی بھری پڑی ہے۔ مولانا خیر الدین جن کو ایک پاکباز اور تقدس مآب کی حیثیت سے بار بار پیش کیا گیا ہے۔ انھوں نے وہابیوں، اسماعیلیوں اور اسحاقیوں کو تمام عمر جو کوری کوری سنائی ہیں اس سے تو کتاب کا بڑا حصہ لبریز ہے۔

مولانا خیر الدین کا سفر عراق:

”انھوں نے (عراق کا سفر کیا اور چھ سات ماہ ٹھہرے اس زمانہ میں شیخ عبدالرحمن نقیب الاشراف تھے۔ ان کے یہاں مہمان ہوئے، ان سے طریقہ قادر یہ کی اجازت لی اور انھوں نے اُن سے طریقہ نقشبندیہ کی۔“ (کہانی ۸۱)

مولانا آزاد نے مولانا حبیب الرحمن شروانی مرحوم کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے:

”والد مرحوم جب ۱۲۹۱ھ میں عراق گئے تھے تو سید عبدالرحمن نقیب مرحوم کے والد سید علی سجادہ نشین تھے۔ انھیں کے یہاں ٹھہرے۔“ (کاروان خیال ص ۷۵)

معلوم نہیں ان دونوں باتوں میں کون سی بات صحیح ہے۔ آیا وہ شیخ عبدالرحمن نقیب الاشراف کے زمانے میں عراق گئے تھے یا سید علی کے زمانے میں؟

پوری کتاب سے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ مولانا خیر الدین سلسلہ نقشبندیہ میں کس بزرگ سے بیعت تھے؟ اور یہ بھی تعجب ہے کہ مولانا خیر الدین نے صاحبِ روح المعانی پر حیات و مماتِ خضر کے مسئلہ میں اعتراض کرتے وقت یہ غور نہ فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بلند پایہ صاحبِ علم ظاہری و باطنی بزرگ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ خود حیاتِ خضر کے قائل نہیں ہیں؟ مکتوباتِ معصومیہ میں ان کا مکتوب اور اس کے دلائلِ ملاحظہ فرمائیے تو پھر شاید اس مسئلہ پر قلم اٹھانے کی ہمت نہ فرماتے۔

مولانا آزاد کا سفر عراق و حجاز:

مولانا کے بھائی کے تذکرہ میں ہے کہ: ”بلاد اسلامیہ کی سیاحت کا ان کو بہت شوق تھا چنانچہ اسی سلسلہ میں جب ایک ساتھی یعنی حافظ عبدالرحمن امرتسری مل گئے تو انھوں نے عراق کا ارادہ کیا۔ عراق ہم دونوں ساتھ گئے لیکن میں وہاں پہنچ کر سخت بیمار ہو گیا اور واپس چلا آیا۔ (کہانی ص ۱۷۹)

اس موقع پر سن روایتی نہیں بیان کیا گیا لیکن ص ۳۱۱ پر ہے:

”۱۹۰۳ء میں ایسے حالات پیش آئے کہ میں عراق چلا گیا اور پھر کوئی نمبر ”لسان الصدق“ کا نہیں نکلا۔ وہاں سے واپس آیا تو مولانا شبلی مرحوم سے ملاقات ہوئی۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔“ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفر ۱۹۰۳ء میں اپنے برادر بزرگ کی معیت میں ہوا۔ مولانا واپس آگئے اور وہ وہیں رہے اور اواخر ۱۹۰۶ء میں وہ صاحب فراش ہو کر واپس آئے۔ حتیٰ کے اوائل ۱۹۰۷ء میں کلکتہ میں ان کا انتقال ہو گیا گویا وہ تقریباً تین سال بلاد اسلامیہ کی سیاحت میں مصروف رہے۔ مولانا وسط ۱۹۰۳ء میں واپس آگئے تھے۔ اسی زمانہ میں مولانا شبلی سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی اور مولانا نے انھیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی اور اللہ وہ سے ان کے تعلق پر اصرار کیا۔ چنانچہ کہانی میں ہے: ”دو تین ہفتہ بعد وہ حیدرآباد چلے گئے اور وہاں سے برابر خطوط بھیجتے رہے کہ میں حیدرآباد آؤں۔ (ص ۳۱۳) ص ۳۱۴ پر اللہ وہ کی ادارت کے سلسلہ میں ہے۔

یہ ٹھیک اس وقت کی بات ہے کہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا اور لکھنؤ میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس تھا۔ میں اور بھائی مرحوم اس کی شرکت کی غرض سے لکھنؤ پہنچے تھے اور وہیں مولانا کا خط مجھے ملا تھا۔“

کانفرنس کا یہ اجلاس لکھنؤ میں دسمبر ۱۹۰۳ء میں منعقد ہوا تھا جس میں مولانا نے اپنے بھائی مرحوم کے ساتھ شرکت کی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے بھائی دسمبر ۱۹۰۳ء میں ہندوستان میں موجود تھے۔ پھر ۱۹۰۳ء میں ان کی معیت میں عراق کا سفر کس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں بھائیوں کی دسمبر ۱۹۰۳ء میں کانفرنس میں شرکت کی تائید مولانا ضیاء الحسن علوی ندوی مرحوم کے ایک مضمون سے بھی ہوتی ہے جو اللہ وہ ۳۳-۱۹۳۲ء میں ان دونوں بھائیوں کی لکھنؤ میں ملاقات کے متعلق شائع ہوا ہے۔ لکھنؤ سے واپسی پر مولانا چند ماہ بمبئی میں رہے اور لکھنؤ نہ جاسکے لیکن آخر کار ”اس مرتبہ میں نے قطعی فیصلہ کر لیا اور لکھنؤ پہنچ گیا..... اور اللہ وہ کی ایڈیٹری انھوں نے میرے متعلق کر دی۔ تقریباً سات آٹھ مہینہ وہاں

قیام رہا۔“ (ص ۳۱۴) (جولائی ۱۹۰۵ء لغایت فروری ۱۹۰۶ء)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا قیام ۱۹۰۳ء سے اوائل ۱۹۰۶ء تک بمبئی اور لکھنؤ میں رہا۔ مارچ ۱۹۰۶ء میں پھر بمبئی گئے اور لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے معا بعد جو اپریل ۱۹۰۶ء میں منعقد ہوا تھا ”وکیل“ کی ادارت سنبھالی اور اپنے بھائی کے انتقال تک امرتسر میں رہے۔ بھائی کے انتقال کی خبر معلوم ہونے پر (اوائل ۱۹۰۷ء میں) ادارت وکیل چھوڑ کر کلکتہ چلے گئے اور چند ماہ قیام کے بعد پھر امرتسر واپس آئے اور دوبارہ وکیل کے فرائض ادارت انجام دئے جون ۱۹۰۸ء تک امرتسر رہے۔ پھر ترک تعلق کر کے بھوپال آ گئے جولائی ۱۹۰۸ء میں پونہ چلے گئے اور وہیں قیام تھا کہ والد کی شدید علالت کا ایک تار سے علم ہوا اور کلکتہ چلے گئے۔ جس روز پہنچے اس کے چند گھنٹے بعد والد ماجد کا انتقال ہو گیا (دسمبر ۱۹۰۸ء میں) دیکھئے آزاد کی کہانی ص ۳۲۱ تا ۳۲۵

ان تمام تحریروں سے ثابت ہوا کہ ۱۹۰۳ء سے ۱۹۰۸ء تک مولانا کا قیام مسلسل ہندوستان میں رہا اور وہ ہندوستان سے باہر کہیں نہیں گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کے بڑے بھائی ۱۹۰۳ء میں اپنے والد کے ساتھ دوبارہ حجاز چلے گئے تھے اور مولانا جنھیں گھر کی زندگی سے کئی سال پہلے دل برداشتگی ہو گئی تھی اور اب تک باقی تھی (ص ۳۱۴) بمبئی ہی میں مقیم رہے اور ”لسان الصدق“ نکالتے رہے۔ بڑے بھائی والد کے ساتھ (جو اواخر ۱۹۰۳ء میں حجاز سے واپس آئے تھے ص ۱۴۴) واپس آ گئے اور دسمبر ۱۹۰۳ء میں مولانا کے ساتھ لکھنؤ کانفرنس میں شرکت کی۔ مولانا اس کے بعد ”الندوہ“ سے متعلق ہو گئے اور پھر وکیل سے۔ ۱۹۰۶ء میں جب مولانا وکیل میں تھے ان کے بھائی تبرعا عراق و بلاد اسلامیہ کی سیاحت کی غرض سے گئے اور وہاں سے جو خطوط بھیجتے تھے وہ ”وطن“ امرتسر میں برابر شائع ہوتے رہتے تھے (ص ۱۷۸)۔ مولانا کا ان پانچ سال ۸ تا ۱۲ء میں عراق کا سفر کسی طرح صحیح نہیں۔

کہانی میں سفر عراق ۱۹۰۳ء میں بتایا گیا ہے لیکن کاروان خیال کے جس خط میں سفر عراق کا ذکر فرماتے ہیں اس وقت اپنی عمر ۲۰-۲۱ سال کی بتائی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شک و انکار کے بعد یقین و اعتقاد کا حصول، عقلیت و الحاد کے بعد حقیقت کی روشنی نمودار ہو چکی تھی۔ (ص ۴۲۶) تو یہ زمانہ ۸-۹ء کا ہوتا ہے اور اس وقت اُن کے بڑے بھائی وفات پا چکے تھے۔ مولانا کا قیام والد کی وفات سے پہلے اور اس کے بعد اجراء ”الہلال“ ۱۹۱۲ء تک مسلسل و غیر منقطع طور پر ہندوستان ہی میں رہا۔ لہذا اس

زمانہ میں بھی جیسا کہ مذکورہ بالا حوالہ جات سے ثابت ہے یہ سفر نہیں ہو سکتا۔

کہانی میں عراق کا جانا بھائی کی معیت میں بتایا گیا ہے لیکن مولانا نے اپنے مکتوب کاروان خیال میں جو کوائف تحریر فرمائے ہیں اس میں کہیں بھائی کی موجودگی کا تذکرہ بھی نہیں اور یہ ممکن نہ تھا کہ دونوں بھائی ساتھ ہوں اور چھوٹے بھائی کی تو علماء و اکابر عراق پذیرائی کریں اور بڑے بھائی کو جو کسی لحاظ سے بھی ان سے کم نہ تھے پوچھیں تک بھی نہیں۔ نیز ۱۹۰۴ء میں مولانا شک و انکار کے دور میں تھے پھر اس وقت علامہ نعمان آلوسی زادہ کا ”من این اخذت ہذا لشراب“ کہنا کیا معنی رکھتا ہے۔

ان مسلسل واقعات کی روشنی میں جو مولانا کی اس کہانی میں موجود ہیں عراق کا سفر تنہا یا بھائی کی معیت میں ۱۹۰۴ء میں یا اس کے بعد ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ۱۹۰۵ء میں سفر جاز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ جب کہ دسمبر ۱۹۰۴ء لغایت اپریل ۱۹۰۶ء مولانا کا قیام مسلسل بمبئی اور لکھنؤ رہا۔ ۱۹۰۵ء کا حج ۱۳ فروری ۱۹۰۵ء میں اور ۱۹۰۶ء کا ۳ فروری ۱۹۰۶ء میں ہوا اور اس زمانہ میں بھی مولانا اندوہ کے ایڈیٹر اور لکھنؤ میں قیام پزیر تھے۔ پھر یہ سفر کس طرح ۱۹۰۵ء میں ہو سکتا ہے۔

الفرض مولانا کی زندگی کے مسلسل واقعات سے یہ امر ثابت اور ناقابل بطلان ہے کہ وہ ۱۸۹۵ء میں (جب کہ ان کی عمر سات سال کی تھی) ہندوستان آنے کے بعد ۱۹۵۱ء تک ہندوستان سے کہیں باہر نہیں گئے۔ مولانا سید سلیمان ندوی جن کے مولانا سے پچاس سال تک برابر تعلقات رہے۔ علمی و سیاسی معیت و رفاقت بھی برابر رہی۔ الہلال میں بھی کچھ عرصہ بحیثیت رفیق و معین کار مولانا کی اعانت فرمائی اور جو مولانا کی نجی زندگی، مشاغل گھریلو حالات اور سفر و حضر کے واقعات سے پورے پورے واقف تھے ایک موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ:

”مولانا جب سے وادی غیر ذی زرع سے ہندوستان آئے پھر کبھی ہندوستان سے باہر نہیں گئے۔“

اسی طرح ۱۹۰۱ء میں لاہور کا سفر انجمن حمایت الاسلام کے اجلاس میں شرکت، مولانا حالی سے ملاقات بحیثیت مدیر لسان الصدق تھا۔ تعارف بھی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ لسان الصدق کا اجراء ۱۹۰۲ء میں ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ہے اور ندوہ کا یہ اجلاس اواخر ۱۹۰۱ء میں منعقد ہوا تھا۔ تو پھر جب ۱۹۰۱ء میں لسان الصدق جاری نہیں ہوا تو اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے تعارف اور مولانا حالی کا

استعجاب کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ غالباً اس موقع پر ضبط سن میں تسامح ہوا ہے۔ ص ۳۳۲ پر انجمن حمایت الاسلام میں لکچر کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفر مارچ ۱۹۰۲ء میں ہوا۔ مولانا نے ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد لاہور پہنچنے سے پہلے شیخ عبدالقادر کو خط لکھ دیا تھا اور شیخ عبدالقادر سے ندوۃ العلماء کے جلسہ کے موقع پر ملاقات ہو چکی تھی۔ غالباً اسی اجلاس انجمن حمایت الاسلام لاہور میں جو ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ان کی مولانا حالی سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی جیسا کہ ان کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ انجمن میں دوسرے سال پھر گیا اور تقریر کی (یعنی ۱۹۰۲ء کے اجلاس انجمن کے بعد ۱۹۰۳ء میں) مولانا حالی مرحوم سے ملاقات کا حال پہلے کہہ چکا ہوں جو اس سے پہلے سفر میں یعنی ۱۹۰۲ء کے سفر میں حاصل ہوئی تھی۔

بہر حال ہندوستان کے اسفار اخبار و رسائل کے اجراء اور ان کی تقدیم و تاخیر ظاہر کرنے کے لئے بیشتر تو سنین کا تذکرہ ہی نہیں اور اگر ہے تو وہ تضاد و تناقض سے خالی نہیں۔

۷

۱۔ کہانی ص ۳۳۲ (رضوی) ۲۔ کہانی ص ۳۳۳ (رضوی) ۳۔ اس آخری عنوان کا کل مضمون مولانا حکیم سید حسن ثنی صاحب رضوی کے رشمات قلم کا نتیجہ ہے۔ (فریدی)

مرتب کی دیگر کتابیں اور مبصرین

”سیرت ذوالنورین“ مبصر: مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری مدیر ماہنامہ ندائے شاہی امرآباد
 مولانا محبت الحق صاحب مدعوینی، مقیم حال امر وہہ حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی امر وہی کے خصوصی
 تربیت یافتہ شاگرد ہیں۔ ترتیب و تالیف کا بھی شوق ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے حالات اور مکتوبات پر مشتمل آپ کی
 تالیف ”فیضان نسیم“ کے عنوان سے شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہے۔ زیر تبصرہ رسالہ ”سیرت ذوالنورین“ خلیفہ ثالث حضرت
 عثمان غنی کی حیات مقدسہ پر لکھا گیا۔ موصوف کا ایک عام فہم اور جامع مقالہ ہے جسے آپ نے دس بارہ سال قبل لکھا تھا اور
 حضرت مفتی صاحب کو لفظاً لفظاً سنایا بھی تھا مگر اس کی اشاعت کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اب یہ رسالہ بعض اصحاب خیر کے مالی
 تعاون سے شائع ہوا ہے۔ رسالہ کی زبان سادہ اور تصنع سے خالی ہے۔ عوام اس سے بخوبی استفادہ کر کے حضرت عثمان غنی
 کے مقام رفیع کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسالہ کے شروع میں حضرت مولانا سید طاہر حسن امر وہی اور مولانا اخلاق حسین
 صاحب قاسمی کی تقریظات اور آخر میں حضرت مفتی صاحب کی ایک نظم در مدح حضرت عثمان بھی شامل ہے۔ جس سے
 رسالہ کی رونق بڑھ گئی ہے۔

”مکتوبات مشاہیر“ مبصر: مولانا عبدالحمید نعمانی (ہفت روزہ الجمعہ نئی دہلی)

خطوط و مکتوبات انسان کے اصل اور فطری خیال کا آئینہ ہوتے ہیں۔ تحریر اور تقریر میں حالات اور مخاطب کے لحاظ
 سے بسا اوقات اپنی جگہ سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے یا نیچے آنا پڑتا ہے۔ لیکن خطوط نگاری میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مکتوب نگار اور مکتوب
 الیہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ خط مکتوب الیہ کے سوا دوسرے بھی پڑھیں گے۔ کچھ بتایا جاتا ہے،
 کچھ پوچھا جاتا ہے اور اس میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ مکتوب نگار اور مکتوب الیہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے اصل
 حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ بات حقیقت و صداقت پر مبنی ہے کہ کسی کو سمجھنے کے لئے سب سے معتبر اور بہتر
 ذریعہ اس کے خطوط ہوتے ہیں۔ مکاتیب نبوی اور صحابہ و تابعین کے مکاتیب اس کے روشن نمونے ہیں۔ بعد کے دور میں
 حضرت شیخ شرف الدین عینی، میر تقی میر، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی اور سید احمد شہید کے مکتوبات علم و عرفان اور حقائق و معارف
 کے خوبصورت نمونے ہیں۔ اردو میں علامہ شبلی نعمانی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا آزاد،
 مولانا مودودی اور شعراء وادباہ میں غالب، اقبال، رشید احمد صدیقی، عبدالحق، نواب یار جنگ اور جان نثار اختر وغیرہم کے
 مکتوبات قابل مطالعہ ہیں۔ ادھر ماضی قریب اور حال کے برسوں میں بڑی تعداد میں خطوط و مکتوب کے مجموعے اشاعت
 پزیر ہوئے ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ دینی و مذہبی حلقوں میں مکاتیب کی اشاعت پر توجہ دی جا رہی ہے۔ مولانا سید ابوالحسن
 علی ندوی کا ایک اچھا مجموعہ ”مکتوبات“ بنام عبدالکریم پارکھی سامنے آیا ہے۔ مولانا مفتی ظفر الدین مفتی دارالعلوم دیوبند کے نام
 مجموعہ رسالات اور مولانا حمید الدین فرانی، مولانا حمید اللہ مبارک پورٹی کے مکاتیب بھی خاصے کی چیز ہیں۔ جناب مولانا محبت
 الحق صاحب کا مرتب کردہ مجموعہ مکتوبات مشاہیر بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اگرچہ اس نام سے اور بھی خطوط کے مجموعے

شائع ہو چکے ہیں تاہم اس زیر تبصرہ مجموعہ کی الگ حیثیت ہے۔ مولانا محبت الحق صاحب بہت محنتی اور لگن کے آدمی ہیں۔ انھیں محقق شہیر مولانا مفتی نسیم احمد فریدی امر وہی کی بابرکت فیض بخش صحبت و خدمت میں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ انھوں نے دیکھا ہے کہ کام کی تحقیق و تصنیف کا کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ مرتب موصوف کی دو کتاب ”فیضان نسیم“ اور ”مکتوبات نعمانی“ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ دونوں کتابوں کی ترتیب و تویب کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ مرتب میں تویب و ترتیب کا سلیقہ پایا جاتا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں ان کی یہ صلاحیت اور سلیقہ مندی اور زیادہ نظر آتی ہے۔ انھوں نے مکتوبات مشاہیر میں صرف یہ نہیں کیا ہے کہ نواب آخون عزیز الہی خاں کو مختلف اہل قلم کے لکھے مکاتیب کو ترتیب سے جمع کر دیا ہے بلکہ مرتب موصوف نے بہت سے مکتوب نگاروں کے تعارف کے ساتھ ان کے کام پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یہ کام انھوں نے بڑی محنت سے کیا ہے۔ خط لکھنے والے علماء، صحافی، دانشور اور ادباء جیسے قبیل کے جو افراد ہیں ان کی تعداد ۷۲ ہے۔ ان میں سے ۳۲ مکتوب نگاروں کا تعارف دیا گیا ہے۔ بقیہ کے حالات نہیں مل سکے ہیں۔ ”مکتوبات مشاہیر“ کے بعض خطوط بہت کام کے ہیں۔ دیگر مکاتیب سے بہت سی مفید باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ مکتوب نگاروں میں سے یہ حضرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ مولانا شاہ عبدالقادر رائے پورٹی، مولانا شاہ وصی اللہ آبادی، مولانا منظور نعمانی، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مفتی نسیم احمد فریدی، حکیم عبدالرشید محمود، مولانا سید محمد میاں دیوبندی، مولانا عبدالماجد دریا آبادی، مولانا عبدالباری ندوی، مولانا مطلوب عثمانی، مولانا احتشام الحسن، مولانا تقی الحق، مولانا قاری محمد طیب اور مولانا منت اللہ رحمانی۔ بقید حیات حضرات میں مولانا اخلاق حسین قاسمی، مولانا زین العابدین، مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی، مولانا محمد ظفر، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، مولانا عتیق الرحمن سنبھلی کے نام خاص طور سے لئے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے مکتوبات کے مجموعے بڑے کام کے اور معلومات افزا ہوتے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب بھی ایک اچھی کوشش ہے البتہ معیاری کتابت پر تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس میں یکسانیت بھی نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے کتاب کا حسن متاثر ہوا ہے۔ کچھ اور توجہ کی ضرورت ہے۔ مثلاً ص ۱۷ پر مولانا نعمانی کی کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی پیشہ تصنیفات ہیں۔ یہاں بہت سی کاٹل تھا۔ ص ۱۹ پر مولانا علی میاں ندوی کی مشہور کتابوں میں سیرت سید احمد شہید کا ذکر ہونا چاہئے۔ ص ۶۰ پر مولانا زین العابدین عکلم کے ذکر کے تحت لکھا ہے کہ غالباً مولانا عبدالجبار عظمیٰ سے اجازت بیعت حاصل ہے۔ مولانا عکلم مظاہر علوم سہارنپور میں تخصص فی الحدیث کے استاذ ہیں۔ ان سے ایک خط لکھ کر یا فون سے معلوم کیا جاسکتا تھا کہ ان کو آیا مولانا عظمیٰ سے اجازت بیعت حاصل ہے۔ اس صورت میں غالباً کی ضرورت نہیں رہ جاتی بلکہ یقینی بات سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے تحقیق دو بالا ہو جاتی۔ ص ۸۱ پر حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی کے خط میں براہ مہربانی کو برائے مہربانی کتابت کر دیا ہے۔ صحیح لفظ براہ ہے۔ ص ۸۷ پر مکتبہ فکر لکھا ہے۔ یہ غلط ہے۔ صحیح کتب فکر ہے۔ یہ انگریزی لفظ اسکول آف تھات کا ترجمہ ہے۔ مکتبہ اس لحاظ سے بے معنی لفظ ہے۔ پہنچنے کو کتاب میں یہ لکھا ہے یہ غلط امل ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اڈیشن اس طرح کی غلطیوں سے پاک ہوگا خاص طور سے کتابت کی یکسانیت ہونی چاہئے۔ اس طرح کی غلطیوں کو چھوڑ کر مکتوبات مشاہیر ایک مفید کتاب ہے۔ امید ہے کہ اس سے علماء، صوفیاء اور دانشوروں کے علمی و مفید غیر مطبوعہ مکاتیب کی اشاعت کو تعویت ملے گی اور دوسرے حضرات کو بھی اس طرح کے کام کے لئے تحریک ملے گی۔



دیگر اردو مطبوعات

از پروفسر کمال الدین حسین	تذکرہ اطباء اودھ
از حضرت مولانا مولوی محمد حسن	مشائخ نقشبندیہ مجددیہ
از پروفسر خلیق احمد نقوی	تاریخ مشائخ چشت (حصہ اول)
از پروفسر خلیق احمد نقوی	تاریخ مشائخ چشت (حصہ پنجم)
از پروفسر خلیق احمد نقوی	سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات
از پروفسر خلیق احمد نقوی	ماخذ مولانا ابولکلام آزاد
از مولانا قاسم نانوتوی	فرانڈ قاسمیہ
از جلال الدین جہاں گشت	جامع العلوم
از جلال الدین جہاں گشت	سراج الہدایہ
از حفصا الملک حکیم رشید احمد خاں	حیات اجمل



۲۷

مقالات فریدی

حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی امروی کے مقالات
(جلد اول)

جامع و مرتب:
مولانا محب الحق